


(رجسٹرڈ)

# امامیہ جانتری

## 2020



### Imamia Jantri®



GET IT ON  
Google Play



Download on the  
App Store

f IMAMIAJANTRIOFFICIAL

WEB: WWW.IMAMIAJANTRI.COM

افتخار بک ڈپو (رجسٹرڈ) اسلام پورہ لاہور پوسٹ کوڈ 54000  
Main Bazar Islampura, Lahore. Tel: +92 42 37223686



Iftikhar®  
BOOK DEPOT  
ESTB 1955

www.humaliwalayazar.com

ہم علی والے عزادار ڈاٹ کام



حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام

حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا

حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام

جَمِيعًا وَ لَا تَفَرَّقُوا (الذَّانِ) پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا۔



وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط

حضرت امام علی علیہ السلام

حضرت امام علی رضا علیہ السلام

# امامیہ جنتری

حضرت امام حسن علیہ السلام

حضرت امام محمد تقی علیہ السلام

سنة 2020

حضرت امام حسین علیہ السلام

حضرت امام علی نقی علیہ السلام

زیر سرپرستی سرکار قائم آل محمد

حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام

حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام

حضرت امام مہدی آخر الزماں علیہ السلام

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام

امامیہ جنتری کا بیانیہ ایک رجسٹریشن نمبر 9573 کے تحت رجسٹرڈ ہے۔ کوئی ناشر اس کا جعلی ایڈیشن شائع کرے گا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔

سید عباس سلطان	تقویم	الحاج مولانا فیاض حسین جعفری	زیر نگرانی
شیخ زوار رضا جاوا	زائچے	آغا افتخار حسین	مدیران
غلام رضا عسکری	کوائف سیارگان	آغا علی فرزا	مجلس مشاورت
آغا علی فرزا	سرورق	کیپٹن مظہر حسن زیدی، سید عباس سلطان	
سید علی عمران کاظمی	کیوننگ	پروفیسر اقبال احمد رضا حسن مرزا	



مستنصر حسین	پیسٹنگ	قانونی مشیر	سید نوید عباس الیہ داکٹ (لاہور لاہوری ایس ایس)	صاحب عباس، محمد عباس بھٹائی	معاونین
فیضان عامر پرنس پرنٹر، فارما ٹیکنیکرز	مطبوع	STAMP		مونس رضا، صادق علی بٹ	Iftikhar BOOK DEPOT
ملک خرم شہزاد (ملک بک، انڈیا)	بائسٹنگ			محمد اشرف، محمد اکرم، محمد جاوید	

افتخار بک ڈپو (رجسٹرڈ) اسلام پورہ لاہور فون 37223686 رعایتی قیمت - 200/-  
پوسٹ کوڈ 54000 علاوہ ڈاک خرچ

اصلی امامیہ جنتری خریدنے کے لیے سرورق (ٹائٹل) پر چمکنے والی (Original) کی سٹیپ اور معیار ضرور چیک کریں

امامیہ جنتری خریدنے کے لیے سرورق (ٹائٹل) پر چمکنے والی (Original) کی سٹیپ اور معیار ضرور چیک کریں

حقوق محفوظ رکھنے کے تحت محفوظ ہیں

(9573 نمبر)

صفحہ نمبر	ترتیب مضامین
3	اسمائے باری تعالیٰ جلالہ
4-6	حضرت رسول اکرم ﷺ، مولا علی، بی بی فاطمہ کے القابات
7	قرآنی سورتوں کے اعداد قمری (گلگام علی حسینی)
9	سولائے کا اہم خطبہ (سج البلاغہ)
13	تقویم کی تقسیم (مولانا فیاض حسین جعفری)
15	ہر آرزو کی تکمیل کے لیے مخفی اسم اعظم (آغا حسین احمد)
17	لوح ننانوے اسمائے الحسنی (راجہ افتخار حسین)
19	قل هو اللہ احد (غابد حسن علوی)
21	عمل حاجت روائی (الودود) (راجہ اعجاز حسین)
22	اسرار و رموز سورۃ فاتحہ (زیب النساء خواجہ)
28	فضیلت و خواص نادعلی صغیر (سبارک حسین شاہ)
30	قرآن کریم سے مسائل کا حل (حیدر شاہ شیرازی)
32	بارگاہ عالم یزل تاثیر بے مثل (سید فضل حسین شیرازی)
35	سورۃ یسین وچ فرسین برائے مومنین (علی رضا رضوی)
39	پانچھ پن کارو حانی تریاق (عابس شہید)
41-48	نوروز عالم افروز۔ عالی دشمن گویاں ملکی و عالی (غلام رضا سکری)
50-80	تقویم کیفیت سیارگان و نظرات سیارگان (غلام رضا سکری)
85	علم نجوم ایک معتبر روحانی علم (ابن مظفر شیرازی)
89	جنراز اسمائے نورانیہ (غلام عباس اعوان)
91	خوشحال کاروبار اعداد کے آئینہ میں (محمد اکمل خان)
95	علم بریل کی افادیت (مولانا عابد قنبری)
97	جادو (ڈاکٹر سید مسرور حسین رضوی)
101	روزگار و شادی اولاد (غلام رضا سکری)
105	دعا اور شفا یابی (سید محمد اجمل)
107	علم الاعداد کا مجرب فالنامہ (سید خویر حیدر نقوی)
108	شادیاں ناکام کیوں ہوتی ہیں؟
113	یک سالہ زائچے 2020 (زوار رضا جاوید)
140	نہرست کتب۔ اشتہارات

اصلی امامیہ جنتی خریدنے کے لیے سرورق (انٹرنل) پر چمکنے والی (Original) کی اسٹیٹیا اور معیار ضرور چیک کریں

**استکارہ قرآن مجید** یہ استکارہ حضرت امیر المومنین علیؑ کے

ارشاد کردہ ہے اور علمائے کرام کا مصدق ہے۔ جسے کسی ایک نماز کے بعد تین مرتبہ سورۃ توحید اور درج ذیل دعا اول و ثانیہ صلوٰت کے ساتھ پڑھ کر قرآن مجید کھولیں اور دائیں والے صفحہ کی سطر اول کے حکم پر عمل کریں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ تَفَالَتْ بِكِتَابِکَ وَتَوَكَّلْتُ عَلَیْکَ فَارِنِیْ مِنْ کِتَابِکَ مَا هُوَ الْمَكْتُوْمُ مِنْ سَمَکَ الْمَكْتُوْنِ فِیْ عَیْبِکَ

**استکارہ تسبیح** یہ استکارہ حضرت صاحب العصر سے

منسوب ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ باہم قبیلہ کی طرف منہ کر کے تسبیح پڑھیں ہاتھ میں اس طرح پکڑے جہاں سے تسبیح پکڑی جاتی ہے۔ جس کام کے لیے نیت کی ہے اس کو ذہن میں رکھ کر پہلے تین مرتبہ صلوٰت پڑھ کر درج ذیل دعا پڑھ کر پھر تین مرتبہ صلوٰت پڑھیں اور آنکھیں بند کر کے دانوں پر ہاتھ ڈالے اور دو بار شمار کرے اگر ایک دان بچے تو خوب (ہاں) ہے ورنہ منع ہے

اَسْتَجِیْرُ اللّٰهَ بِرُحْمَتِہِ خَیْرًا فِیْ عَاقِبَۃِ

میں خیر طلب کرتا ہوں اسکی رحمت کیساتھ ایسی خیر جس میں عاقبت ہو

دن	اوقات استکارہ
جمعہ	صبح صادق سے طلوع آفتاب تک۔ زوال سے عصر تک
ہفتہ	صبح صادق سے چاشت تک۔ عصر سے عصر تک
اتوار	صبح صادق سے ظہر تک۔ عصر سے مغرب تک
سہوار	صبح صادق سے طلوع آفتاب تک۔ چاشت سے عصر تک۔ عصر سے مشاہد تک
منگل	چاشت سے ظہر تک۔ عصر سے مشاہد تک
بدھ	صبح صادق سے ظہر تک۔ عصر سے مشاہد تک
جمعرات	صبح صادق سے طلوع آفتاب تک۔ عصر سے مشاہد تک

**انتباہ** امامیہ جنتی (رجسٹرڈ) پاکستان کاپی رائٹ ایکٹ 1973ء

کرومنٹ آف پاکستان کے تحت رجسٹرڈ ہے لہذا اس کی نقل یا جعلی ایڈیشن شائع کرنا قانونی خلاف ورزی ہے۔ جعلی ایڈیشن شائع کرنے والوں پر نروخت کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں آئی جائے گی۔ جنتی میں دئے گئے تمام آرٹیکل اور اشتہارات نامہ ایک نئی جنتی کے شائع کئے گئے ہیں۔ کسی بھی مضمون یا اشتہار کے غیر حقیقی ہونے پر ادارہ ہرگز ذمہ دار نہیں ہے۔ ایبٹ آبادی شکاریت اور رائے سے ضرور مطلع کریں۔ (رجسٹریشن نمبر 9573)

افتخار بنگ ڈپو (رجسٹرڈ) بین بازار اسلام پورہ لاہور نمبر 54000





# اسمائے باری تعالیٰ

جدول بقاعدہ جعفر معہ حروف باطن

اصلی اما صبیہ جعفری خریدنے کے لیے سرورق (ٹائل) پر چمکنے والی (Original) کی اسٹیمپ اور مضامین ضرور چیک کریں

۶۶ اللہ	۲۹۸ الرَّحْمَنُ	۲۵۸ الرَّحِيمُ	۹۰ الْمَلِكُ
۱۷۰ الْقُدُّوسُ	۱۳۱ السَّلَامُ	۱۳۶ الْمُؤْمِنُ	۱۳۵ الْمُهِيمُنُ
۶۶۲ الْمُتَكَبِّرُ	۷۳۱ الْخَالِقُ	۲۱۳ الْبَارِي	۳۳۶ الْمُصَوِّرُ
۱۳ الْوَهَّابُ	۳۰۸ الرَّزَّاقُ	۲۸۹ الْفَتَّاحُ	۱۵۰ الْعَلِيمُ
۱۲۸ الْخَافِضُ	۳۵۱ الرَّافِعُ	۱۱۷ الْمَعزُزُ	۱۸۰ السَّمِيعُ
۶۸ الْحَكَمُ	۱۰۳ الْعَدْلُ	۱۲۹ اللَّطِيفُ	۸۱۲ الْخَبِيرُ
۱۲۸۶ الْغَفُورُ	۵۲۶ الشَّكُورُ	۱۱۰ الْعَلِيُّ	۲۳۲ الْكَبِيرُ
مشرق الْحَسِيبُ	۷۳ الْجَلِيلُ	۲۷۰ الْكَرِيمُ	۳۱۲ الرَّقِيبُ
جہاں الْحَكِيمُ	جہاں الْوَدُودُ	۵۷ الْمَجِيدُ	مشرق الْبَاعِثُ
جہاں الْوَكِيلُ	جہاں الْقَوِيُّ	۵۰۰ الْمَتِينُ	مشرق الْوَلِيُّ
جہاں الْمُبْدِي	جہاں الْمَعِيدُ	۲۸ الْمُحْيِي	جہاں الْمُمِيتُ
جہاں الْوَاحِدُ	جہاں الْمَاجِدُ	مشرق الْوَاحِدُ	جہاں الْأَحَدُ
جہاں الْمُقْتَدِرُ	مشرق الْمُقَدِّمُ	مشرق الْمَوْجِرُ	مشرق الْأَوَّلُ
مشرق الْبَاطِنُ	جہاں الْوَالِي	مشرق الْمَتَعَالِي	جہاں الْبَرُّ
جہاں الْعَفْوُ	جہاں الرَّعُوفُ	جہاں مَالِكُ الْمَلِكِ	جہاں ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
مشرق الْجَابِعُ	مشرق الْغَنِيُّ	جہاں الْمَغْنِيُّ	جہاں الْمَانِعُ
مشرق النُّورُ	جہاں الْقَادِي	جہاں الْبَاقِي	جہاں الْوَارِثُ
جہاں الْبَدِيعُ	جہاں السَّتَّارُ	جہاں الْمُنْعِمُ	

# اسمائے مبارکہ و القابات

## حضور پر نور رسول اکرم ﷺ

### مع حروف باطن و اعداد

مُحَمَّدٌ ﷺ ۹۲ بطن	أَحْمَدٌ ﷺ ۵۳ بطن	حَامِدٌ ﷺ ۵۳ بطن	مَحْمُودٌ ﷺ ۹۸ بطن	قَاسِمٌ ﷺ ۲۰۱ بطن	عَاقِبٌ ﷺ ۱۷۳ بطن
فَاتِحٌ ﷺ ۲۸۹ بطن	شَاهِدٌ ﷺ ۳۱۰ بطن	حَاشِرٌ ﷺ ۵۰۹ بطن	رَشِيدٌ ﷺ ۵۱۳ بطن	مَشْهُودٌ ﷺ ۳۵۵ بطن	بَشِيرٌ ﷺ ۵۱۲ بطن
نَذِيرٌ ﷺ ۲۶۷ بطن	دَاعٍ ﷺ ۷۵ بطن	شَافٍ ﷺ ۴۸۱ بطن	هَادٍ ﷺ ۱۰ بطن	مَهْدٍ ﷺ ۲۹ بطن	مَاحٍ ﷺ ۲۹ بطن
مُتَّجٍ ﷺ ۹۳ بطن	نَاهٍ ﷺ ۵۶ بطن	رَسُولٌ ﷺ ۴۹۲ بطن	نَبِيٌّ ﷺ ۶۲ بطن	أُمِّيٌّ ﷺ ۵۱ بطن	تِيهَامِيٌّ ﷺ ۲۵۶ بطن
هَاشِمِيٌّ ﷺ ۳۵۶ بطن	أَبْطَحِيٌّ ﷺ ۳۰ بطن	عَزِيزٌ ﷺ ۹۳ بطن	عَارِفٌ ﷺ ۴۵۱ بطن	رَهْوْفِيٌّ ﷺ ۲۸۶ بطن	رَحِيمٌ ﷺ ۲۵۸ بطن
طَهٌ ﷺ ۱۳ بطن	مُجْتَبَىٌّ ﷺ ۳۵۵ بطن	طَسٌ ﷺ ۳۹ بطن	مُرْتَضَىٌّ ﷺ ۱۳۵۰ بطن	حَمٌ ﷺ ۳۸ بطن	مُصْطَفَىٌّ ﷺ ۲۲۹ بطن
يَسٌ ﷺ ۷۰ بطن	أَوْلَىٌّ ﷺ ۲۷ بطن	مَزْمَلٌ ﷺ ۱۷ بطن	وَلِيٌّ ﷺ ۳۶ بطن	مُدْتَرٌ ﷺ ۷۳۳ بطن	مَتِينٌ ﷺ ۵۰۰ بطن
مُصَدِّقٌ ﷺ ۲۳۳ بطن	طَبٌ ﷺ ۲۱ بطن	نَاصِرٌ ﷺ ۴۳۱ بطن	مَنْصُورٌ ﷺ ۳۸۶ بطن	مُصْبِحٌ ﷺ ۱۳۱ بطن	مَامُورٌ ﷺ ۲۸۷ بطن
حِجَازِيٌّ ﷺ ۲۹ بطن	عَالِمٌ ﷺ ۱۳۱ بطن	قَرَشِيٌّ ﷺ ۳۱۰ بطن	صَابِرٌ ﷺ ۲۹۳ بطن	التَّقَى ﷺ ۵۱۰ بطن	حَافِظٌ ﷺ ۹۸۹ بطن
كَامِلٌ ﷺ ۹۱ بطن	صَادِقٌ ﷺ ۱۹۵ بطن	أَمِينٌ ﷺ ۱۰۱ بطن	عَبْدُ اللَّهِ ﷺ ۱۳۲ بطن	كَلِيمُ اللَّهِ ﷺ ۱۶۶ بطن	حَبِيبُ اللَّهِ ﷺ ۸۸ بطن
نَجِيُّ اللَّهِ ﷺ ۱۲۹ بطن	صَفِيُّ اللَّهِ ﷺ ۲۳۲ بطن	خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ ﷺ ۱۱۳۲ بطن	حَسْبِبٌ ﷺ ۸۰ بطن	مُجِيبٌ ﷺ ۵۵ بطن	شُكُورٌ ﷺ ۵۲۲ بطن
مُبَلِّغٌ ﷺ ۱۰۷۲ بطن	رَسُولُ الرَّحْمَةِ ﷺ ۹۷۵ بطن	قَوِيٌّ ﷺ ۱۱۳ بطن	حَفِيٌّ ﷺ ۹۸ بطن	مَامُونٌ ﷺ ۱۳۷ بطن	مَعْلُومٌ ﷺ ۱۸۶ بطن
حَقٌّ ﷺ ۱۰۸ بطن	مُبِينٌ ﷺ ۱۰۲ بطن	مُطِيعٌ ﷺ ۱۲۹ بطن	رَسُولُ الرَّاحَةِ ﷺ ۹۳۲ بطن	أَوَّلٌ ﷺ ۳۷ بطن	آخِرٌ ﷺ ۸۰۱ بطن
ظَاهِرٌ ﷺ ۱۱۰۲ بطن	بَاطِنٌ ﷺ ۲۳ بطن	نَبِيُّ الرَّحْمَةِ ﷺ ۷۳۱ بطن	يَتِيمٌ ﷺ ۳۶۰ بطن	كَرِيمٌ ﷺ ۲۷۰ بطن	حَكِيمٌ ﷺ ۷۸ بطن
خَاتَمُ الرُّسُلِ ﷺ ۱۳۶۸ بطن	سَيِّدٌ ﷺ ۷۳ بطن	سَرَّاجٌ ﷺ ۲۶۳ بطن	مُنِيرٌ ﷺ ۳۰۰ بطن	الْحَقُّ ﷺ ۱۳۹ بطن	مُكْرَمٌ ﷺ ۳۰۰ بطن
مُبَشِّرٌ ﷺ ۵۳۲ بطن	مُدْكِرٌ ﷺ ۲۶۷ بطن	مُطَهَّرٌ ﷺ ۲۵۳ بطن	قَرِيبٌ ﷺ ۳۱۲ بطن	خَلِيلٌ ﷺ ۶۷۰ بطن	مَدْعُورٌ ﷺ ۱۳۰ بطن
جَوَادٌ ﷺ ۱۳ بطن	خَاتَمٌ ﷺ ۱۰۳۱ بطن	عَادِلٌ ﷺ ۱۰۵ بطن	شَهِيرٌ ﷺ ۵۱۵ بطن	شَهِيدٌ ﷺ ۳۱۹ بطن	مَبْعُورٌ ﷺ ۶۱۸ بطن

بِسْمِ اللَّهِ  
 يَا مُحَمَّدُ يَا عَلِيُّ يَا فَاجِلَهُ يَا حَسَنُ يَا حُسَيْنُ  
**القابات امامت امير المؤمنين**  
**على ابن ابى طالب عليه السلام**

إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ
الْمُتَّقِينَ	الْمُسْلِمِينَ	الْعَارِفِينَ	الْوَاصِلِينَ	الْمَوْجِدِينَ	الْمُحَقِّقِينَ	السَّالِكِينَ	الْمُحْسِنِينَ	الصَّادِقِينَ
إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ
الْأَوْلَى	الْعُلَمَاءَ	الْمُتَعَبِدِينَ	السَّابِقِينَ	النَّبِيِّينَ	الْمَخْلُوقِينَ	الْعَادِلِينَ	الْمُتَعَلِّقِينَ	إِمَامٌ
إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ
الْمُرْشِدِينَ	الْمُبَشِّرِينَ	الْمُنْدِرِينَ	الْمُقِطِينَ	الْعَاشِقِينَ	الْمُقَرَّبِينَ	الرَّاشِدِينَ	الْمُتَوَكِّلِينَ	الشَّاهِدِينَ
إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ
الْمُتَكَلِّمِينَ	الطَّاهِرِينَ	الْمُبَارِزِينَ	الْمُعْظَمِينَ	الْأَجْرَدِينَ	الْقَارِئِينَ	الْمَالِكِينَ	الْمُفْلِحِينَ	إِمَامٌ
إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ
الرَّاكِعِينَ	السَّاجِدِينَ	الْمُتَكَوِّمِينَ	الْمُتَأَخِّرِينَ	الْمُحِبِّينَ	الرَّاسِخِينَ	الْوَاصِفِينَ	الْخَاشِعِينَ	الْمُكَبِّرِينَ
إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ
الْقَائِلِينَ	الْمُقَدِّمِينَ	الْأَلْفَجِينَ	الْبَادِلِينَ	الْمُكَمِّلِينَ	الْكَامِلِينَ	الْحَافِظِينَ	الْمُشْفِعِينَ	إِمَامٌ
إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ
الْمُكْرَمِينَ	الْقَائِلِينَ	الْمُهَاجِرِينَ	الشَّاهِدِينَ	الْمُطَهِّرِينَ	الْمُخَدِّومِينَ	الصَّامِتِينَ	الرَّافِعِينَ	الْأَطْهَرِينَ
إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ
الْأَنْمَةَ	الْمُلْهَمِينَ	الْمُقَاتِلِينَ	الْأَشْحَبِينَ	الْأَعْلَمِينَ	الْأَمِينِينَ	الزَّكِيِّينَ	الْأَوْرَعِينَ	إِمَامٌ
إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ
الْمُجْتَهِدِينَ	الْأَمْرِينَ	الْمُجَاهِدِينَ	الْخَطِيبِينَ	الْمُطِيعِينَ	الْمَبْرُورِينَ	الْمُقَارِنِينَ	الْخَاضِعِينَ	الْأَفْضَلِينَ
إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ
الْعَالِينَ	الْمُخَيَّرِينَ	الْمُتَقَدِّمِينَ	الْمُعَلِّمِينَ	الصَّابِرِينَ	الْمُظْفِرِينَ	النَّاظِرِينَ	الْعَالَمِينَ	إِمَامٌ
إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ	إِمَامٌ
الْمُحْسِنِينَ	الْمُعْطُورِينَ	الشَّهِيدِينَ	الْوَارِثِينَ	الْمُطِيبِينَ	الْأَكْمَلِينَ	الْكَاظِمِينَ	الْمُسَبِّحِينَ	الْمَعْتُورِينَ

اصلي اماميه جعفری خریدنی کے لیے ضروری (فائل) پر چمکنے والی (Original) کسی سٹیپ اپ اور معیار ضروری چمکا کریں

# حضرت بی بی فاطمة الزهرا سلام اللہ علیہا

## کے اسمائے صفات و القابات (بقاعدہ جعفر مع حروف باطن اعداد)

فاطمۃ ف ط م ع ۵۳۰	خلیلۃ خ ل و ع ۳۴۳	نبول ن ب ل و ع ۳۶۵	قیۃ ق ی ع ر ۵۶۰	حسینۃ ح ب م ش ۳۳۳	نبیۃ ن ب ع ر ۵۶۰	طاهرۃ ط ط و و ۱۱۵	حزۃ ح ز و و ۶۰۸	خوز آ خ ط ق ع ۳۱۵
زاکتۃ ز ق م ع ۶۹۱	راضیۃ ر ک ج ع ۱۳۱۱	زکرات ز ک ع ع ۳۳۳	رضیدۃ ر م ن و ۹۱۶	رضیۃ ر ی م م ۱۳۱۰	رضیۃ ر ی م م ۱۳۱۰	ساجدۃ س ج و و ۳۶۸	سینۃ س ن ل ب ۵۳۳	سینۃ س ن م ع ۳۵۳
ضہیدۃ ض ط ق ع ۷۱۹	صانۃ ص م ش و ۶۹۳	صادقۃ ص م ش م ۵۹۵	صدوقۃ ص م ل ب ۶۰۰	صدیقۃ ص م ع ان ۶۰۳	طیبۃ ط ی ل ل ۳۶۱	غارۃ غ ط ع ع ۷۵۱	عالیۃ ع ل و ش ۵۱۱	عذیلۃ ع ی م م ۵۱۳
عذرات ع ط م ع ۳۷۸	غزیرۃ غ م م و ۳۹۳	علیۃ ع م م و ۵۵۰	فاصلۃ ف ط ع ع ۱۳۱۱	فریدۃ ف م ع ع ۶۹۳	کریۃ ک م ع ع ۶۷۰	کوثۃ ک م ع ع ۷۲۶	کوکب ک م و و ۳۸	مبشورۃ م م م و ۹۳۳
محمودۃ م ط م ع ۳۹۸	مظہرۃ م ب م م ۶۵۳	منصومۃ م ب م م ۶۳۶	ملہمۃ م ک ع ع ۵۱۵	ممنحۃ م ن م م ۹۳۸	منصورۃ م ب م م ۷۸۶	مولفۃ م ی م م ۶۲۶	مہدیۃ م ک ع ع ۳۵۹	مؤمنۃ م م م ع ۵۳۶
ناعقۃ ن ط ل ل ۵۶۱	زکیۃ ز ل ع ع ۳۳۷	مزرعیۃ م م ع ع ۱۳۵۰	محدثۃ م ط ع ر ۹۵۳	وجیدۃ و ج و و ۳۳۸	والیۃ و ل م ع ۳۳۲	زحینۃ ز و ع ع ۷۶۰	ضیقۃ ض م و و ۵۸۰	خلیۃ خ ل ل ب ۳۸۸
جمیلۃ ج م ش م ۳۸۳	مضلیۃ م ی م م ۵۷۰	فایمۃ ف ط م ع ۵۳۱	قارۃ ق ط ل ل ۷۰۱	صائمۃ ص م ل ل ۵۳۱	وحیدۃ و ح و و ۳۳۳	حکیمۃ ح ک ب م ۳۷۸	زاجدۃ ز و ع ع ۳۶۷	غابدۃ غ ط ل ل ۳۷۷
مخدرۃ م ل ب م ۱۳۳۳	نادیرۃ ن م ل م ۶۸۵	ناصرۃ ن ف ع ع ۵۳۹	غاملۃ غ ط م ع ۵۳۱	ولیۃ و ل م ع ۳۳۱	صالحۃ ص م ع ع ۵۲۹	واضحۃ و م ل ل ۱۳۷۷	لصیحۃ ل م ع ع ۵۸۸	منجیۃ م ط و و ۵۰۳

**ضروری وضاحت** کیونکہ شہزادی کو نین کے نام و القابات عربی زبان میں ہیں۔ عربی زبان میں ہر اسم صفاتی کے آخر میں حرف "ت" بول رہا ہے۔ مثلاً اگر اردو زبان میں میں فاطمہ لکھتے ہیں تو اس میں حرف "ت" نہیں ہے اور یہی نام اگر ہم عربی زبان میں لکھتے یا بولتے ہیں تو یوں ہوگا "فاطمۃ" اس لیے میں نے ہر اسم کے آخر میں حرف "ت" کو لیا ہے اور ت کے اعداد 400 ہیں اسی طرح تمام القابات کے اعداد میں حرف ت کو شامل کر کے اعداد و حروف باطن قارئین امیر جنتری کے لیے جدول تیار کر رہا ہے

[www.humaliwalayazar.com](http://www.humaliwalayazar.com)

فون: 0333-2512068 (مراہٹ)

تسبیح اسمائے حسنیٰ شریعت کے خوف و ازیت سے محفوظ رہنے کے لئے یا حافظ یا حشیظ یا رقیب یا مہیب یا ناصر یا قوی

70 مرتبہ ان اسماء کا ورد کرنا 3 سال کا بچہ دیکھتا ہے



# قرآنی سورتوں کے اعداد قمری

سورہ	اعداد قمری	سورہ	اعداد قمری	سورہ	اعداد قمری	سورہ	اعداد قمری
الفاتحہ	9359	الروم	270377	الحشر	133461	غاشیہ	36457
البقرہ	947609	لقمان	15900	المہنتحنہ	101350	الفجر	89092
آل عمران	184956	السجدہ	113332	الصف	59060	البلد	24283
النساء	1139293	الاحزاب	355258	الجمعة	61525	الشمس	19499
البائتہ	848546	السياء	253419	المنافقون	53256	اليل	29666
الانعام	935319	الفاطر	242773	التغابن	7741	الضحى	13422
الاعراف	253592	يس	215653	الطلاق	818012	الم نشرح	12416
الانفال	412375	الصفه	264754	التحریم	49232	التين	10228
التوبه	703615	ص	229337	الملک	99594	العلق	22541
یونس	550108	الزمر	306585	القلم	93708	القدر	8311
هود	514851	المومن	368524	الحاقہ	81719	البینہ	31223
یوسف	503980	حم السجدہ	245837	المعارج	73525	الزلزال	19966
الرعد	244692	الشوری	201339	نوح	60633	العادیات	13354
ابراہیم	245818	الزخرف	260697	الجن	60633	القارعه	9763
الحجر	176709	الدخان	97793	الہزل	68466	التکائر	10425
النحل	520188	الجاثیہ	150153	المداثر	92355	العصر	4748
بنی اسرائیل	38613	الاحقاف	73774	القیامہ	54607	الہزہ	5948
الکھف	505517	محمد	180655	الذھر	77588	الفیل	5470
مریم	289644	الفتح	188828	المرسلات	70634	القريش	5656
طہ	399283	الحجرات	102892	النبا	52656	الماعون	9217
الانبیاء	382219	تی	109736	المزمت	67253	الکوثر	2763
الحج	382344	الزاريات	119544	عبس	51318	الکافرون	3828
المؤمنون	351714	الطور	94183	التکویر	38299	النصر	6123
النور	402457	النجم	94183	الانقطار	36745	اللہب	5431
الفرقان	209575	قمر	114374	المطففين	48707	الاخلاص	1002
الشعراء	201339	الرحمن	120450	انشقاق	28846	القلق	8675
النمل	340962	الواقعه	102965	البروج	32155	الناس	4901
القصص	305120	الحديد	198924	الطارق	17765	گانام علی حسینی	
العنکبوت	275297	المجادله	34237	الاعلی	17704	0321-4534910	

# فتح البلاغ میں حضرت امیر المومنین (مولانا علیؑ) کا اہم خطبہ

(خدا شناسی اور خدا خوفی کا درس)

اس خطبہ کا نام خطبہ غراء ہے جو امیر المومنین کے عجیب و غریب خطبوں میں شمار ہوتا ہے۔

تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو اپنی طاقت کے اعتبار سے بلند، اپنی بخشش کے لحاظ سے قریب ہے۔ ہر نفع و زیادتی کا عطا کرنے والا اور ہر مصیبت و ابتلاء کا دور کرنے والا ہے۔ میں اسکے کرم کی نوازشوں اور نعمتوں کی فراوانیوں کی بنا پر اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ چونکہ وہ اول و ظاہر اور اس سے ہدایت چاہتا ہوں چونکہ وہ قریب تر اور ہادی ہے اور اس سے مدد چاہتا ہوں چونکہ وہ قادر و توانا ہے اس اس پر بھروسہ کرتا ہوں چونکہ وہ ہر طرح کی کفایت و اعانت کرنے والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے عبد و رسول ہیں۔ جنہیں احکام کے نفاذ اور حجت کے اتمام اور عبرتناک واقعات پیش کر کے پہلے سے متنبہ کر دینے کے لیے بھیجا۔

خدا کے بندوں! میں تمہیں اس اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں جس نے تمہارے (سمجھانے کے لیے) مثالیں پیش کیں اور تمہاری زندگی کے اوقات مقرر کیے۔ تمہیں (مختلف) لباسوں سے ڈھانپا اور تمہارے رزق کا سامان فراوان کیا۔ اس نے تمہارا پورا جائزہ لے رکھا ہے اور تمہارے لیے جزا مقرر کی ہے اور تمہیں اپنی وسیع نعمتوں اور فرائض عظیموں سے نوازا اور موثر دلیلوں سے تمہیں متنبہ کر دیا ہے۔ وہ ایک ایک کر کے تمہیں گن چکا ہے اور اس مقام آزمائش و محل عبرت میں اس نے تمہاری عمریں مقرر کر دی ہیں۔ اس میں تمہاری آزمائش ہے اور اس کے در آمد و برآمد پر تمہارا حساب ہوگا۔ اس دنیا کا گھاٹ گندلا اور سیراب ہونے کی جگہ کچھڑ سے بھری ہوئی ہے۔ اس کا ظاہر خوشنما اور باطن تباہ کن ہے۔ یہ ایک مٹ جانے والا دھوکا، غروب ہو جانے والی روشنی، ڈھل جانے والا سایہ اور جھکا ہوا ستون ہے۔ جب اس سے نفرت کرنے والا اس سے دل لگا لیتا ہے اور اجنبی اس سے مطمئن ہو جاتا ہے تو یہ اپنے پیروں کو اٹھا کر زمین پر دے مارتی ہے اور اپنے جال میں پھانس لیتی ہے اور اپنے تیروں کا نشانہ بنا لیتی ہے اور اسکے گلے میں موت کا پھندا ڈال کر تنگ و تاریک قبر اور وحشت ناک منزل تک لے جاتی ہے کہ جہاں سے وہ اپنا ٹھکانہ (جنت یا دوزخ) دیکھ لے اور اپنے کیے کا نتیجہ پالے۔ بعد میں آنے والوں کی حالت بھی اگلوں کی سی ہے نہ موت کاٹ چھانٹ سے منہ موڑتی ہے اور نہ باقی رہنے والے گناہ سے باز آتے ہیں۔ باہم ایک دوسرے کے طور طریقوں کی پیروی کرتے ہیں اور یکے بعد دیگر منزل منتہاۃ مقام فنا کی طرف بڑھ رہے ہیں یہاں تک کہ جب تمام معاملات ختم ہو جائیں گے اور دنیا کی عمر تمام ہو جائے گی، اور قیامت کا ہنگامہ آجائے گا تو اللہ سب کو قبر کے گوشوں، پرندوں کے گھونسلوں، درندوں کے بہنوں اور ہلاکت گاہوں سے نکالے گا۔ گروہ درگروہ، صامت و ساکت، ایستادہ و وصف بستہ امر الہی کی طرف بڑھتے ہوئے اور اپنی جائے بازگشت کی جانب دوڑتے ہوئے، نگاہ قدرت ان پر حاوی اور پکارنے والے کی آواز ان سب کا کان میں آتی ہوئی ہوگی۔ وہ ضعیف و بے چاگی کا لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور عجرو بے کسی کی وجہ سے ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی۔ حلیے اور ترکیبیں غائب اور امیدیں منقطع ہو چکی ہوں گی۔ دل مایوسانہ خاموشیوں کے ساتھ بیٹھتے ہوں گے۔ آوازیں دب کر خاموش ہو جائیں گی۔ پسینہ منہ میں پھندا ڈال دے گا، وحشت بڑھ جائے گی اور جب انہیں آخری فیصلے سنانے، عملوں کا معاوضہ دینے اور عذاب و عقوبت اور اجر و ثواب کے لیے بلایا جائے گا تو پکارنے والے کی گرجدار آواز سے کان لرزائیں گے۔ یہ بندے اس کے اقتدار کا ثبوت دینے کے لیے وجود میں آئے ہیں اور غلبہ و تسلط کے ساتھ ان کی تربیت ہوئی ہے۔ نزع کے وقت ان کی روحمیں قبض کر لی جاتی ہیں اور قبروں میں رکھ دئے جاتے ہیں (جہاں) یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور (پھر) قبروں سے اکیلے اٹھائے جائیں گے اور اعمال کے مطابق جزا پائیں گے اور سب کو الگ الگ حساب دینا ہوگا انہیں دنیا میں رہتے ہوئے گلو خلاصی کا موقع دیا گیا تھا اور سیدھے راستہ بھی دکھایا جا چکا تھا۔ اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مہلت بھی دی گئی تھی شک و شبہات کی تاریکیاں ان سے دور کر دی گئی تھیں اور اس مدت حیا تو آماجگاہ نسل میں انہیں کھلا چھوڑ دیا گیا تھا تا کہ آخرت میں دوڑ لگانے کی تیاری اور سوچ بچار سے مقصد کی تلاش کر لیں اور اتنی مہلت پانچ عینی فوائد حاصل کرنے اور اپنی آئندہ منزل کا سامان کرنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ کتنی ہی صحیح مثالیں اور شفا بخش نصیحتیں ہیں بشرطیکہ انہیں پاکیزہ دل اور سننے والے کان اور

اصلی اماں بہ جنتی خریدنے کے لیے سرورق (ٹائٹل) پر جمع کرنے والی (Original) کی سٹیپ اور معیار ضرور چیک کریں

مضبوط رہیں اور ہوشیار عقلمیں نصیب ہوں۔

اللہ سے ڈرو اس شخص کے مانند جس نے نصیحت کی باتوں کو سنا تو جھک گیا، گناہ کیا تو اعتراف کیا، ڈرا تو عمل کیا، خوف کیا تو تکیوں کی طرف بڑھا، قیامت کا یقین کیا تو اچھے اعمال بجالایا، عبرتیں دلائی گئیں تو اس نے عبرت حاصل کی اور خوف دلا یا گیا تو بڑا ہیوں سے ڈک گیا اور (اللہ کی پکار پر) لبیک کہی تو پھر اس کی طرف رخ موڑ لیا اور اسکی طرف توبہ و انابت کے ساتھ متوجہ ہوا (انگلوں کی) پوری پوری بیرونی کی اور حق کے دکھائے جانے پر اسے دیکھ لیا۔ ایسا شخص طلب حق کے لیے سرگرم رہا، اور (دنیا کے بندھوں) سے چھوٹ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اُس نے اپنے لیے ذخیرہ فراہم کیا، اور باطن کو پاک و ساف رکھا، اور آخرت کا گھر آباد کر لیا سفر آخرت اور اُس کی راہ نور دی کے لیے اور احتیاج کے مواقع، اور فقر و فاقہ کے مقامات کے پیش نظر اُس نے زاد اپنے ہمراہ بنا کر لیا ہے۔ اللہ کے بندوں! اپنے پیدا ہونے کی غرض و غایت کے پیش نظر اُس سے ڈرتے رہو اور جس حد تک اُس سے خوف کھاتے رہو جس حد تک اُس نے تمہیں ڈرایا ہے، اُس حد تک اُس خوف کھاتے رہو اور اس سے اس کے سچے وعدے کا ایفاء چاہتے ہوئے اور ہول قیامت سے ڈرتے ہوئے اُن چیزوں کا استحقاق پیدا کرو، جو اُس نے تمہارے لیے مہیا کر رکھی ہے۔

اسی خطبہ میں یہ الفاظ بھی ہیں: اُس نے تمہارے لیے کان بنائے تاکہ ضروری اور اہم چیزوں کو سن کر محفوظ رکھیں اور اُس تمہیں تمہیں آنکھیں دی ہیں تاکہ وہ کوری و بے بصری سے نکل کر روشن و ضیاء بار ہوں اور جسم کے مختلف حصے جن میں سے ہر ایک میں بہت سے اعضاء ہیں جن کے بیچ و خم اُن کی مناسبت سے ہیں اپنی صورتوں کی ترکیب اور عمر کی مدتوں کے ساتھ ساتھ ایسے بدنوں کے ساتھ جو اپنی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں اور ایسے دلوں کے ساتھ ہیں جو اپنی غذائے روحانی کی تلاش میں لگے رہتے ہیں علاوہ دیگر بڑی نعمتوں اور احسان مند بنانے والی بخششوں اور سلامتی کے حصاروں کے اور اس نے تمہاری عمر میں مقرر کر دی ہیں جنہیں تم سے مخفی رکھا ہے اور گزشتہ لوگوں کے حالات و واقعات سے تمہارے لیے عبرت اندوزی کے مواقع باقی چھوڑے ہیں۔ ایسے لوگ جو اپنے حظ و نصیب سے لذت اندوز تھے اور گھلے بندوں آزاد پھرتے تھے کس طرح امیدوں کے بر آنے سے پہلے موت نے اُنھیں اُن امیدوں سے دور کر دیا۔ اُس وقت انھوں نے کچھ سامان نہ کیا کہ جب بدن تندرست تھے، اور اُس وقت عبرت و نصیحت حاصل نہ کی کہ جب جوانی کا دور تھا۔ کیا یہ بھر پور جوانی والے کمر جھکا دینے والے بڑھاپے کے منتظر ہیں اور صحت کی تروتازگی والے ٹوٹ پڑنے والی بیماریوں کے انتظار میں ہیں۔ اور یہ زندگی والے فنا کی گھڑیاں دیکھ رہے ہیں؟ جب چل چلاؤ کا ہنگام نزدیک اور کوچ قریب ہوگا اور (بستر مرگ پر) قلق و اضطراب کی بے قراریاں اور سوز و تپش کی بے چینیاں اور لعاب دہن کے پھندے ہوں گے اور عزیز و اقارب اور اولاد و احباب سے مدد کے لیے فریاد کرتے ہوئے ادھر ادھر کروٹیں بدلنے کا وقت آ گیا ہوگا۔ تو کیا قریبیوں نے موت کو روک لیا؟ یا رونے والیوں کے (رونے نے) کچھ فائدہ پہنچایا؟ اُسے تو قبرستان میں قبر کے ایک تنگ گوشے کے اندر جکڑ باندھ کر اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ سانپ بچھوؤں نے اس کی جلد کو چھلنی کر دیا ہے اور (وہاں) پامالیوں نے اسکی تروتازگی کو فنا کر دیا ہے۔ آندھیوں نے اسکے آثار مٹا ڈالے اور حادثات نے اس کے نشانات تک محو کر دیئے۔ تروتازہ جسم لاغر و پژمرده ہو گئے۔ ہڈیاں گل سڑ گئیں اور روئیں (گناہ کے) بارگراں کے نیچے دبی پڑی ہیں اور غیب کی خبروں پر یقین کر چکی ہیں لیکن ان کے لیے اب نہ اچھے عملوں میں اضافہ کی کوئی صورت، اور نہ بد اعمالیوں سے توبہ کی کچھ گنجائش ہے۔ کیا تم اُن ہی مر چکنے والوں کے بیٹے، باپ، بھائی، اور قریبی نہیں ہو۔ آخر تمہیں بھی تو ہو ہو اُن ہی کے سے حالات کا سامنا کرنا اور اُن ہی کی راہ پر چلنا ہے اور انہی کی شاہرہ پر گزرتا ہے۔ مگر دل اب بھی حظ و سعادت سے بے رغبت، اور ہدایت سے بے پروا ہیں اور غلط میدان میں جا رہے ہیں۔ گویا ان کے علاوہ کوئی اور مراد و مخاطب ہے۔ اور گویا ان کے لیے دنیا سمیٹ لینا ہی صحیح راستہ ہے۔ یاد رکھو کہ تمہیں گزرتا ہے صراط پر اور وہاں کی ایسی جگہوں پر جہاں قدم لڑکھرانے لگتے ہیں اور پھر پھسل جاتے ہیں اور قدم قدم پر خوف و وحشت کے خطرات ہیں۔ اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح وہ مرو زیرک و دانائے رتا ہے کہ جس کے دل کو (عقلمیں کی) سوچ بچار نے اور چیزوں سے غافل کرو یا ہو اور خوف نے اُس کے بدن کو تعب و کلفت میں ڈال دیا ہو، اور نماز شب نے اسکی تھوڑی بہت نیند کو بھی بیداری سے بدل دیا ہو اور امید ثواب میں اس کے دن کی تپتی ہوئی دو پہریں بیاس میں گزرتی ہوں اور زہد و دروغ نے اسکی خواہشوں کو روک دیا ہو۔ اور ذرا الہی سے اسکی زبان ہر وقت حرکت میں ہو خطروں کے آنے سے پہلے اس نے خوف کھایا ہو اور کئی بھٹی راہوں سے بچتا ہو اسیدھی راہ پر ہو لیا ہو، اور راہ مقصود پر آنے کے لیے سیدھا راستہ اختیار کیا ہو۔ نہ خوش فریبیوں نے اس میں بیچ و تاب پیدا کیا ہو، اور نہ مشتہ باتوں نے اسکی آنکھوں پر پردہ ڈالا ہو۔

باقی آئندہ

محمد اکبر ترابی  
بستی شادو خان لئیہ

0345-7621912  
0305-6964470

# حسین علیہ السلام اور لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

یہ ذوالجناح و عظیم ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے لیے  
عباس غازی کا پرچم ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے لیے  
امام خاندان میں یہ نم ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے لیے  
ہماری آنکھوں میں نم ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے لیے  
علم و وفا کا جو ہر گھر پہ ہم لگاتے ہیں  
کہ ساتھ مہدی کی نصرت کو ہم بھی آتے ہیں

حسین اور تیرا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
حسین تو ہے بنا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
الہی گھر میرا جو ہے مگر بچے کلمہ

حسین تیری دعا ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
ہمارے پاس وراثت حسین سے ہے  
جلوس، گریہ عزا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
حسین تیری شہادت سے دین باقی ہے

حسین وجہ بنا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
تمہارے خون کی مٹی کو کیا شرف ملا  
بنی ہے خاک شفا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
یزید جیت کے نہ جیتا حسین بارگیا

شہید جیت گیا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
مری اذان و اقامت کے اپنے کلمہ میں  
علی، نبی اور خدا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
حسین کلمے کو نخر تلے نہیں بھولے

گلے پہ تیغ جفا زبان پہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
حسین مرجع خلقت ہے سجدہ گاہ تیری  
کہ بعد عرش، معلیٰ ہے کربلا تیری  
ترابی احقر و عاصی، غلام ہے تیرا

گناہ معاف کرادو یہ کام ہے تیرا

حسین ناطق قرآن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
حسین نماز کی اذان لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
تیرا عقیدہ و ایمان لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
تحت خنجر یزیدان لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
شہید تشدد ہاں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
تیرا نعرو، تیرا نشان لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
تمام کاوش و کوشش تیری خدا کے لیے  
حسین تیری شہادت تھی فقط الہ کے لیے

حسین تیرا وجود لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
تیرے لبو میں موجود لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
تیری تسبیح تیرا درود لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
تیرا قیام تیرا قعود لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
تمہارا باطن کہ یا شہود لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
حسین ہست یزید نابود لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
تمہارے خون کی مٹی سے سجدہ گاہ بنی  
تیرے نشان قدم سے عدن کی راہ بنی

حسین تیری قیادت ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے لیے  
تمام حمد، عبادت ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے لیے  
حسین تیری امامت ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے لیے  
تیری عظیم شہادت ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے لیے  
زہے نصیب سعادت ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے لیے  
حسین تیری ولادت ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے لیے  
نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ خمس و جہاد  
تیرے انچاز لبو سے ہیں مسجدیں آباد

حسین تیرا محرم ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے لیے  
جلوس، مجلس و ماتم ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے لیے

حسین تیرا محرم ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے لیے  
جلوس، مجلس و ماتم ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے لیے

حسین تیرا محرم ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے لیے  
جلوس، مجلس و ماتم ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے لیے

## حضرت امام زین العابدین کی پُر اثر دُعا دُعائے مقاتل بن سلیمان

اوّل و آخر ۱۵ مرتبہ درود پڑھیں۔ پھر حاجت طلب کریں۔ شیخ کفعمی نے مقاتل بن سلیمان سے نقل کیا۔ امام نے فرمایا! سو مرتبہ اس دُعا کو پڑھیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ دُعا مستجاب ہوگی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

الْهِیَ کَیْفَ اَدْعُوکَ وَ اَنَا اَنَا وَ کَیْفَ اَقْطَعُ رَجَائِیَ  
مِنْکَ وَ اَنْتَ اَنْتَ الْهِیَ اِذَا لَمْ اَسْئَلْکَ فَتُعْطِیْنِی  
فَمَنْ ذَا الَّذِیْ اَسْئَلُهُ فِیْمُعْطِیْنِی الْهِیَ اِذَا لَمْ اَدْعُوکَ  
فَتَسْتَجِیْبْ لِی فَمَنْ ذَا الَّذِیْ اَدْعُوهُ فِیَسْتَجِیْبْ لِی  
الْهِیَ اِذَا لَمْ اَنْتَضِعْ اِلَیْکَ فَتَنْزَحْمِنِی فَمَنْ ذَا الَّذِیْ  
اَنْتَضِعْ اِلَیْهِ فِیَنْزَحْمِنِی الْهِیَ فَکَمَا قَلَقْتَ الْبَحْرَ  
لِیُوسِی عَلَیْهِ السَّلَامُ وَ نَجَّیْتَهُ اَسْئَلُکَ اَنْ تُصَلِّیَ  
عَلِی مُحَمَّدٍ وَ اِلَیْهِ وَ اَنْ تُنَجِّیْنِی مِمَّا اَنَا فِیْهِ وَ تُفَرِّجْ  
عَنِّی فَرَجًا عَاجِلًا غَیْرَ اَجْلِ بِفَضْلِکَ وَ رَحْمَتِکَ

یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ

ترجمہ: اے میرے معبود کیسے تجھے پکاروں اس حال میں کہ میں میں ہوں اور کیسے اپنی امید تجھ سے منقطع کر لوں حالانکہ تو تو ہے۔ اے میرے معبود جب میں تجھ سے نہیں مانگتا تب بھی تو مجھے عطا کرتا ہے۔ تو وہ کون ہے کہ اس سے مانگوں اور وہ مجھے عطا کرے اے میرے معبود جب میں تجھے نہیں پکارتا تب بھی تو میری دُعا قبول کرتا ہے تو وہ کونسی ذات ہے کہ میں اسے پکاروں اور وہ میری دُعا قبول کرے۔ اے میرے معبود جب میں تیرے حضور میں نہیں گزرتا تو مجھ پر رحم کرتا ہے۔ تو وہ کونسی ہستی ہے کہ اس کے سامنے گزرتا ہوں اور وہ مجھ پر رحم کرے اے میرے معبود جس طرح تو نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کو خشک فرمایا اور ان کو نجات دی میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھ کو اُس چیز سے جس میں مبتلا ہوں نجات دے اور میری تمام پریشانیوں کو جلد از جلد بلا تاخیر (فوری) اپنے فضل اور اپنی رحمت سے دور فرما۔ اے سب سے بڑے رحم کرنے والے۔

## دُعائے مُجَرَّبٌ وَعَجِیْبُ التَّأْثِیْرِ

برائے حفاظت از آفات و بلیات و حادثات و محروزی ہر دُشمن  
شیاطین و جن و انس وغیرہ

کتاب **زین المتقین** سے منقول ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ایک بدکار شخص کو 3 مرتبہ آگ میں ڈالا گیا نہ جلا، پھر پانی میں ڈالا گیا نہ ڈوبا، گردن پر شمشیر چلائی گئی کارگر نہ ہوئی۔ امام سے سبب دریافت کیا گیا آپ نے فرمایا اس کے پاس ایک تعویذ ہے دیکھا گیا تو اسکے پاس سے یہ دعا نکلی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

یَا مَنْ لَا یَعْلَمُ الْغَیْبَ اِلَّا هُوَ یَا مَنْ لَا یُدْبِرُ الْاَمْرَ  
اِلَّا هُوَ یَا مَنْ لَا یَضْرِبُ الشُّوْءَ اِلَّا هُوَ یَا مَنْ لَا  
یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا هُوَ یَا مَنْ لَا یُحِیُّ الْعِظَامَ  
اِلَّا هُوَ اِلَّا هُوَ هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ  
وَ هُوَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ ط وَ بِالْحَقِّ اَنْزَلْنَهُ وَ بِالْحَقِّ  
نَزَلَ ط وَ مَا اَرْسَلْنَاکَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَ نَذِیْرًا وَ بِالْحَقِّ  
کَهْلِیْعَصَ وَ بِالْحَقِّ خَمْعَسَقَ وَ بِالْحَقِّ الْوَاحِدِ الْاَحَدِ الصَّمَدِ  
لَفَرْدِ الَّذِیْ لَمْ یَلِدْ ط وَ لَمْ یُوْلَدْ ط وَ لَمْ یَکُنْ لَهٗ  
کُفُوًا اَحَدٌ ط کَامِلًا هَادِیًّا یَا سِرًّا یَامِلًا صَادِقًا  
بِرَّحْمَتِکَ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلِی

مُحَمَّدٍ وَ اٰلِ مُحَمَّدٍ

### دُعَا رَدِیْلَا

بلاؤں سے دور ہونے کے لیے درج ذیل دعا بعد ہر نماز  
70 مرتبہ روزانہ پڑھیں  
یَا اللّٰهُ یَا مُحَمَّدُ یَا عَلِیُّ یَا فاطِمَةُ یَا حَسَنُ یَا حُسَیْنُ یَا صَاحِبَ  
الرَّمَّانِ اَذْرِ کَیْفِی وَ لَا تُهْلِکَیْنِ • اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلِی مُحَمَّدٍ وَ اٰلِ مُحَمَّدٍ  
ترجمہ: اے اللہ، اے محمد، اے علی، اے فاطمہ، اے حسن، اے حسین اے  
زمانہ کے سردار میری مدد فرمائے ورنہ میں ہلاک ہو جاؤں گا۔

اصلی اہامیہ جنتری خریدنے کے لیے سرورق (ٹائٹل) پر چمکنے والی (Original) کی سٹیپ اور معیار ضرور چیک کریں

# حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا

حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت رسول خدا پر نئے سال کی پہلی شب میں دو رکعت نماز ادا فرماتے تھے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھتے تھے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ اِلٰهَ الْقَدِيْمِ وَهٰذِهِ سَلَّةٌ جَدِيْدَةٌ  
فَاَسْئَلُكَ فِيْهَا الْعِصْمَةَ مِنَ الشَّيْطٰنِ وَالْقُوَّةَ  
عَلٰى هٰذِهِ النَّفْسِ الْاَمَّارَةِ بِالسُّوْءِ وَالْاَشْعَالَ  
بِمَا يُقَرِّبُنِيْ اِلَيْكَ يَا كَرِيْمُ يَا ذَا الْجَلَالِ  
وَالْاِكْرَامِ يَا عِبَادَ مَنْ لَا عِبَادَ لَهُ يَا ذُوْكَرٍ مَنْ لَا ذُوْكَرَ  
لَهُ يَا حِزْرَ مَنْ لَا حِزْرَ لَهُ يَا كَثْرَ مَنْ لَا كَثْرَ لَهُ يَا  
حَسَنَ الْبَلَاءِ يَا عَظِيْمَ الرَّجَاءِ يَا عِزَّ الضُّعْفَاءِ يَا  
مُنْقِدَ الْغُرَفِ يَا مُنْجِيَّ الْهٰلِكِ يَا مُنْعِمَ يَا مُجِبِلُ  
يَا مُفْضِلُ يَا مُحْسِنُ اَنْتَ الَّذِي سَجَدْتُكَ  
سَوَادَ اللَّيْلِ وَنُوْرَ النَّهَارِ وَضَوْءَ الْقَهْرِ وَشُعَاعَ  
الشَّمْسِ وَكُوْنِيَّ الْمَاءِ وَخَفِيْفَ الشَّجَرِ يَا اَللّٰهُ لَا  
شَرِيْكَ لَكَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا خَيْرًا مِّمَّا يَظُنُّوْنَ  
وَاعْفِرْ لَنَا مَا لَا يَعْلَمُوْنَ وَلَا تُؤْخِذْنَا بِمَا  
يَقُوْلُوْنَ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ  
وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَمَّنَا بِهٖ كُلُّ مَنْ عِنْدِ  
رَبِّنَا وَمَا يَذْكُرْ اِلَّا اَوْلُوا الْاَلْبَابِ رَبَّنَا لَا  
تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْهَبَ يَتَنَّا وَهَبْ لَنَا  
مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ۝

ہر روز 45 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں

# حضرت علی کی ایک مخصوص دعا

منقول ہے کہ جب حضرت علیؑ کو کوئی نہایت پریشان کن اور اضطراب آگیاں مہم درپیش ہوتی تو آپ دو رکعت نماز ادا کر کے (۱۰۰) سو مرتبہ " اَسْتَغِيْرُ اللّٰهَ " پڑھنے کے بعد دعائے ذیل کو پڑھتے۔ اس کے بعد اپنے کام کو شروع فرماتے تھے۔ جس کی وجہ سے آپ کو کسی کام میں نقصان نہیں پہنچتا تھا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اَللّٰهُمَّ قَدْ هَمَمْتُ بِاَمْرٍ قَدْ عَلِمْتَهُ قَانَ

خدایا! میں نے جو ارادہ کر رکھا ہے تو اس سے ضرور واقف ہے  
کُنْتُ تَعْلَمُ اَنْتَ خَيْرٌ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَ  
دُنْيَايَ اَمْرٌ وَ دُنْيَايَ وَ اٰخِرَتِيْ مِنْ اٰخِرَتِيْ  
دُنْيَايَ وَ اٰخِرَتِيْ فَيَسِّرْ لِيْ وَ اِنْ كُنْتُ  
بِهْتَرٍ تُوَسَّلْ وَ اَسْأَلُكَ فَرِّمْ دَعْوَةَ تِيْرِيْ حَقِيْقَةً مِنْ نَظَرِ  
تَعْلَمُ اَنْتَ شَرُّ لِيْ فِيْ دِيْنِيْ وَ دُنْيَايَ وَ اٰخِرَتِيْ  
سے دینی، دنیاوی اور اخروی حیثیت سے میرے لئے بُرا ہے  
فَاَصْرِفْهُ عَنِّيْ كَرِهْتُ ذٰلِكَ اَوْ اَحْبَبْتُ  
تو روز فرمادے چاہے مجھے بُرا لگے یا وہ مجھے اچھا لگے کیونکہ تو سب کچھ جانتا ہے  
فَاِنَّكَ تَعْلَمُ وَ لَا اَعْلَمُ وَ اَنْتَ عَلٰمُ الْغُیُوْبِ  
اور میں کچھ نہیں جانتا اور تو ہی ذاتی طور پر غیب کا جاننے والا ہے۔

**ناد علی صغیر** نماز فجر اور عشاء کے بعد 15-15 مرتبہ پڑھیں تمام مشکلات کا حل سے اول و آخر 15-15 مرتبہ درود پڑھیں۔ بحرب سے۔

نَادِ عَلِيًّا مَظْهَرَ الْعَجَائِبِ تَجِدُهُ عَوْنًا لَكَ  
فِي النَّوَابِئِ كُلِّ هَمٍّ وَعَجْمٍ سَيَنْجِي  
بِعَظَمَتِكَ يَا اَللّٰهُ وَ بِدُبُوْتِكَ يَا مُحَمَّدُ  
وَ بِوَلَايَتِكَ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ

اصلی امامیہ جعفری خریدنے کے لیے سرورقی (ٹائٹل) اور چمکنے والی (Original) کی سٹیٹیمپ اور معیار ضرور چیک کریں

تحقیق و تدوین

مولانا فیاض حسین جعفری

سرپرست دارالافتاح / درس عمل لاہور

0300-4344139

# تقویم کی تقسیم

لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم 30 وائتین 4

## انسانی تقویم

خداوند کریم قادر مطلق ہے اسکی قدرت کاملہ انسانی جسم میں ملاحظہ فرمائیے۔ خون ایک دن میں ایڑی سے چوٹی تک 269 کلومیٹر کا سفر طے کرتا ہے۔ گردوں کی باریک نالیاں اپنے سرکل میں بالترتیب 448 کلومیٹر کا چکر لگاتی ہیں۔ انسان کا صحت مند دل ایک دن (24 گھنٹے) 103680 مرتبہ دھڑکتا ہے جو اس کی زندگی کا اہتمام کرتا ہے اور تقریباً 2000 گیلیں خون کو گردش دیتا ہے۔ قدم اٹھاتے وقت جسم کے 300 عضلات حرکت میں آتے ہیں۔ دماغ میں Cells کی تعداد 2 کھرب ہے یہی وجہ کہ 24 گھنٹے سوچنے میں مدد ملتی رہتی ہے دماغ سوتا نہیں اسکا جاگنا صحیح زندگی ہے جسمانی قوت 8/1 ہارس پاؤر کے برابر ہوتی ہے دن بھر کام میں مصروف رکھتی ہے، نیند کے بعد پھر تازہ دم ہو جاتی ہے ایک عام آدمی اوسط زندگی میں اتنا پیدل چلتا ہے کہ دنیا کے تین چکر لگالے۔ ہماری زمین کا قطر (ایک سرے سے دوسرے سرے تک) 12600 کلومیٹر ہے۔ گردن کے اوپر سات سوراخ رکھے گئے ہیں جو سب موقع امر الہی سے کھلتے اور بند ہوتے رہتے ہیں ایک سوراخ منہ کا ہے دوسرے دو آنکھیں اور

دوکان کے سوراخ جو مصروف گئے ہیں۔ اس تقویم سے درس حاصل کیجئے اور اپنی زندگی کو خدائی احکام کے مطابق باقاعدہ بنا لیجئے افلا یومنون۔ افلا تعقلون پارہ 17 سورہ انبیاء آیات 30، 67

## علی

### تقویم اسم علی

بینوی شکل کے چوکھے میں ابھرے ہوئے حروف کے ساتھ یہ بڑا تمغہ مسجد اقصیٰ میں لگا ہے جو تقویمی اعتبار سے ایک شاہکار ہے اور ایک اعلیٰ شخصیت کا نام جو اسم الہی سے مشتق ہے اسے اجاگر کرتا ہے۔ Dr Collin gem کی تحقیقی کتاب Religions of world میں عبارت غور سے پڑھیے Medallion on the interior wall of Al-aqsa mosque in jerusalem is showing the word Ali in Arabic script

### تقویم معراج

پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 "ترجمہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک رات کے دوران مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے لے گیا" حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور یائے نور کو عبور کر کے قاب تو سین ادا دنی (سورہ نجم 9) کی منزل پر پہنچے۔ سرعت رفتار کا اندازہ کیجئے بجلی ایک سکنڈ میں 297600 کلومیٹر طے کر لیتی ہے چوتھے آسمان تک فاصلہ 14.4

افصلی اما میہ جعفری ضریڈی کے لیے سب سے زیادہ (ٹائٹل) اور چمکنے والی (Original) کی سٹیپ اور ضروری فیک کریں

ہوئے حضور نے یہ نوری سفر کیسے طے کیا؟ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی نزد میں ہے گردوں اقبال نتائج حبیب خدا نوری تھے اور نوری رفتار سے کھربوں کلومیٹر کا سفر قدرت کاملہ سے کیا معراج کا واقعہ حقیقی ہے خواب کی بات نہیں قادر مطلق نے نظام کائنات کو جام (jam) رکھا نبی اکرم تمہاری فرضی براق کے محتاج نہیں خدا نہیں عرش معلیٰ پر جانے کے لیے آکسیجن کی احتیاج ہے۔

### نظام شمسی کی تقویم

سورج کا قطر 1382400 کلومیٹر ہے اس میں ہماری دس لاکھ زمینیں آسکتی ہیں۔ چاند کا قطر صرف 3464 کلومیٹر ہے ہماری زمین چاند سے 50 گنا بڑی ہے۔ سورج زمین سے 14 کروڑ کلومیٹر دور ہے اس کی شعاعیں 17856000 کلومیٹر فی منٹ کی رفتار سے پونے آٹھ منٹ میں زمین پر پہنچتی ہیں۔ چاند زمین سے 3360000 کلومیٹر دور ہے چاند کی گرمیوں میں رنگت اور ذائقہ پیدا کرتی ہیں۔ سورج کی ڈیوٹی فصلوں کو پکانا، رات دن کا فلوریور اور سمندروں سے آبی بخارات اوپر بھجانا ہے۔ زمین مشرق سے

کھانے پینے کی چیزوں میں منتر صحت ملاوٹ نہیں کرتے نہ ہی غیر موزوں ریٹ بڑھاتے ہیں۔

**دریں عبرت** پڑھنے والوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ یہ حصہ پڑھنے کے بعد اگر ایسا نظام کسی اور جگہ نظر آئے تو بندہ ناچیز کو مطلع فرمائیں  
0300-4344139

**1 تقویم کے دو نادر تفسیر** جولائی 1951ء میں چند روسی ماہرین ارض کو وادی قاف میں لکڑی کی ایک لوح 14=14 دستیاب ہوئی اس پر چند کلمات نقش تھے۔ 1952ء تک تحقیق ہوتی رہی معلوم ہوا یہ تختی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے متعلق ہے جو کہ وادی میں ہزاروں سال پہلے اتری تھی۔ ماہرین لسانیات نے مزید 8 ماہ تحقیق کے بعد بتایا کہ یہ تحریر ساسانی زبان میں ہے۔ مسٹر این ایف میکس (ماچسٹر) نے اسکا ترجمہ انگلش میں کیا۔ اردو میں ترجمہ پیش خدمت ہے۔



"اے میرے خدا میرے پردہ گار مجھ پر اپنی رحمت نازل فرما ان مقدس ہستیوں (محمد ایلیا شہر شہیر فاطمہ) کے توسل سے میری مدد فرما۔ بے شک تو ہی سیدھے رستے پر لانے والا ہے" یہ تختی Center Of Fossils Research Moscow میں آج بھی محفوظ ہے

**2 خطبہ** آج سے 2035 سال قبل حضرت ابوطالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے عقد کے وقت جو خطبہ پڑھا تھا ہمارے پاس آج بھی محفوظ ہے یہ خطبہ قرآن پاک نازل ہونے سے پندرہ سال پہلے پڑھا گیا الحمد للہ سے شروع ہوتا ہے اور کلام الہی بھی تسمیہ کے بعد الحمد للہ سے آغاز پذیر ہوتا ہے یہ خطبہ متبرکہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کامل کا واضح ثبوت ہے قرآن مجید نے بھی سورہ والضحیٰ میں اس پناہ گاہ کا تذکرہ کیا ہے۔ حوالہ کتب برائے خطبہ۔ تذکرۃ الخواص۔ اعلام الوری، البلاغ البین

مغرب تک 12664 کلومیٹر طویل ہے جس پر 200 سے زیادہ ملک موجود ہیں۔ چاند زمین کے گرد 40-7-28 دن میں ایک چکر پورا کر لیتا ہے ہر شب 50 منٹ کی تاخیر کرتا ہے عموماً سات چاند 30 دن کے اور 5 چاند = 29 دن کے ہوتے ہیں یوں 355 دن مکمل ہو جاتے ہیں۔ زمین سورج کے گرد 1/4 365 شمسی دن میں چکر پورا کرتی ہے اسکی رفتار 5315 km.ph ہے شمس و قمر کی تقویم کو سمجھنے کے لیے سورہ یسین 39 پڑھئے و القمر قدرنا منازل۔

### تقویم کے چار عناصر

تہاری و فقاری و قدوسی و جبروت

یہ چار عناصر ہوں تو جنتا ہے مسلمان (اقبال)

گرم تر سرد خشک سودا صفرا و ما حمدا

احسن الخالقین نے انسانی عقل کو دماغ میں رکھا اور جسم کو چار مزاج اور چار خلطیں دیں خون کو پورے بدن میں زندگی کی رمتی باقی رکھنے کے لیے 96 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے متحرک رکھا جو دوڑ کر غذا مہیا کرتا اور چاروں خلطوں کو معتدل رکھتا ہے۔ دماغ میں خون پہچاننے کے B.P کا اہتمام کیا مگر اس وقت جب سر جھکے۔ سر جھکنے کے واسطے سجدہ نماز کی ضرورت ہے معبود حقیقی نے نماز واجب کر کے سجدے کو عبادت عظیم کا تمغہ دیا یوں السلوۃ معراج المومن بھی مکمل ہوا، واجب ادا ہوا خون کی انتہائی گردش نے جسم اور روح کا ناٹھ جوڑ دیا۔

**سبق** اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے حیات کا بندوبست کیا ہے مگر نماز نہ پڑھنے والے خدا کے مطلق کی ناشکری کر رہے ہیں لازم ہے سجدے کے لیے سر بسجود ہوں دوران خون کی تکمیل ہو نماز کی ادائیگی سے واجب ادا ہو و ما خلقت الجن و الانس الا لیسجدون کا فریضہ بھی انجام بخیر ہو

**تقویم کے امکانات** قطب شمالی کے دروازے پر شمالی یورپ کا ایک ترقی یافتہ ملک ناروے ہے۔ جہاں گھروں، دفاتروں گاڑیوں کو ٹالا لگانے کی ضرورت نہیں۔ اگر پرس گر جائے اس میں ایڈریس موجود ہے آپکے گھر صحیح سالم پہنچ جائے گا۔ 6 مہینے کا دن 6 مہینے کی رات ہے۔ اپنا نام نمبیل 24 گھنٹے کا خود وضع کر لیتے ہیں۔

34000 پاکستانی بہترین ذریعہ معاش کے ساتھ مذہبی آزادی سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ گرمی، سردی کے موسم میں قمری مقامی ملک کے مطابق اپنا دن رات کا نظام چلاتے ہیں۔

پولیس نظر نہیں آئے گی مگر ایمر جنسی میں حاضر اور ریسکو شروع۔



تحریر  
آغا حسین احمد بہاولپور  
0331-7560412  
0300-6802983  
aghasainahmed@gmail.com

# ہر آرزو کی تکمیل کیلئے مخفی اسم اعظم

دنیا کی اکمل و اصدق ترین کتاب قرآن مقدس کا دعویٰ یہ ہے کہ رَطْبٌ وَلَا يَأْبَسُ إِلَّا فِي كِتَابِ مُبِينٍ۔ اس کتاب ظاہر میں ہر خشک و تر کا ذکر ہے۔ اسم اعظم کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہے مگر جستجو کرنا ہوتی ہے۔ وَيَدْعُوا الْأَسْمَاءَ الْحُسْنَىٰ فَادْعُو بِهَا۔ اور اللہ کے احسن نام ہیں۔ پس انہی سے اللہ سے دعا مانگو (القرآن پارہ نمبر 9 قال الماء سورت 7 الاعراف آیت نمبر 180) تفسیر معانی صفحہ 187 بحوالہ کافی لکھا ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اسم کیا ہے تو مولانا نے فرمایا۔ موصوف کی صفت اسم ہے تفسیر عیاشی حضرت امام رضا سے منقول ہے کہ جب تم پریشان ہو یا آرزو پوری نہ ہو تو حضرت محمد و آل محمد کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگو تو حاجت ضروری پوری ہوگی کیونکہ ہماری معرفت اور وسیلہ کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔

القرآن پارہ نمبر 11 بعد رون سورت نمبر 10 یونس آیت نمبر 1 آل تفسیر صافی صفحہ نمبر 220 پر بحوالہ تفسیر فی لکھا ہے کہ تینوں حرف اسم اعظم کے حروف میں سے ہیں جو قرآن مجید میں پھیلے ہوئے ہیں جن کو رسول یا امام ترتیب دے کر اسم اعظم بنا کر دعا مانگتے تو فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ تقدیر بدل جاتی ہے۔ القرآن پارہ نمبر 9 وقال الذین سورت نمبر 27 انمل آیت نمبر 40 قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ

سليمان کے وزیر آصف بن برخیا نے کہا میں پلک جھپکنے میں تخت بلیقیں منگواتا ہوں۔ پس اس نے کتاب زبور میں سے اسم اعظم پڑھ کر دعا کی تو بلیقیں تخت سمیت حضرت سلیمان کی کرسی کے نیچے سے سرک آئی۔ روضۃ الواعظین میں ہے کہ آنحضرت محمد رحمۃ اللعالمین سے پوچھا گیا کہ جس کے پاس کتاب زبور کا علم تھا وہ کون تھا؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہ اللہ کے پیغمبر سلیمان بن داؤد کا وہی تھا یعنی نبی کے وہی کی یہ صفت لازمی ہو کہ وہ آسمانی کا کتاب کا علم رکھتا ہو۔ گنجائش نہیں ہے۔

امامیہ جنٹری لاہور 2019ء میں میرا مضمون قرآن مقدس سے مستند اسم اعظم شائع ہونے کے بعد ہزاروں مومنین نے استفادہ کیا اور سینکڑوں نے مجھے فون کیے اور خطوط لکھے کہ چہ احوال کے اسمائے اعظم کی چلہ کشی عام آدمی کیلئے آسان نہیں۔ تن آسانی کا دور ہے۔ لہذا ایسا اسم اعظم تحریر کروں جو آسان ہو اور طویل المیعاد نہ ہو جس نے ہر جائز مقصد چلد پورا ہو جائے۔ فی زمانہ مسائل زیادہ اور وسائل کم ہیں۔ ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہے۔ معاشرہ میں انصاف ناپید ہے۔ انسانیت کی بنیاد احساس ہے احساس مرچکا ہے۔ روحانیت کی بنیاد خلوص ہے خلوص کی بجائے اب زر پرستی ہے ملک میں بجلی، گیس، پیٹرول، پانی اور تعلیم مہنگی ہو چکی ہے۔ حکومت کو شاں ہے لاکھوں تعلیم یافتہ لڑکے اور لڑکیاں بے روزگار ہیں۔ شرفاء کے گھروں میں جوان بیٹیوں کی عمریں ذہلیق جا رہی ہیں۔ مناسب رشتے نہیں آتے۔ قدم قدم پر دھوکہ فراڈ ہے ہر کام میں بندش ہے۔ ملک متروک ہے جس کی وجہ سے مہنگائی کا عروج ہے۔ حکومت کو شاں ہے۔

نام ذاتی ہے جو اللہ ہے باقی تمام نام صفاتی ہیں۔

ہر اسم کی الگ الگ معانی اور تشریح ہے خاصیت اور اثر ہے اسم اعظم رب کو پکارنے کی دعا ہے۔ بار بار دروازہ کھٹکھٹانے سے ضرور کھلتا ہے۔ اللہ طلبکار کی آرزو کو سن کر پوری فرماتا ہے اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

شموس الانوار میں جس امراری نقش کا مجھے نظارہ ہوا وہ یہ ہے تحریر تھا کہ اس نقش میں اسم اعظم مخفی ہے کوشش سے تلاش کرو صاحب کتاب نے نہ نقش کی چال لکھی نہ ہی اسم اعظم لکھا۔ میں نے 14 سال کی ریاضت سے اس راز کو پالیا۔ نقش کو کھل کیا اور اسم اعظم مخفی تلاش کر لیے۔ مثلث کو الگ کر کے مربع کو کھل کیا تو ظاہر ہوا۔

انسان کو جب ہر طرف سے گھمبیر الجھنیں اور پریشانیاں گھیر لیں تو ان سے تحفظ اور خوشحالی کیلئے عام فہم، آسان، مختصر عمل اسم اعظم مخفی پیش کر رہا ہوں۔ میرا 2016ء سے مجرب ہے۔ کثیر الفوائد ہے۔ 2000ء میں کتاب شمس الانوار میں یہ عمل نظر نواز ہوا مگر عیاں نہ تھا۔ معجزہ تھا۔ اس کو حل کرنے میں میرے 14 سال صرف ہوئے۔ متقدمین علمائے عظام اور مجتہدین کرام نے اسم اعظم کو ہمیشہ مخفی رکھا۔ مگر اب سائنسی علوم کی ترقی کا زمانہ ہے روحانیت کو اب بطور سائنس تسلیم کیا جا چکا ہے۔ اسم اعظم سے بوسیلہ معصومین علیہم السلام غیبی امداد کا نزول و ظہور ہوتا ہے۔ استفادہ کیلئے ایمان اور یقین لازم ہو۔ اللہ تعالیٰ کے 1856 اسمائے حسنیٰ میں سے ایک

لِلْعَالَمِينَ وَاللَّطِيفِينَ الظَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ عَلَيْهِمُ  
السَّلَامُ ۝ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۝ الْعَجَلُ الْعَجَلُ  
الْعَجَلُ نقش یا لوح کو پاسنگ کوئڈ کرنا کر بحفاظت اپنے پرس بریف  
کیس الماری کی دراز، زیورات یا انعامی بانڈ میں رکھیں۔ صدقہ 200  
روپے کسی غیر سید متکین یا یتیم یا یتیم یا یتیم یا مستحق مریش کو دیں۔

نقش مربع میں پوشیدہ نقش مثلث کو یوں بنائیں

يَا مُغْنِي			يَا ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ٤٨٦			يَا غَفَّارُ		
۱۰	۱۰۰۰	۳۰	۳	۳۰۱	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰	۳۰
يَا وَهَّابُ			نام --- بن / بنت			يَا غَفَّارُ		

**فوائد:** تنگدستی اور بندش کا خاتمہ، عہدہ میں ترقی، تسخیر خلق، العیب، رشتہ  
شادی، بخت کشائی، کاروبار میں اضافہ، ہر کام میں کامیابی، مقدمہ میں  
فتحیابی، رزق، بغنا سے بہا، چانس انعام بانڈ، صحت سلامتی، سفر و یزہ تعلیم  
میں سہولت، تسخیر اولاد، خاوند، بیوی و افسران، تکمیل اشتیاق حج و زیارات  
مقامات مقدسہ، عمل کا کوئی جزو کبھی نہ آئے تو فون یا جوانی لگانہ کے ذریعہ  
دریافت کر لیں۔ میری جانب سے تمام مومنین کو اس عمل، نقش اور لوح کی  
اجازت ہے اس کی جزا میں آغا ثار احمد مرحوم بانی امامیہ جنتری لاہور کی  
مغفرت کی دعا مانگیں فاتحہ پڑھیں۔ خود بنائیں تو نقش یا لوح صدقہ ادا  
شدہ، ورو شدہ سونا پالش مجھ سے بنوائیں۔

ڈاک اور ملاقات کا پتہ: آغا حسین احمد

ہاؤس نمبر 41 شیخ ویلی ہاؤسنگ سکیم بالقابل ٹوبوٹا شوروم کراچی چوک احمد  
پور ہائی پاس نیشنل ہائی وے بہاول پور۔ فون صبح 2 تا 9 بجے دوپہر۔ شام  
7 بجے تا عشاء 10 بجے 0300-6802983

آیت اسم: اگر کوئی اس آیت کی سات مرتبہ روزانہ تلاوت کرے گا تو اسکی دعائیں مستجاب ہوں گی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ اللّٰهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيثًا ۝ (سورہ نساء: ۸)

٤٨٦			
۱۰	۳۰	۱۰۰	۳۰
۱۰	۱۰۰۰	۳۰	۱۰
۳	۳۰۱	۱۰۰۰	۳۰
۱۰۰۰	۱۰	۳۰	۱۰۰

اس نقش مربع کی چال کسی کتاب میں درج نہیں ہے خاکسار کی سنی کا شہر ہے کہ  
دائیں سے بائیں اوپر سے نیچے وقت ۱۹۰ عدد ہے۔ ۱۹۰ عدد ہے اللہ کے اسم مقیم  
کا (ہیشہ سے قائم) اس نقش کو شرف قدر میں مخلول منگ و منبر و زعفران سے نئے  
قلم سے لکھیں۔ اس نقش کے ہر خانہ کا عدد کسی نہ کسی اسم اعظم کی نمائندگی کرتا  
ہے۔ اوپر والے نقش مربع میں پوشیدہ نقش مثلث کی چال کسی کتاب میں درج  
نہیں ہے خاکسار کی نظر کا شہر ہے۔ ہر خانہ کا عدد کسی نہ کسی اسم اعظم کی نمائندگی  
کر رہا ہے۔ ان تمام اعداد کو جمع کرنے سے

نقش مربع نمبر 1

٤٨٦			
۱۰	۳۰	۱۰۰	۳۰
۳۰	۱۰۰	۳۰	۱۰
۱۰۰	۳۰	۱۰	۳۰
۳۰	۱۰	۳۰	۱۰۰

دائیں سے بائیں اور اوپر سے نیچے تمام اعداد کو جمع کرنے کا وقت ۳۳۹۵  
ہے یعنی نقش صحیح ہے۔ ۳۳۹۵ کے اسم اعظم = یا ذُو الْجَلَالِ  
وَالْإِكْرَامِ (مرتبے والا بخشنے والا) = 1100 + یا مُغْنِي (امیر غنی کرنے  
والا) = 1100 + یا غَفَّارُ (بخشنے والا) = 1181 + یا وَهَّابُ مخاف  
فرمانے والا ۱۴ کل میزان ۳۳۹۵ مربع اور مثلث نقوش کو لکھ کر ان کے  
پیچھے یہ عزیمت لکھیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَائِكَ  
الْمُقِيْمَةِ الذِّوَالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ الْمَغْنِي وَ الْغَفَّارِ  
الْوَهَّابِ ۝ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَ رِزْقًا وَ عِزَّةً بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ حَمَّةٍ

اصلی امامیہ جنتری خریدنے کے لیے سرواز (ٹائٹل) پر چمکنے والی (Original) کی اسٹیٹیب اور معیار ضرور چیک کریں


# لوح ننانوی اسمائے الحسنیٰ

تحریر  
راجہ افتخار حسین (کراچی)  
0333-2312068

وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوْهُ بِهَا

تاریخین امامیہ جنتری میری ہر سال یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کیلئے اور امامیہ جنتری کیلئے اچھی سے اچھی تحریر لکھوں اس دفعہ ننانوے اسمائے الحسنیٰ کی لوح کے عنوان سے لکھ رہا ہوں پروردگار عالم کا نام اللہ اسم ذات ہے باقی تمام اسماء اسمائے صفات ہیں۔ یوں تو خالق کائنات کے ہزاروں نام ہیں مگر میں نے صرف امامیہ جنتری کی جدول ننانوے اسمائے الحسنیٰ کے اعداد لے کر یہ لوح تیار کی ہے۔ یہ لوح برسوں سے میرے مخرجات میں سے ایک ہے میں اس کے صرف فوائد لکھ رہا ہوں کیونکہ ننانوے اسمائے الحسنیٰ میں ہر اسم کی تعریف لکھنا جنتری کے صفحات کی کمی کی وجہ سے اچھا نہیں ہے۔ میں صرف اور صرف لوح کے فوائد تحریر کر رہا ہوں۔ اس لوح کے فوائد لکھنا کا غذا اور قلم یا زبان سے بیان کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ لوح پاس رکھنے سے سحر و جادو باطل ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو ایسا مرض ہو جائے کہ کسی طبیب سے علاج نہ ہو تو ہر روز اس نقش کو زعفران سے چینی کی پلیٹ پر لکھ کر پلایا جائے تو کبھی ہی بیماری ہو خدا تعالیٰ اسے عافیت بخشے گا۔ اگر کسی کی اولاد نہ ہو رہی ہو تو دونوں میاں بیوی الگ الگ اس نقش کو زعفران سے لکھ کر گھٹے میں بہنیں اور اسکو چینی کے برتن پر لکھ کر اکیس روز چیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ اولاد نیک عطا ہو۔

اس لوح کے حامل کو اللہ تعالیٰ چغل خوروں اور فیصبت کرنے والوں سے اور تمام بلیات ارضی و سماوی سے محفوظ رکھے گا۔ اگر کوئی شخص اس لوح کو کشادگی رزق کے واسطے بنائے گا تو اللہ تعالیٰ روزی میں کشادگی عطا فرمائے گا۔ اگر اس پر قرض ہو تو خدا تعالیٰ قرض اتارنے کے اسباب پیدا کرے گا۔ اس لوح کو حائل کر کے اپنے پاس رکھے گا تو تمام آفتوں سے



کو بنائے تو خدا تعالیٰ اس کی حاجت بر لائے گا۔ کبھی راہ بھولے گا تو راہ پائے گا۔ اگر کوئی اس لوح کو اپنے پاس رکھے گا تو بھوکا نہیں مرے گا۔ اس لوح کو پاس رہے مال و دولت کی فراخی ہو اگر کی جگہ پر رکھے تو مال و دولت کی ہو اس کو ہر فرض نماز سے پہلے اپنے کے بعد اسے اپنی جیب میں رکھیں تو اور ایک عرصہ کے بعد ایک روحانی مخلوق پیدا ہوگا۔ اس طرح ہر عادت بد کے خاتمے اس نقش کو کسی پیشی شے پر پڑھ کر کھائے یہ تمام فوائد

اور اس کے دشمنوں کو مقہور کریگا۔ جو شخص یہ بخت ہوگا تو بخت اسکا بلند ہوگا اگر فاقہ سے محفوظ رہے گا اور کبھی رکھنے سے سفر میں امن و سلامتی دکان کی چوکھٹ پر لگائے یا غلہ حفاظت ہو اور کاروبار کی فراخی مضلے پر رکھا کرے اور نماز مکمل روحانی فیوض حاصل ہوں حاضر ہو اور روحانی درجہ میں کمال کیلئے اور اگر بات بات پر غصہ آتا ہو تو اس لوح کے ادنیٰ کرشمات میں سے ہیں۔

اسماعیٰ الحسنیٰ کی لوح کے کل اعداد 33934 ہیں۔ جن کو کے شرف و اوج، شمس مشتری تثلیث، قرن السعدین میں تیار کر سکتے ہیں۔ شرف قدر ہر ماہ آتا ہے یہ تمام اوقات آپ کو امامیہ جنتری میں مل جائیں گے۔ لوح تیار کرنے کے بعد 313 مرتبہ اسم ذات یا اللہ پڑھ کر لوح پر دم کریں لوح کندہ کرتے وقت کونوں کے چھوٹے ہندسے ہرگز کندہ نہ کریں کیونکہ یہ ہندسے لوح کی چال کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ لوح تیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی حاجتیں روا کر دے تو پانی امامیہ آغا فتار احمد زوجہ محترمہ آغا افتخار حسین والدہ محترمہ علی فرزند کیلئے دعائے مغفرت کریں اور مجھ ناچیز اور آغا افتخار حسین اور علی فرزند کیلئے دعائے صحت اور درازی عمر کیلئے دعا کریں۔ اگر مضمون کی کوئی جز سمجھ نہ آئے تو جوابی لفافے سے وضاحت مفت طلب کریں۔ کیونکہ فون پر بات کرنا میرے لئے مشکل ہے۔

Imamia Jantri Official By Iftikhar Book Depot - Download from Googleplay-105playstore



# قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

تحریر: عابد حسن علوی (کراچی)

+92 331-9128133

+92 333-3300913

محترم قارئین کرام! سورۃ التوحید کی آیات مبارکہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کے عنوان سے کچھ سطروں کے کر حاضر خدمت ہوا ہوں جو کہ اس سے پہلے کسی کتاب میں میسر نہ آئی ہوگی۔ اول اصول دین توحید ہے اور موضوع توحید پر نازل ہونے والی سب سے محکم اور جامع مفہوم لئے سورۃ، سورۃ اخلاص ہے جس میں بسم اللہ سمیت پانچ آیات مبارکہ ہیں۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قُل کے بعد اللہ ہے جو کثرت کنزاً مخفیہ کی منزل پر عالم ہونیت ہے جسے اس نے خود پوشیدہ کہا کہ جہاں تک زبان کی رسائی ممکن نہیں تو جس شے کو انسان جانتا ہے اس کا اقرار و انکار برابر ہیں تو پھر ماننے کے لئے ضروری ہے کہ اس کا علم ہو۔

افعال، یہ ہی حقائق و جو بیہ کا جامع اور یہ ہی حقائق امکانیہ کا مالک ہے۔ سلسلہ و جو بیہ کے تمام مراتب پر محیط یہ ہی برزخ کبریٰ ہے۔ بحر و جو ب اور دریائے امکان کے درمیان یہ ہی وہ راز ہے جو تمام انبیاء و اوصیاء پر ظاہر کیا گیا۔ اسی پر ایمان لانے کے لئے کہا گیا اسی کو ولایت مطلقہ ذات علیؓ، لسان شرع میں امام اور یہ ہی قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کا راز ہے۔

ظاہر باطن اعداد زمان + مکان + توانائی میں، اس سے باہر مشاہدہ کا تصور نہیں۔ لہذا جس توحید پر ایمان کے لئے کہا گیا وہ مقام خلی + مقام ظہور ہے۔ مقام ظہور کا مشاہدہ ممکن ہے جو کہ ساری حد آخر ہے۔

ظاہر	باطن	اعداد
ا	ل	110
ل	ا	41
ل	ا	41
ہ	ا	1

اسم اللہ اللہ کی تمام صفات کا جامع ہے۔ اسماء کا جب تک خارج میں وجود نہ ہوگا تب تک انکا ظہور ممکن نہیں لہذا یہ اسم بھی مظہر چاہتا ہے۔ اسم اللہ کا مظہر ہی مظہر کل اور مظہر تامہ کہلائے گا جو بلحاظ جامعیت کمالات اسم جامع اللہ سے مناسبت رکھتا ہے۔

ظاہر باطن اعداد لہذا اسم اللہ جب باطنی لحاظ سے دیکھا گیا تو ظلیہ اقامت حاصل ہوا۔ لہذا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ میں اسم اللہ کے فوراً بعد جو اسم آیا وہ احد ہے۔ ہفتہ کے سات دن چہارہ معصومین سے نسبت رکھتے ہیں۔ جمعہ امام زمانہ سے، ہفتہ رسول اللہ سے اور اتوار

ظاہر	باطن	اعداد
ا	ل	110
ح	ا	1
و	ا	31

الاعلیٰ مولائے کائنات مولا علیؓ سے اور عربی میں اتوار کو احد کہتے ہیں۔ اسم احد کو جب ہم نے باطنی لحاظ سے دیکھا تو الاعلیٰ حاصل ہوا۔

لہذا ولایت اقتدار و تصرف کلی اور مطلقاً ظہور وحدت کا نام ہے۔ اسم احد مظہر اسم اللہ اور سرکار علیؓ کی ولایت پر مدلل ہے چنانچہ سورۃ التوحید میں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کے فوراً بعد اسم احد واضح کر رہا ہے کہ اللہ نے علیؓ کو اپنی معرفت تامہ کیلئے تکمیل معرفت کے آخری درجہ پر ظاہر فرمایا۔ کیونکہ علت ظہور ہی معرفت تھی جس کی سند اسم اللہ اور اسم اللہ کے باطن سے بھی ملی لہذا فیض الویت مخلوق تک پہنچانے کے لئے یہ ہی مظہر اکمل فوق المخلوق تحت الخالق یہ ہی مظہر کامل و ہستی جامع یہ ہی مظہر ذات، یہ ہی مظہر صفات، یہ ہی مظہر

## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط



عزمت علیکم یا حنضرائیل  
بعق ق الم حمد کھیمص  
ن باریک اللہ فیکم و علیکم

خاتم سورۃ الاخلاص خاتم سورۃ الاخلاص پر کرنے کا قاعدہ یہ ہے کہ تمام حروف سورۃ توحید کو بسط حرفی کریں اور پھر ملفوظی کریں۔ ملفوظی کرنے کے بعد ان کے اعداد بجد قمری سے استخراج کریں جو 2858 ہیں اب اس کے حروف بتائیں جو "ح، ن، م، ہ" ہیں آگے کلمہ انیل کا اضافہ کیا تو موکل جنضرائیل بنا۔ خاتم کے چاروں کونوں پر جو اعداد ہیں ان کا قاعدہ یہ ہے کہ پوری سورۃ التوحید ۳ حروف پر مبنی ہیں جن میں ۳۶ حروف نورانی

## سورۃ قریش اور

## سورۃ کافرون کے فوائد

0332-6996581

محمد علی  
کمیلی

پک نمبر 3/42 تحصیل احمد پور سیال ضلع جھنگ

قارئین کرام السلام علیکم! میری ہر سال کوشش ہوتی ہے کہ قارئین امامیہ جنتری کے لیے اچھے سے اچھے آسان اور با فہم عمل تحریر کروں جس سے مومنین و مومنات فائدہ حسب منشاء حاصل کر سکیں۔

### سورۃ قریش کے فوائد

اگر سواری نہ ملتی ہو تو سفر کی مشکلات آسان ہو، گاڑی خراب ہو، موٹر، فریج یا کوئی مشین خراب ہو یا کہیں دشواری ہو تو سورۃ الحمد ایک مرتبہ، سورۃ اخلاص 3 مرتبہ اور سورۃ قریش 101 مرتبہ پڑھیں اول و آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ حاملہ خاتون صبح و شام اسی طرح پڑھے تو اس کی ڈیوری آسان ہوگی۔ گھر کے راشن پر پڑھنے سے بے حد برکت ہوگی کبھی کمی نہ ہوگی ہمیشہ کے لیے بیماریاں و مشکلات پریشانیاں ختم ہو جائیں گی زندگی میں سکون و چین، برکت و عاقبت نصیب ہوگی۔ ہمیشہ صبح و شام اس طرح اس تسبیح کا ورد کرنے سے کامیابی مقدر بن جائیگی۔ جو شخص کھانے کے بعد ایک مرتبہ پڑھے گا کھانا بیماری نہیں بنے گا بلکہ بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ دو مرتبہ پڑھنے سے رزق ہمیشہ ملتا رہے گا۔ جو اسکو تین مرتبہ پڑھے گا اسکی نسلوں سے کبھی رزق ختم نہ ہوگا اسکی اجازت عام ہے۔

### سورۃ کافرون کا عمل

1001 مرتبہ خود پڑھنا ہے اور روغن زیتون پر دم کریں۔ یہ بہت بڑا عمل ہے بہت بڑی تاثیر ہے دنیاوی لذتیں چھوٹ جاتی ہیں۔ یہ ایسی سورۃ ہے جو شیطانیت ختم کر دیتی ہے اس عمل سے پتھر کھل جاتے ہیں۔ لاعلاج امراض اور نافرمانوں کے لیے پانی، شہد اور روغن زیتون پر 1001 مرتبہ سات نصاب سے پڑھیں مریض کو چند قطرے اس تیل / روغن سے مالش کریں تو برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے گھریلو جگڑے، رنجشیں ختم ہو جائیں گی۔ موسیقی سے پرہیز کریں رزق حلال اور صدق متعال کا لازمی خیال رکھیں۔ نیز بزرگ سورۃ الحمد دو عانے کھیل امراض کی صحت یابی۔ شوگر کا علاج مفت۔

ہیں اور گیارہ دیگر ہیں۔ نورانی حروف کے اعداد ابجد قمری سے لیں جو ۸۷۲ بنے۔ اب خاتم کے چاروں کونوں پر نقش یا بُدُوح ۲۲X کے قاعدے سے پڑھیں۔ **فوائد:** یہ خاتم ہر ستارے کے اوج و شرف، تثلیث و تدوین، قرآن السجدین میں بنایا جاسکتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اعمال و نقوش میں کسی قسم کا اثر نہیں انہیں دعوت عام ہے اور جو عالمین ہیں جستجو میں کہ ہے خوب سے خوب تر کہاں ان کے لئے علم کے کئی باب کھول دیئے ہیں۔ فراخی رزق، تسخیر خلافت اور حصول روزگار خواہ کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو اس خاتم سے کام لے کر رفع ہو سکتا ہے کیونکہ حامل خاتم ایک قہیبی و روحانی حصار میں آجاتا ہے اگر با طہارت صوم و صلوٰۃ کا پابند رہے تو تمام کام منجانب اللہ ہوتے رہتے ہیں۔ عالمین حضرات سے گزارش ہے کہ تا امل کو ہرگز نہ بنا کر دیں۔ مضمون کا کوئی جز سمجھ نہ آیا ہو تو وضاحت لی جاسکتی ہے۔

**اہم:** ۳۵ ذی الحجہ ۱۸ محرم الحرام تک میں کر بلا معنی میں ہوتا ہوں اور ۲۷ جمادی الاول تا ۱۰ جمادی الثانی (ایام فاطمیہ) ایران میں ہوتا ہوں۔ اس دوران مجھ سے رابطہ نہیں کیا جاسکے گا۔ (عابد حسن سلوی)

## Counselling Corner

A highly qualified counsellor just a phone call away.

Syed Babar Hussain Rizvi

(His.hon counselling)

contact: 03361105500



DISORIENTED - BEWILDERED

سید بابر حسین رضوی 0336-1105500

زائچہ بنوانے، برتہ ستون معلوم کرنے اور نفسیاتی مسائل کے حل کے لیے۔ سید بابر حسین رضوی

0313-2009666

S.B.H Rizvi (KARCHI)

تحریر  
راجہ اعجاز حسین (کراچی)  
Mob: 0321-2542434  
0345-2887962

# عمل حاجت روائی الودود

قارئین امامیہ جنتری السلام علیکم! دعا ہے کہ اللہ پاک محترم قبلہ آغا افتخار حسین صاحب کو تندرستی اور سلامتی عطا فرمائے اور بانی امامیہ جنتری آغا ثار احمد مرحوم و اہلیہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ (آمین) قارئین! اللہ تعالیٰ کے صفاتی اسمائے حسنیہ میں سے ایک اسم مبارک الودود کا عمل قارئین کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے۔ **وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوهُ بِهَا** (سورۃ اعراف، آیت: 180) **ترجمہ:** اچھے اچھے نام خدا ہی کے لیے مخصوص ہیں۔ تم اسے انہی ناموں سے پکارو۔ پھر فرمایا:

**يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا وَّ سَجُوْا لَهٗ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا** (سورۃ احزاب، آیت: 41-42)

**ترجمہ:** اے وہ لوگو! جو ایمان لائے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو اور اس کی تسبیح صبح و شام کیا کرو۔ اسمائے حسنیہ کی تعداد مخصوص نہیں البتہ ان میں مقبول ترین وہ اسمائے حسنیہ ہیں جن کا ذکر اللہ پاک نے قرآن حکیم میں خود کیا ہے۔ اسم الودود قرآن حکیم کی سورۃ ہود کی آیت نمبر 90 میں نازل ہوا ہے (اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ وَّ دُوْدٌ) سورۃ ہود آیت نمبر 90۔ اس مبارک اسم حسنیہ کا ایک مجرب الجرب عمل پیش کر رہا ہوں جو کہ حُب و تسخیر کے لئے لاجواب ہے۔ جمعہ کے دن ساعت زہرہ میں نقش تیار کریں یا پھر چاندی کے پترے پر کندہ کریں جو خود تیار نہ کر سکے وہ کسی صاحب علم مومن یا مومنہ سے تیار کروا لے اور نقش کو سامنے رکھ کر بتائے ہوئے درج ذیل طریقے اور تعداد کے مطابق ورد کریں۔ ان شاء اللہ کامیابی ہوگی۔

108 بار	يٰۤاَحْقِيْ بِحَقِّيْ اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ وَّ دُوْدٌ	6
102 بار	يٰۤاَمُّوْسِيْنَ بِحَقِّيْ اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ وَّ دُوْدٌ	7
137 بار	يٰۤاَوْسَعُ بِحَقِّيْ اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ وَّ دُوْدٌ	8
65 بار	يٰۤاَدِيَّانُ بِحَقِّيْ اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ وَّ دُوْدٌ	9

1- اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ وَّ دُوْدٌ کو بسط حروفی کریں۔

ان۔ ر۔ ب۔ ی۔ ح۔ م۔ و۔ د۔ و۔ د۔

2- اب ان حروف کو تخلیص کریں یعنی جو حروف دوبار یا سہ بار آئے ان کو کات دیں۔ تخلیص کے بعد جو حروف برآمد ہوئے وہ یہ ہیں۔

ان۔ ر۔ ب۔ ی۔ ح۔ م۔ و۔ د۔


3- اب ان حروف سے عمل تیار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیہ میں سے ہر حرف کا اسم اعظم لیں۔

ا سے اللہ۔ ن سے نافع۔ ر سے رؤف۔ ب سے بدیع۔

ی سے یسیو۔ ح سے حق۔ م سے مبین۔ و سے واسع۔

د سے دیان۔

نمبر شمار	ورد	تعداد
1	يٰۤاَللّٰهُ بِحَقِّيْ اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ وَّ دُوْدٌ	66 بار
2	يٰۤاَنَافِعُ بِحَقِّيْ اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ وَّ دُوْدٌ	201 بار
3	يٰۤاَرُوْفُ بِحَقِّيْ اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ وَّ دُوْدٌ	286 بار
4	يٰۤاَبَدِيْعُ بِحَقِّيْ اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ وَّ دُوْدٌ	86 بار
5	يٰۤاَيُّسُوْبُ بِحَقِّيْ اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ وَّ دُوْدٌ	280 بار



فروا بتول بنت فاطمہ کا مسخر مہربان کر یا رحیم الرحمن کر علی حسنین بن کثوم کو صرف مبارک بیوی بننے کے لیے

**فوائد عمل:** تسخیر زوجین، تسخیر اولاد، تسخیر افسران

**نوٹ:** نقش کے نیچے اپنا نام مع والدہ اور مقصد ضرور لکھیں۔ میں نے ہر چیز کی وضاحت کر دی ہے اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو فون پر وضاحت طلب کریں۔

زیب النساء خواجہ

مغل حویلی سوچی گیٹ لاہور

0304-9105975

# فضیلت اسرار اور سورۃ الفاتحہ (سورۃ الحمد)

السلام علیکم! یا علی مدد۔ آپ سب کی خیریت کے لیے دعا گو ہوں خصوصاً آغا انخار حسین صاحب اور میرے بہت ہی شفیق و محترم استاد آغا حسین احمد صاحب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انکو صحت و سلامتی کے ساتھ عمر خضر عطا فرمائے اور انکی نیک توئیقات میں اضافہ فرمائے۔ آمین!

آج میں آپکی خدمت میں سورۃ الفاتحہ کے چند اسرار اور فضائل بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں، مگر قبول اقتداء، زہے عز و شرف!

ہذا اس سورۃ کو تین (3) مرتبہ خلوص دل سے پڑھنا دو قرآن ختم کرنے کا ثواب ہے۔ ہذا امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اگر مردہ پر ستر (70) مرتبہ سورۃ الحمد پڑھی جائے اور اسکی روح پلٹ آئے تو تعجب نہیں کرنا چاہیے۔

ہذا سورۃ الحمد کی سات آیات ہیں اور یہ ہر نماز میں دو مرتبہ پڑھی جاتی ہے اس لیے اسے "سبع المثانی" بھی کہا جاتا ہے یعنی "دو مرتبہ سات"  $14 = 7 + 7$  (یہ چودہ معصومین کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے)  $5 = 1 + 4 = 14$  پانچ سے مراد پنجتن پاک ہیں۔ سات غازی عباس کے نام کا مفرد عدد ہے اور یہ عدد اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا اہمیت رکھتا ہے اسکی چند مثالیں پیش خدمت ہیں۔

سات زمین، سات آسمان، ماں کی کوکھ کے سات پروے، جنت و جہنم کے سات درجات، قوس قزح کے سات رنگ، ہفتے کے سات دن، نظام شمسی کے سات سیارے، قرآن کریم میں سات سلام، اور لفظ "یقین" کے سات نقطے۔ غرضیکہ اگر صرف عدد سات کے بارے میں لکھنے لگیں تو اسکے لیے ایک علیحدہ مضمون درکار ہے۔ آئمہ اطہار کے اسماء گرامی میں سے اگر مشترک لیے جائے تو تین محمد اور چار علی  $7 = 4 + 3$  سورۃ الفاتحہ کے 140 حروف ہیں (14 معصومین)۔ سورۃ الفاتحہ کی کوآیت ناسخ و منسوخ نہیں ہے۔

ہذا کتاب منتخب التواریخ میں ہے کہ حضرت امام محمد تقی نے فرمایا کہ سورۃ الحمد میں یہ سات حروف (ث، ج، ح، ز، ش، ظ، اور ف) نہیں ہیں۔ جن سے مراد علی الترتیب شوریہ، جیم، خیاش، (خبیث)، زقوم، شقاوت، ظلمت اور فرقت ہے لہذا جو شخص صدق دل سے اور خشوع و خضوع سے اس سورۃ کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ درج بالا آلائشوں سے اسکو محفوظ رکھے گا اور اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی (اور یہی حکم 14، 12، 5 کی مودت رکھنے والوں کے لیے بھی احادیث سے ثابت ہے)۔ علامہ عرفان حیدر شہید فرمایا کرتے تھے کہ سورۃ الحمد محمد و آل محمد کی دعا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بوجہ قربت اپنا کلام قرار دیا ہے۔ "ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور

"فاتحہ" کے لغوی معنی فاتحہ کے لغوی معنی ہیں فتح کرنے والی یعنی (کھولنے والی) ابتداء، آغاز

## سورۃ الفاتحہ کے دیگر اسماء

- سورۃ الحمد
- سورۃ شفا (سورۃ شافیہ)
- سورۃ کافیہ
- سورۃ وافیہ
- سورۃ الکفر
- سورۃ الدعاء
- سورۃ المناجات
- الصلوۃ
- سورۃ السوال
- سورۃ رقیہ
- سورۃ تعلیم السلہ
- سورۃ السؤل
- سورۃ الفیض
- أم الكتاب
- نور الكتاب
- فاتحہ القرآن
- سبع المثانی

احادیث میں اس سورۃ کا نام "فاتح الكتاب" ہے جس کا مخفف "فاتحہ" ہے فاتحہ کے معنی ایسی چیز کے ہیں جس سے شروع کیا جائے چونکہ قرآن مجید کا آغاز اسی سورۃ سے ہوتا ہے اس لیے اسے "فاتحہ" کہا گیا ہے۔ ترتیب نزول کے لحاظ سے صرف سورۃ بقرہ کی پہلی پانچ آیات اس سے قبل نازل ہوئیں۔ یہی سورۃ ہے۔ مدینہ میں بھی نماز کے لیے نازل ہوئی۔

اسرار و رموز اور فضیلت سورۃ الفاتحہ

ہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! سورۃ الحمد سے بہتر کوئی سورہ قرآن میں نہیں۔ ہذا سورۃ الحمد کی تلاوت بارگاہ ایزدی میں دعا و مناجات ہے۔

ہذا یہ سورۃ موت کے سوا ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ ہذا روایت میں ہے کہ مریض کی عیادت کے وقت اسکا دایاں ہاتھ پکڑ کر سورۃ الحمد کو سات (7) مرتبہ پڑھنا، موجب شفا ہے ہذا جب کوئی شخص بیمار ہو تو چینی کی پلیٹ پر سورۃ الحمد زعفران سے لکھ کر دھو کر اسے پلائی جائے تو وہ بہت جلد اچھا ہو جائے گا۔ ہذا اگر کوئی شخص سورۃ الحمد کو طلوع آفتاب سے پہلے لکھ کر پاس رکھے تو جس ظالم کے پاس جائے گا وہ مہربان ہو جائے گا۔ ہذا معاشی تنگی نہ ہوگی، رزق غیب سے ملے گا نیز عزیز خلاق ہوگا۔ اسکو کوئی مشکل پیش نہ آئے گی، فتوحات غیب سے ہونگی، جملہ خلاق مسخر ہونگی۔ یہی وجہ ہے کہ اسے "فاتحہ" یعنی فتح کرنے والی کہا جاتا ہے۔



دعا ہے کہ خدائے رحمن ورحیم ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے سے کبھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں محمد و آل محمد کے راستے پر ہمیشہ قائم رکھے۔ آمین یا رب العالمین بحق آل سنین

### سورۃ الفاتحہ کا عمل حلال مشکلات

اگر کوئی شخص کسی امر یا مہم میں پریشان ہو یا دوران سفر حادثات، ڈاکوؤں، چوروں، رہزنوں، ورنڈوں وغیرہ سے محفوظ رہنا چاہے تو اپنے مقصد کی نیت سے سورۃ الحمد پڑھنا شروع کرے آیت ایاک نعبدہ و ایاک نستعین کو 100 مرتبہ پکرا کر کے سورۃ مکمل کرے۔

ان شاء اللہ ہر قسم کی پریشانی دور ہوگی۔ نقش لکھ کر اپنے پاس رکھیں تو مشکل کشاء کا کام دے گا۔ مریض کو زعفران سے لکھ کر دھو کر پلانا ہر درد اور بیماری کے لیے موجب شفا ہے۔

### نقش مکرم سورۃ فاتحہ

۲۳۶۵	۲۳۶۸	۲۳۷۱	۲۳۷۷
۲۳۷۰	۲۳۷۸	۲۳۶۳	۲۳۶۹
۲۳۵۹	۲۳۷۳	۲۳۶۶	۲۳۶۳
۲۳۶۷	۲۳۶۲	۲۳۶۰	۲۳۷۲

تنبہ سے بددماغتے ہیں۔ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل فرمائیں نہ کہ انکار راستہ جو مقصوب اور گمراہ ہیں" میری ناقص رائے کے مطابق یہ دعا ہم ماننے والوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ دعا کیسے مانگی جائے۔ سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ ہے پھر اسما الحسنیٰ ہیں اسکے مالک ہونے کا اقرار ہے

الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم فلیک یومہ الذین پھر اپنی عبودیت اور عاجزی کا اظہار ہے اور دعا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط دکھاتا رہ (محمد و آل محمد) کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کیں الذین انعمت علیہم غیرو المعصوب علیہم ولا الضالین نہ کہ تو جن پر غضب ناک ہوا اور نہ گمراہوں کا پتا چلا کہ اللہ کی عبادت اور اسکی مدد کے بغیر صراط مستقیم کی طرف ہدایت نہیں ملتی نہ انسان اس پر قائم رہ سکتا ہے اور یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ "ہمیں قرآن کافی ہے" کہنے والے ہمیشہ گمراہ ہوئے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تک قرآن و عزت کا دامن تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو گے کیونکہ وارثان قرآن اہلبیت ہیں اور انہوں نے ہی ہمیں قرآن کی تعلیم دی ہے اور اسکی تائید کا علم بھی صرف انہی کے پاس ہے۔

### عمل برائے توفیق حج

معتبر روایات میں آئمہ اطہار علیہم السلام سے منقول ہے کہ اگر کوئی شخص بلا تاخیر سورۃ نبیاء پارہ نمبر ۳۰ کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لے تو اسے اسی سال حج بیت اللہ نصیب ہوگا۔ حج کتاب صغیرۃ الاخبار میں ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی خواہشمند اور مشتاق ہو وہ نئے کپڑے پہن کر پانی سے ایک ظرف پُر کر کے 30 مرتبہ اس پر سورۃ قہر پڑھے پھر اس پانی میں سے کچھ مقدار خود پئے اور کچھ کپڑوں پر چھڑک لے بعد ازاں چار رکعت نماز دو دو کر کے بجالائے تو اس عمل کے سبب سے اسکو حج و عمرہ نصیب ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اگر کوئی شخص ایک ہی نشست میں 1000 مرتبہ درج ذیل کلمات کہے تو اسے اسی سال حج نصیب ہوگا اگر اس سال حج سے مشرف نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا سے اس وقت تک نہ اٹھائیگا جب تک اسے حج نصیب نہ ہو مجرب ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ کوئی برائے توفیق حج، وسعت رزق اور حصول مال و متاع ایک ہی نشست میں 1000 مرتبہ درج ذیل کلمات پڑھے گا تو اسکا دامن ثمرات مراد سے بھر جائے گا اور اسے اسی سال حج نصیب ہوگا۔ حج بعض عالمین نے کہا اگر کوئی اس وظیفے کو حج کرنے کی نیت سے ہر شب جمعہ ایک 110 پڑھے گا تو اسے حج نصیب ہوگا۔ تجربہ شدہ ہے اور کلمات یہ ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ

اللہ کے نام سے جو رحمن ورحیم ہے اللہ جو چاہے نہیں کوئی طاقت اور نہیں کوئی قوت سوائے اللہ کے

### خصوصی نوٹ

امامیہ جنٹری (رجسٹرڈ) پاکستان کاپی رائٹ ایکٹ 1962 گورنمنٹ آف پاکستان کے تحت رجسٹرڈ ہے۔ رجسٹریشن نمبر 9573 ہے۔ جنٹری کا جعلی ایڈیشن شائع کرنے والوں کے خلاف ادارہ سخت قانونی کارروائی کا حق رکھتا ہے۔ جنٹری میں تمام معنائین و اشتہارات خالص نیک نیتی کے جذبے سے شائع ہوتے ہیں۔ مضمون نویس یا اشتہار سے لین دین کا ادارہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی ادارہ اسکا ذمہ دار ہے۔ البتہ کسی بھی شکایت سے ادارہ کو مطلع ضرور کریں۔ شکریہ



انور علی  
لکھ درودی

0310-7078787

# ایک دن کی نمازوں کے حروف اور ان کی نیکیاں

قارئین امامیہ جنتری السلام علیکم امیری طرف سے آپ سب کو سال نو مبارک ہو۔ خصوصاً آغا ثار احمد مرحوم و اہلیہ مرحومہ کو پہلے کی طرح اس مرتبہ پھر ایک لاکھ درودی پاک، پورے رمضان کے روزوں کا ثواب اور پورے ختم قرآن کا ثواب 12 مرتبہ حدیث کساء 12 مرتبہ دعائے توسل، 12 مرتبہ دعائے وارثہ، 12 مرتبہ فاتحہ اور چاروں قل 12 مرتبہ کا ثواب ہدیہ ہو۔ جنہوں نے ضالین کو صراط مستقیم پر لگایا ہے۔ 2019 میں صرف واجب نمازوں کا ثواب درج تھا۔ اب واجب، سنت اور نفل نمازوں کا ثواب درج ذیل ہے کیونکہ (سنت اور نفل) یہ بھی نماز ہے انکا ثواب بھی لینا چاہیے تب ہمارے نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا۔ باری تعالیٰ فرماتا ہے (پارہ 8 سورۃ الاعراف) ترجمہ پھر جن کے نیکیوں کے پلے بھاری ہو گئے تو یہی کامیاب ہو گئے۔ ہمیں نیکیوں کا پلہ بھاری کرنا ہے تو سنت اور نفل پڑھنا ہو گئے۔ ورنہ؟ اور تھوڑا سا نماز جائزہ پیش خدمت ہے۔

سورۃ ذکر نماز	تفصیلات	حروف	مرتبہ	نوٹل حروف	ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں	نوٹل نیکیاں
تکبیرۃ الاحرام	اللہ اکبر	X 08	= 270	X 2160	= 10	21600
تسمیہ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ	X 19	= 67	X 1273	= 10	12730
سورۃ الفاتحہ	الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ	X 122	= 41	X 5002	= 10	50020
سورۃ القدر	اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ	X 110	= 13	X 1430	= 10	14300
اخلاص	قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ	X 47	= 13	X 611	= 10	6110
دعا ثنوت	اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا	X 61	= 13	X 793	= 10	7930
درود	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّآلِ مُحَمَّدٍ	X 21	= 170	X 3570	= 10	35700
ذکر رکوع	سُبْحَانَ رَبِّی الْعَظِیْمِ وَبِحَمْدِہِ	X 20	= 41	X 820	= 10	8200
ذکر قرار	سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَہُ	X 14	= 41	X 574	= 10	5740
ذکر سجود	سُبْحَانَ رَبِّی الْاَعْلٰی وَبِحَمْدِہِ	X 20	= 82	X 1640	= 10	16400
ذکر استراحت	اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّیْ وَاَتُوْبُ اِلَیْہِ	X 22	= 41	X 902	= 10	9020
سجدہ سے اٹھتے وقت	مَحْوِلِ اللّٰهِ وَ قُوَّتِہِ اَقُوْمُ وَاَقْعُدُ	X 22	= 27	X 594	= 10	5940
تشہید	اَشْہَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَہُ لَا شَرِکَ لَہُ	X 52	= 21	X 1092	= 10	10920
سلام	اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُہُ	X 93	= 13	X 1209	= 10	12090
	نوٹل میزان	*	=	21670	= 10	216700



## سید مرتضیٰ حسین

(نادی باسوکھل) کراچی

0301-2845261, 0316-2245861

# عمل نادعلی صغیر باسوکھل

خدائے واحد لا شریک نے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات کے نبی پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرمائی اور نادعلی تازل ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مقصد میں کامیابی اور ہر جائز امور میں کامیابی، دعا کے قبول ہونے، ہر رنج و غم اور تکلیف میں کامیابی کے لیے بتایا اور مدینۃ العلم باب الحوائج امام اولیاء اللہ لسان اللہ مظهر العجایب حضرت علی ابن ابی طالب سے فی سبیل اللہ مدد طلب کریں ان شاء اللہ ہر جائز امور میں کامیابی عطا ہوگی۔

نادعلی صغیر

نَادِ عَلِيًّا مَظْهَرَ الْعَجَائِبِ تَجِدُهُ عَوْنًا لَكَ  
فِي النَّوَائِبِ كُلِّ هَمٍّ وَعَمٍّ سَيَنْجِلِي  
بِعَظَمَتِكَ يَا اللَّهُ وَبِنُبُوتِكَ يَا مُحَمَّدٌ  
وَيَوْلَايَتِكَ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ

نادعلی کے فوائد

ہر جائز امور میں کامیابی اور دعا کے قبول ہونے کے لیے

110 مرتبہ نادعلی - 110 مرتبہ يَا قَاهِرَ الْعُدُوِّ يَا وَاوِيَّ الْوَلِيِّ يَا مَظْهَرَ الْعَجَائِبِ يَا مُرْتَضَى عَلِيٍّ

بر بیماری سے صحت یابی کے لیے

110 مرتبہ نادعلی - 70 سورۃ الحمد (سورۃ فاتحہ)

حافظہ کی زیادتی اور ذہن کی تقویت کے لیے

110 مرتبہ نادعلی - 21 مرتبہ سورۃ اخلاص -

70 مرتبہ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

گمشدہ چیز یا آدمی کے لیے

110 مرتبہ نادعلی

70 مرتبہ اَللّٰهُمَّ اِنَّا الْيَوْمَ اِجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَ مَنْ يَحَقُّ

(گمشدہ چیز کا نام لیں)

یا جبرائیل بحق یا علی ۷۸۶  
۱۱۰

۱۱۲۱	۱۱۳۵	۱۱۳۲	۱۱۲۸
۱۱۳۳	۱۱۲۷	۱۱۲۲	۱۱۳۳
۱۱۲۶	۱۱۳۰	۱۱۳۷	۱۱۲۳
۱۱۳۶	۱۱۲۴	۱۱۲۵	۱۱۳۱

یا اسرافیل بحق یا علی

دنیاوی مقصد پورے ہونے اور لوگوں کے درمیان عزیز و محترم ہونے اور شر سے محفوظ رہنے کے لیے

110 مرتبہ نادعلی - 110 مرتبہ يَا كَرِيْمُ يَا رَقِيْبُ يَا مُجِيْبُ

قرض ادا ہونے اور دولت کے حصول کے لیے

110 مرتبہ نادعلی - 70 مرتبہ يَا غَنِيُّ يَا مُغْنِيُّ

ہر عمل کے لیے ضروری ہے جمعرات سے شروع کریں اول و آخر

14-14 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور بعد نماز عشاء پڑھیں - 2 رکعت

نماز رسول خدا اور حضرت علی کی خدمت میں ہدیہ کریں ہر جمعرات نذر

رسول اور نذر حضرت علی کریں - 3 دن ایک پاؤ گائے کا گوشت اپنا صدقہ

کریں - ہر ٹنل 41 دن کا ہے سمجھ میں نہ آئے تو فون پر رابطہ کر سکتے ہیں -

نوٹ 10 سال سے کم عمر بچوں کو حضرات ہوتے ہیں جس میں خانہ کعبہ روضہ

حضرت علی رضی اللہ عنہ امام حسین اور مقدس مقامات کی زیارات ہوتی ہیں اور موکلان

نادعلی سے ملاقات ہوتی ہے ان دنوں کے اوقات دو پہر 2 بجے سے رات 10 بجے

وسعت رزق کیلئے جب بھی گھر میں داخل ہوں گھر والوں پر اس طرح سلام کریں - (سَلَامٌ عَلَيْكُمْ) اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو (اَسَلَامٌ عَلَيْكُمْ)

یا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اس کے بعد سورۃ توحید پڑھیں - انشاء اللہ کچھ دنوں کے بعد روزی کی زیادتی بر لوگ تعجب کریں گے۔

سید مبارک حسین کاظمی  
(شاہ صاحب)  
R31 فیزا ڈیکس گارڈن  
ابوالحسن اسمبلی روڈ کراچی

# فضیلت و خواص ناد علی صغیر

امامیہ جنتری 2020 کے قارئین کے لیے اس مرتبہ فضیلت و خواص ناد علی صغیر پیش خدمت ہیں استفادہ فرمائیں اور مجھ حقیر کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ نیز امامیہ جنتری کے بانی آغا ثار احمد (مرحوم) و اولیہ مرحومہ اور آغا افتخار صاحب کی زوجہ مرحومہ کے ایصالِ ثواب کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں اور پسماندگان کو پروردگار صحت تندرستی کے ساتھ ساتھ کاروبار میں ترقی و اضافہ فرمائے آمین!

## نقش ناد علی

یا جبرائیل بحق یا علی ۷۸۶  
۱۱۰

۱۱۲۸	۱۱۳۲	۱۱۳۵	۱۱۲۱
۱۱۳۴	۱۱۲۲	۱۱۲۷	۱۱۳۳
۱۱۲۳	۱۱۳۷	۱۱۳۰	۱۱۲۶
۱۱۳۱	۱۱۲۵	۱۱۲۴	۱۱۳۶

یا اسرافیل بحق یا علی

ناد علی صغیر

نَادِ عَلِيًّا مُمْظَهَرَ الْعَجَائِبِ تَجِدُهُ عَوْنًا لَكَ  
فِي النَّوَائِبِ كُلِّ هَمٍّ وَعَمٍّ سَيَنْجِلِي  
بِعَظَمَتِكَ يَا اللَّهُ وَيُبْوِّتِكَ يَا مُحَمَّدٌ  
وَيَوْلَايَتِكَ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ

پڑھ لیا کرے تو رہائی ضرور ہوگی۔ اگر کوئی شخص گھر سے باہر جاتے وقت ایک مرتبہ ناد علی پڑھے گا جس کام کی خواہش کریگا تو وہ اپنے کام میں کامیابی حاصل کریگا۔ ایک مرتبہ ناد علی پڑھے لیس۔ بد لوگوں کی زبان بندی کے لیے روزانہ 10 مرتبہ ناد علی پڑھنے سے کامیابی حاصل ہو جائیگی۔ بد مزاج خاوند کی اصلاح کے لیے روزانہ 99 مرتبہ ناد علی پانی پر دم کر کے پلایا جائے تو ان شاء اللہ راہ راست پر آجائے گا۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے اور طبیب اسکے علاج سے عاجز آجائے تو بارش کے پانی پر ان کلمات کو 18 روز پڑھ کر دم کریں اور پانی مریض کو پلایا جائے فوراً شفا یاب ہوگا۔ اگر کسی شخص کو کسی جگہ اپنی بنا کر بھیجا جائے تو 3 مرتبہ ناد علی پڑھ کر اسکے کان میں پھونکے تو اسکا پیغام قبول ہوگا۔ اگر کسی شخص پر اسکا بزرگ یا حاکم غضب ناک ہو جائے تو اسکو چاہیے 71 مرتبہ ناد علی پڑھے اور 3 مرتبہ آہستہ آہستہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس شخص کا غصہ دور ہو جائے گا اور وہ اس پر مہربان ہو جائیگا۔ اگر کوئی شخص جمعہ کے دن پہلی ساعت میں 12 مرتبہ ناد علی پڑھے گا تو جس سے بات بھی کریگا وہ اسکا دوست بن جائے گا۔ دشمنوں پر غلبے کے لیے ہر روز 17 مرتبہ ناد علی پڑھے گا تو دشمنوں پر فتح پائیگا۔

ناد علی مشہور اور مقبول دعا ہے ہر مصیبت اس سے دور ہوتی ہے ہزاروں سینکڑوں برس سے عالم و عامل فیض پارہے ہیں۔ ناد علی کے حیرت انگیز عجیب و غریب خواص ہیں۔ ناد علی کی بڑی قدر و منزلت ہے بزرگان دین اور ماہر روحانیت پڑھتے ہیں اور اپنی حاجتیں اور مرادیں حاصل کرتے ہیں۔ پروردگار سب حاجتمندوں کی دعائیں قبول فرمائے۔ آمین!

اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو ہر روز 10 مرتبہ ناد علی پڑھ کر دم کرنے سے لا علاج مرض دور ہو جاتے ہیں۔ مریض کو جب بھی پانی پلایا جائے تو اس پر ایک مرتبہ ناد علی دم کر کے دیا جائے۔ ان شاء اللہ جلد شفا ملے گی۔ اگر کوئی شخص دشمنوں میں پھنس جائے اور بچاؤ کا کوئی راستہ نہ ہو تو اسکو چاہیے کہ 7 مرتبہ ناد علی پڑھ کر ان کی طرف دم کرے تو کچھ نقصان نہیں پہنچے گا۔ عزت و شوکت کے حصول کے لیے ہر روز 10 مرتبہ ناد علی پڑھ لیا کریں۔ اگر کسی شخص سے افسر، حاکم، تاراج ہو جائے تو اسکو چاہیے حاکم، افسر کے روبرو سامنے جا کر 3 مرتبہ ناد علی پڑھے ان شاء اللہ وہ افسر مہربانی سے پیش آئے گا۔

اگر کوئی شخص حصول دولت کی خواہش رکھتا ہو تو اسکو چاہیے ہر روز صبح کے وقت 12 مرتبہ ناد علی پڑھ لیا کرے وہ جلد ہی غنی اور بے نیاز ہو جائے گا۔ قیدی اگر اپنی رہائی کے لیے روزانہ 160 مرتبہ ناد علی



تحریر  
سید حیدر شاہ شیرازی

0344-2420784

# قرآن کریم سے مسائل کا حل

www.humaliwalayazar.com

محترم ناشر و انتظامیہ امامیہ جنتری السلام علیکم کے بعد دعا ہے کہ مالک کائنات محمد مصطفیٰ ﷺ و اہلبیت کے صدقے آپ کو عزت و سربلندی عطا کرے اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے تاکہ آپ اسی طرح خدمت خلق سرانجام دیتے رہیں۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو تمام انسانیت کی ہدایت کے واسطے نازل فرمایا اور یہ تاقیامت تمام انسانوں خواہ وہ مسلمان ہوں یا کسی اور مذہب سے تمام کے لیے باعث ہدایت ہے آج کل بہت سے جعلی عالموں نے لوگوں کو پلٹدن و بالادعوئے کر کے دھوکہ دے رکھا ہے جس وجہ سے لوگ عدم اعتماد کا شکار ہیں۔ مگر قرآن پاک پر ہر انسان کو پورا اعتماد ہے۔ ہمارے بزرگان نے پشتوں سے ہمیں جو علم سکھا یا وہ قرآن سے استفادہ ہے حالانکہ بہت سے لوگ قرآن سے عملیات بتاتے ہیں مگر پھر بھی کامیابی نہیں ہوتی اسکی اصل وجہ علم الاعداد کو مخلوط نہ کرنا ہے۔ ہم پورے سال قرآنی آیات کو علم الاعداد سے مخلوط کر کے مختلف کاموں کے واسطے آزما تے ہیں جس میں کامیابی ہو صرف اس کو قلاع انسانیت کے لیے شائع کروا تے ہیں۔

ہو یا پہلے محبت اور تعلق رہا ہو مگر اب ختم ہو چکا ہو یا والدین کی باہمی رضا مندی کے لیے حسب توفیق 2000 مرتبہ مشائی کے 2 دانوں پر آیت پڑھ کر کھلا دیں یا پھر کامیابی کے لیے آتش زعفرانی عمل کریں جو کہ مجرب ہے

## شہہ قسم بندش کے واسطے

سورہ نمل آیت نمبر 92 وَأَنْ آتَلُوا الْقُرْآنَ مِنْ الْمُنْذِرِينَ تک  
و + ن = 6 + 50 = 56 = 5 + 6 = 11 = 1 + 1 = 2 اسکا مفرد عدد 2 نکلا ہے۔ یہ بندش کے لیے آزمودہ ہے بندش کئی قسم کی ہوتی ہے کاروباری، رشتوں کی، شادی میں رکاوٹ، اولاد کی بندش اسکے یا تو اتارے یا توڑ کا عمل کریں یا پھر اس آیت کو زحل ساعت میں زعفران سے لکھ کر وزن تلے دبا دیں 21 یوم میں بندش کا خاتمہ ہوگا۔ ان شاء اللہ

## کاروباری ترقی و برکت کے لیے مجرب

سورہ فاطر آیت نمبر 30 لِيُوقِيَهُمْ أَجُورَهُمْ سے غُفُورٌ شُكُورٌ تک  
ل + و = 30 + 200 = 230 = 2 + 3 + 0 = 5 اگر کسی کو کاروبار میں فائدہ نہ ہو رہا ہو یا چانک نقصان کی طرف چلا گیا ہو یا ویسے تنگی رزق ہو تو اس آیت کو پانچ الگ کاغذ پر لکھ کر وزن تلے دبا دیں ان شاء اللہ جلد ٹھیک ہوگا۔

سید حیدر شاہ شیرازی 0344-2420784

## محانقت و غلبہ دشمن کے واسطے

سورہ طہ آیت نمبر 68 قُلْنَا لَا تَخَفْ مِنْ الْآعْلَىٰ تَكَ ق + ی  
2 = 0 + 1 + 1 = 2 مفرد کے حساب سے اس آیت کو صبح صادق کے وقت سیندور اور عرق گلاب سے دو کاغذ پر لکھیں جس دشمن پر غلبہ چاہے اسکا نام مع والدہ لکھ کر پاس رکھے جہاں جائے گا رعب اور تقویت رہے گی یا اسکا نام کیل پہ لکھ کر درخت میں گاڑ دے۔

## غیر شرعی تعلق کے خاتمے کے لیے

سورہ احزاب آیت نمبر 35 کا آخری حصہ وَالْمُفِظِينَ قُرُوجَهُمْ سے  
آجْرًا عَظِيمًا تک و + الف = 6 + 1 = 7 اسکا مفرد عدد 7 نکلا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص غلط تعلق میں مبتلا ہو یا اسکے آفس کا ماحول ایسا ہو جس وجہ سے خطرہ ہو یا وہ جان بوجھ کر ایسے تعلقات رکھے تو تعلق چھرانے کے لیے دونوں کے نام مقناطیس پر 7 مرتبہ لکھیں اور آیت کو 7 مرتبہ پڑھیں اور اسکو توڑ کر الگ الگ دفن دیں جلدی تعلق کا خاتمہ ہوگا۔

## حصول محبت و مابین صلح کے لیے

سورہ ممتحنہ آیت نمبر 7 عَيْبِيَ اللَّهُ أَنْ سَعُفُورٌ رَحِيمٌ تک ع + م  
0 = 1 + 1 = 2 اسکا عدد 2 نکلا ہے اگر کوئی رشتہ نہ ہو رہا

برائے نظربد بال لمبے گھنے نعلبیا درج ذیل آیات مجیدہ صبح کی نماز کے بعد 11 مرتبہ پانی پر دم کر کے پی لے تو اسکا قد

لمبا بال گھنے اور نظربد کے اثرات سے محفوظ رہے گا (تجربہ شدہ ہے) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ سَرَبِّكَ كَيْفَ صَدَّ الظِّلُّ (الفرقان: ۴۵)

فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ (البقرہ: ۵) كُنُوزِهِمْ أَخْرَجَ شَطْرَهُ فَذَرَاهَا فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ (الرعد: ۲۹)

وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ



اکرام عباس کاظمی

علی ناؤن شہاد اللہ دتہ اسلام آباد

0300 991675

## مصائب عمل

www.humaliwalayazar.com

تمام تعزیتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں ہم اس کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی پر ہی ایمان رکھتے ہیں اور اس پر بھروسہ کرتے ہیں سرکارِ دو عالم رحمت للعالمین حضرت محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں۔

یہ دنیا ایک مسائل کی آماجگاہ ہے برگزیدہ ہستیوں کے علاوہ جو بھی اس دنیا میں آیا مسائل اور پریشانیوں سے دوچار رہا اور ہے ہم زندگی کے کسی بھی شعبہ سے تعلق رکھتے ہوں کسی نہ کسی مسئلہ کا شکار ہو کر پریشان رہتے ہیں۔

قرآن میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کے ذریعے دعا مانگنے کا کہا ہے کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمن۔ اس کے سارے پیارے نام ہیں اور امام علی فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ ہیں اللہ تعالیٰ ہماری معرفت اور شناخت کے بغیر کسی کا کوئی عمل قبول نہیں فرمائے گا (تفسیر عیاشی)۔ اور امام علی نقی نے فرمایا ہم اہل بیت کی محبت ہی دین کا نظام ہے ہمارے بارے میں شک کرنے والوں کے اللہ اعمال قبول نہیں کرتا اور امیرالمؤمنین حضرت علی فرماتے ہیں حاجت طلب کرنے سے پہلے درود شریف پڑھو ورنہ نہ نماز قبول ہوگی نہ دعا نہ حاجت، درود کے بغیر دعا آسمان تک نہیں جاتی آج کا عمل بھی اسی روشنی میں پیش کر رہا ہوں بہت مجرب عمل ہے اور علماء کرام نے بھی مجرب اور تیر بہدف قرار دیا یہ عمل ہر حاجت پوری کرے گا انتہائی موثر ہے جن جن حاجت کے لیے پڑھیں تو وہ حاجت ان شاء اللہ پوری ہوگی۔ عمل شب جمعہ یعنی جمعرات کی رات سے شروع کریں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کے بعد 500 مرتبہ درود پاک اور اسکے بعد زیارت امام حسین پڑھنی ہے۔

شب جمعہ	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ	500 مرتبہ
شب ہفتہ	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ	500 مرتبہ
شب اتوار	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِيِّ بْنِ مُوسَى	500 مرتبہ
شب پیر	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ	500 مرتبہ
شب منگل	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ	500 مرتبہ
شب بدھ	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ	500 مرتبہ
شب جمعرات	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ	500 مرتبہ
شب جمعہ	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْعَبَّاسِ الشَّهِيدِ	500 مرتبہ
شب جمعہ	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ	500 مرتبہ
شب ہفتہ	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى امير المؤمنين	500 مرتبہ
شب اتوار	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى فَاطِمَةَ الزهراء	500 مرتبہ
شب پیر	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْحَسَنِ	500 مرتبہ
شب منگل	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْحُسَيْنِ	500 مرتبہ
شب بدھ	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ	500 مرتبہ
شب جمعرات	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ	500 مرتبہ

نوٹ: ہر درود کے بعد دعائے امام حسین پڑھنی ہے

دعائے امام حسین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○ اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ بِکَلِمَاتِکَ وَمَعَادِیْدِکَ عَرَشِکَ وَسُکَّانِ سَمٰوٰتِکَ وَاَنْبِیَاۤئِکَ وَرُسُلِکَ اَنْ تَسْتَجِیْبَ لِیْ فَقَدْ رَفَقْتَنِیْ مِنْ اَمْرِیْ عَشْرًا فَاَسْئَلُکَ اَنْ تُصَلِّیَ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاَنْ تُجْعَلَ لِیْ مِنْ اَمْرِیْ فَرَجًا وَمَخْرَجًا

## سید جمال حسین شیرازی

(WhatsApp) 0344-7654095

0300-7503638

## بارگاہِ علم بیرون متاثر ہے شش

## آفات و بلیات سے نجات کے لیے

سورۃ البقرہ آیت مبارکہ نمبر 115 و اللہ سے واسع علیہ تک قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں کسی کو تکلیف نہیں دیتا بلکہ اس کے اعمال اسے تکلیف دیتے ہیں۔ اس کائنات کا باقاعدہ ضابطہ ہے جو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ مختلف آفات و بلیات کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جو مختلف قسم کے نہ عمل ہونے والے مسائل کا شکار رہیں انہیں چاہیے کہ سب سے پہلے کثرت سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھیں اور اس کے بعد مندرجہ بالا آیات مبارکہ کو 309 مرتبہ روزانہ پڑھیں، چالیس یوم کے بعد آفات و بلیات سے دائمی طور پر نجات ہو جائے گی۔

## اولاد نرینہ کیلئے

سورۃ الذاریات، آیت مبارکہ نمبر 28 و بشر وہ بخلام علیہ وہ افر او جو بے اولاد ہیں اور یہ خواہش رکھتے ہیں کہ اولاد نرینہ کی نعمت سے سرفراز ہوں انہیں چاہیے کہ بروز جمعۃ المبارک بوقت طلوع آفتاب کچی ہینسل سے ایک کاغذ پر ابراہیم لکھیں اور اس کے چاروں اطراف مندرجہ بالا آیت مبارکہ لکھیں اور اس کاغذ کو آب زم زم میں ڈال کر رکھ دیں اور روزانہ غروب آفتاب سے کچھ ہی منٹ قبل اس پانی میں سے تھوڑا سا پانی دونوں میاں بیوی پی لیا کریں اور آیت مبارکہ کو بوقت عصر 259 مرتبہ پڑھا کریں انشاء اللہ اولاد نرینہ پیدا ہوگی

## نا جائز قابضین سے نجات کے لیے

سورۃ انفال آیت مبارکہ نمبر 17 و ما رمییت سے رحنی تک اگر کسی کے پلاٹ یا گھر پر ناجائز قبضہ ہو گیا ہو اور قابض سے نجات کی کوئی صورت نظر نہ آتی ہو تو چاہیے کہ مندرجہ بالا آیت مبارکہ کو قبرستان کے چورستہ کی مٹی جو کہ منھی بھر ہو، لیکر اس پر آیت مذکورہ کو 360 مرتبہ پڑھیں اور جس جگہ پر قبضہ ہوا ہو اس کے دروازہ پر یا پلاٹ پر وہ مٹی گرا دیں تو جلد ہی قابضین وہاں سے بھاگ جائیں گے، بحرب البحر ہے

## روزگار کے حصول کے لیے

سورۃ طلاق آیت مبارکہ نمبر 3 و یرزقہ سے قدر تک۔

اس آیت مبارکہ کو بعد از نماز فجر 60 مرتبہ مع اول و آخر درود شریف 19 مرتبہ پڑھیں اور مسلسل 70 یوم جاری رکھیں انشاء اللہ اسی دوران غیب سے رزق کے اسباب پیدا ہونگے اور اچھی ملازمت مل جائے گی یا پھر کاروبار بن جائے گا۔

## تعلیمی میدان میں نمایاں کامیابی کے لیے

سورۃ طہ کی آیت مبارکہ نمبر 6 سنقر تک فلا تنسیئ اکثر طلباء و طالبات دل لگا کر محنت کرتے ہیں مگر کمرہ امتحان میں وہ تمام تر درسی مواد جو ذہن نشین کیا ہوتا ہے بھول جاتے ہیں، اور مجموعی طور پر ناکامی سے دوچار ہوتے ہیں، انہیں چاہیے کہ کچھ بھی ذہن نشین کرنے سے قبل 11 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ مندرجہ بالا آیت مبارکہ کو 5 مرتبہ پڑھ کر دائیں ہاتھ پر پھونک مار کر اپنے چہرے پر پھیر لیں اور اس کے بعد درسی مواد ذہن نشین کرنے میں جتنہ جائیں۔ ان شاء اللہ نمایاں کامیابی سے ہمکنار ہونگے۔

## امراض سے شفا یابی کے لیے

سورۃ قدر یعنی انا انزلنا اس سورۃ مبارکہ کو اسناد کے ساتھ متعدد بار آزمایا گیا ہے کہ بیماری خواہ جتنی بھی شدت اور پیچیدگی اختیار کر چکی ہو چاہے کہ نابالغ بچے جو قرآن پڑھ سکتے ہوں انہیں یہ سورۃ پڑھنے کو کہا جائے کم از کم بیس منٹ وہ لا تعداد پڑھتے رہیں۔ اس کے بعد آپ مریض کیلئے دعا کروائیں اور بچوں کو آمین کہنے کو کہیں ان شاء اللہ مریض رو بہ صحت ہوگا۔ مجھے ایک درویش نے اس سورۃ کے متعلق بتایا تھا کہ مرض خواہ کینسر کا بھی کیوں نہ ہو اس سورۃ کی برکت سے شفا یاب ہو جاتا ہے۔

## بیرون ملک اپلائی کرنے والوں کے لیے

سورۃ اخلاص کو بروز جمعرات ساعت مشتری میں 1000 مرتبہ پڑھیں مع اول و آخر درود پاک 9 مرتبہ اور بیرون ملک جانے کے لئے دعا کیا کریں تو حیرت انگیز طور پر آپ کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ اس عمل کو مسلسل 9 ہفتے تک جاری رکھیں۔ آزمائش شرط ہے۔ ان شاء اللہ کامیابی ملے گی

## جائز محبت کے حصول کے لیے

سورۃ البقرہ آیت مبارکہ نمبر 165 یحبونہم سے حباً للہ تک

# تسبیحات مومنین

صوفیہ نقوی 0332-4634315

سب سے افضل تسبیح حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کی تسبیح ہے جس کے پڑھنے سے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے دعا قبول ہوتی ہے۔ اول و آخر تین تین مرتبہ درود پاک 34 مرتبہ **اللَّهُ أَكْبَرُ** 33 مرتبہ **الْحَمْدُ لِلَّهِ** 33 مرتبہ **سُبْحَانَ اللَّهِ** ایک مرتبہ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کہے

**مجیب الانعام تسبیح** حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص روزانہ صبح و شام ایک مرتبہ درج ذیل تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہشت کی طرف ایک فرشتہ بھیجتا ہے جس کے ہاتھ چاندی کا بیچہ ہوتا ہے وہ فرشتہ بہشت کی زمین جسکی مٹی خالص مشک کی ہے اس میں درخت لگاتا ہے اس کے گرد دیوار کھینچتا ہے اور اسکے دروازے پر لکھ دیتا ہے کہ یہ فلاں بن فلاں کا باغ ہے۔ تسبیح ہے

## سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

اللہ پاک ہے اور اسی کے لئے حمد ہے اللہ پاک بڑی عظمت والا ہے

**مجرب العقول تسبیح** یہ تسبیح تمام دنیوی آفات و مشکلات و مہمات و حاجات و حاجتمندوں اور مظلوموں کے لیے سپرد و حرز جان ہے اور در مقصود ہے بعد از نماز صبح کم از کم 41 مرتبہ پڑھیں۔ اور تسبیح کے عجائبات سے استفادہ فرمائیں۔ تسبیح یہ ہے

## يَا بَدِيْعَ الْعَجَائِبِ سَهِّلْ لِي بِفَضْلِكَ يَا عَزِيْزُ

اے عجائبات کے بنانے والے (سہل) آسان فرما تو اپنے فضل سے اے محبوب و عزیز والے

**جلالی تسبیح برائے وصولی قرض** نماز کے بعد سجدے میں جا کر یہ کلمات صرف 101 مرتبہ پڑھیں اور دعا مانگیں کامیابی کے بعد صدقہ دیں پندرہوں کو دانہ اور مچھلیوں کو نقد ادا لیں۔ تسبیح یہ ہے۔

## يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (اے صاحب جلال و کرامت)

**اجواب تسبیح** ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھے تو جہنم سے نجات کے علاوہ دنیوی تمام مصائب سے محفوظ رہے گا۔

## اَسْتَجِيْبُكَ يَا رَبِّ الْعَالَمِيْنَ (میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں جہنم کی آگ سے)

اولاد نرینہ کے لیے دعائی بھی مل سکتی ہے۔ صوفیہ نقوی (انٹرنیٹ میگزین) صوفیہ نقوی 0332-4634315

روزانہ بعد از نماز عشاء مطلوب کے نام مع والدہ کے اعداد ملفوظی قمری کے مطابق آیت مبارکہ کو مع اول آخر 9 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور حصول مقصد تک جاری رکھیں انشاء اللہ کامیابی ہوگی

## ہر قسم کے جادو کا مکمل توڑ کرنے کے لیے

سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 81 یہ وہ آیت مبارکہ ہے کہ جب دنیا مہطلات میں گھر چکی ہوگی اور امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو امام یہی آیت مبارکہ تلاوت فرمائیں گے اور اس کی برکت سے باطل ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا۔ جو کوئی یہ چاہے کہ اس پر کیے گئے جادو کے اثرات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں وہ اسے ہر روز بعد از نماز عصر 313 مرتبہ پڑھ کر اپنے لیے دعا کیا کرے انشاء اللہ جادوئی اثرات ختم ہو جائیں گے اور آئینہ دہ کے لیے بھی حفاظت رہے گی۔

## شادی میں حائل رکاوٹوں کے خاتمہ کے لیے

اکثر افراد کی شادیاں التوا کا شکار ہو جاتی ہیں، نسبت طے پانے کے امکانات واضح ہوتے ہیں لیکن محدود ہو جاتے ہیں انہیں چاہیے کہ بروز جمعہ المبارک سورۃ نجم کو بوقت نماز جمعہ ایک مرتبہ تلاوت کریں، جب آیت سجدہ پر پہنچیں تو فوری طور پر سجدہ کریں اور اس کے بعد شادی کے لیے دعا مانگیں تو ان شاء اللہ جلد شادی کے اسباب پیدا ہونگے، یہ متعدد اسٹاؤ کے ساتھ مجرب الجرب ہے۔

## پسند کی شادی کا مجرب عمل

اپنی مرضی کی پسند کی شادی کرنے کے لیے نماز فجر یا نماز عشاء کے بعد 8 رکعت نفل پڑھیں ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ نفل دو، دو رکعت کر کے پڑھنے ہیں۔ نوافل پڑھنے کے بعد دعا سے قبل اور آخر میں 11-11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور خشوع و خضوع سے دعا مانگیں۔ ان شاء اللہ جلدی کامیابی حاصل ہوگی۔ عمل کے لیے نیک نیتی اور ہر طرح کی شرعی پابندی شرط اول ہے۔ روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور دیں۔

مسلسل رہنمائی کے لیے ہمارا YOUTUBE چینل Syed Tajamal Sherazi سیکرٹری کریں اور ہماری کاوشوں سے مزید مستفید ہوں

## روحانی علاج، فقہی مسائل، استخارہ

اور معمولات زندگی کو آسان بنانے کے لیے رجوع کریں۔

الحاج سید انوار عباسی حسین جعفری 0300 4344 139



سید علی رضا رضوی

0333-7351212

0300-5411734

## سورۃ یس۔۔ وجہ فرحین برائے مومنین

مومنین اکرام گذشتہ سالوں کی طرح کتاب الہی اور فرامین آل محمد سے مومنین و مومنات کے روحانی مسائل کے حل کیلئے کوشش کرتا ہوں۔ اور امانیہ جنتری کے توسل سے مومنین جو اس سے استفادہ کرتے ہیں مولا اس سے ان کی توفیقات میں بھی اضافہ کریں۔ جو مومنین فون کر کے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں اگر کچھ پڑھنے کیلئے ان کو بتایا جائے تو وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ آپ ہماری نیابت میں پڑھ دیں۔ یعنی بھوک خود کو لگی ہو تو دوسرا سامنے بیٹھ کر بھی کھانا کھائے تو بھوک کے بندے کو کوئی فائدہ نہیں ایسے ہی کہ جب تک وہ خود نہ کھائے۔ یہی معاملات روحانیات کے ہوتے ہیں جس کو کوئی پریشانی ہو اسے چاہیے دل سے با وضوح تلفظ کے ساتھ خود پڑھے۔ مولا مہربانی کریں گے۔ گذشتہ سال میں نے سورۃ یسین کے اجمالی فوائد لکھے تھے بہت سے مومنین نے فون کر کے دعائیں دیں کہ ہمارا کام ہو گیا۔ اس دفعہ میں نے سال بھر محنت کی۔ سورۃ یسین کی 83 آیات اور ہر آیت کے اپنے خواص، اپنے فوائد اور اپنے مطالب ہیں جو آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ امید ہے کہ مومنین کو میری محنت پسند آئے گی اور دعا کریں گے۔

(یاد رکھیں عمل جو بھی کریں خود کریں اور طہارت اور صحت ادا کیگی کے ساتھ کریں)

آیت: 1 پہلی آیت جو انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے حالات سے اتنا تنگ ہو جائے کہ اور کوئی حل نہ ملے وہ پہلی آیت کا ورد کرے آیت 2: جس کی دوکان ہو مکان ہو یا کوئی کاروبار ہو اور وہ چاہے کہ میرے رزق میں کاروبار میں وسعت ہو وہ 100 دفعہ یہ آیت روزانہ پڑھے۔ آیت 3: جو انسان یک دم پاگل ہو جائے دماغ کام کرنا چھوڑ جائے یا شیاطین کا سایہ ہو اس پر پڑھی جائے۔ آیت 4: دنیا سے لڑو کر تھک جائے اور جب ٹوٹ جائے تو اپنے معاملات اللہ سے ٹھیک کر دینے کیلئے فجر کی نماز کے بعد 100 دفعہ یہ آیت پڑھے۔ آیت 5: جاوٹونے سے بچنے کیلئے 100 دفعہ ہر نماز کے بعد تلاوت کریں۔ آیت 6: دشمنوں سے بچنے کیلئے اور ہر قسم کے حادثہ سے محفوظ ہونے کیلئے یہ آیت لکھ کر پاس رکھ لے اور اس کی تلاوت کرے۔ آیت 7: اگر راستہ بھٹک جائے یا کوئی بندہ گم ہو جائے تو اس کے لئے 100 دفعہ پڑھے۔ آیت 8: محبت کیلئے انگوٹھی پر نقش کروا کر پہن لے۔ آیت 9: بندش کرنے والے دشمنوں سے جو تنگ ہو وہ سرخ مرچ لے اور اس پر یہ آیت لکھ کر رکھ لے۔ آیت 10: بیوی بد زبان ہو یا شوہر دونوں ایک دوسرے پر پڑھ کر پھونک دیں لڑائی نہیں ہوگی۔ آیت 11: مصیبت زیادہ ہو جائے تو کسی پرانی قبر پر لکھنے سے ختم ہو جائے گی۔ آیت 12: کام اور معاشرہ میں عزت کے اضافہ کیلئے لکھ کر پاس رکھے۔ آیت 13: کسی بھی کام پر جانے سے پہلے کاغذ پر لکھ کر کسی پاک پانی سے دھو کر وہ پانی پیے ان شاء اللہ جو بھی کام ہو ہو جائے گا۔ آیت 14: زعفران سے لکھ کر دھو کر وہ پانی پی لیں جسم میں جتنے درد ہوں گے ختم ہو جائیں گے۔ آیت 15: زعفران

سے لکھ کر دھو کر وہ پانی پی لیں آنکھوں میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ آیت 16: دمہ کا مریض اس آیت کو لکھ کر دھو کر پی لے سانس کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آیت 17: دو بندوں میں ناراضگی ہو جو شدت اختیار کر جائے ان کے دل نرم کرنے کیلئے یہ آیت لکھ کر پاس رکھیں۔ آیت 18: یہ آیت لکھ کر سرکش جانور کے گلے میں ڈال دیں، اولاد نافرمان ہو لکھ کر اس کے گلے میں ڈال دیں۔ آیت 19: حاملہ عورت آپریشن سے بچنے کیلئے یہ آیت لکھ کر پانی سے دھو کر پی لے۔ آیت 20: اللہ سے بیٹا لینے کیلئے یہ آیت لکھ کر پاس رکھے۔ آیت 21: قرض کی ادائیگی کیلئے اس آیت کا ورد کریں۔ آیت 22: لکھ کر حاملہ عورت کے گلے میں ڈال دیں بچہ کامل الاعضاء پیدا ہوگا۔ آیت 23: یہ آیت 3 دن لکھ کر جس مرض کیلئے بھی مریض کو پانی پانی لے لے اللہ شفا دے گا۔ آیت 24: جملہ عورتوں کی بیماریوں کی نجات کیلئے آیت لکھ کر دھو کر پی لے اور اس پانی سے غسل کرے۔ آیت 25: جس کا بخار نہ اتر رہا ہو آیت لکھ کر اس کے گلے میں ڈال دو۔ آیت 26: کوئی بندہ کہیں سفر پر جانے لگا ہو جو خطرناک ہو تو اس کی منزل آسان اور پہنچنے کیلئے لکھ کر وہ پاس رکھ لے۔ آیت 27: جو مرگی کا مریض ہو یا کوئی دماغی مرض ہو وہ زعفران سے لکھ کر اس سے سر کو دھوئے اور پانی پی لے۔ آیت 28: جو بندہ بے جرم قیدی ہو اور رہائی کی کوئی شکل نہ ہو وہ مٹی کا ڈھیلہ لے اور اس پر یہ آیت لکھ کر جاری پانی میں ڈال دے۔ آیت 29: جس بچہ کو نیند نہ آتی ہو آیت لکھ کر اس کے سر ہانے کے اندر رکھ دیں بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ آیت 30: عدالت جانے سے پہلے

بچنے کیلئے اس آیت کو لکھ کر ساتھ رکھ لیں۔ آیت 56: اس آیت کو لکھ کر وہ کان یا مکان میں لگانے سے انسان کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہوگا۔ آیت 57: گھر میں رزق کی بارش کیلئے کثرت سے اس آیت کی تلاوت کریں۔ آیت 58: سورۃ یسین کی اس آیت کے سب سے زیادہ فوائد ہیں عمر میں اضافہ، رزق میں برکت، بیماری سے نجات، ایک دفعہ تلاوت سے شہدا کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ آیت 59: اس آیت کی تلاوت کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے 1000 دفعہ قرآن ختم کیا ہو۔ آیت 60: لوگوں کی نظر میں اپنا مقام بنانے کیلئے روزانہ اس کی تلاوت کریں۔ آیت 61: اس آیت کا ورد اور تعویذ انسان کو ہر قسم کے خودکش حملہ سے امان دیتا ہے۔ آیت 62: اس کا قاری کبھی بھی راہ راست سے بھٹکنے والا نہیں ہوگا اور اس کا مقام جتنی لوگوں میں سے ہوگا، اور کبھی بھی وہ کسی کا حق نہیں غصب کرے گا۔ آیت 63: کفن پر لکھنے سے قبر کی وحشت ختم ہوگی اور امان ہوگی ہر قسم کے عذاب سے بچا رہے گا۔ آیت 64: اگر بندہ پردیس جائے اور جان کا خطرہ ہو تو ایک دفعہ اس کو پڑھ لیں۔ آیت 65: سو کاغذ پر لکھ کر اس کاغذ کو پانی سے دھو لیں اور پھر وہ پانی اس مریض کو دیں جس کو پیٹ کا مسئلہ ہے، پیٹ کے امراض ٹھیک ہو جائیں گے۔ آیت 66: لکھ کر کاندھے پر باندھنے سے دماغی ٹیومر یا دماغی بیماری ختم ہو جائے گی۔ آیت 67: دن میں 3 دفعہ پڑھنے سے شیطانی وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ آیت 68: غربت سے نجات کیلئے فجر کے وقت ایک دفعہ پڑھ لیں۔ آیت 69: درد والی جگہ پر ہاتھ رکھ کر 70 دفعہ پڑھ کر دم کریں۔ آیت 70: مٹانہ کی پتھری سے نجات کیلئے زعفران سے لکھ کر دھو کر پیں۔ آیت 71: لکھ کر دھو کر پینے سے اندر کی تپش، پیاس، حرارت ختم ہو جائے گی۔ آیت 72: جس عورت کا دودھ کم ہو وہ لکھ کر گلے میں ڈال لے۔ آیت 73: جو بچہ زیادہ روتا ہے اس کے جسم کے کسی حصہ پر لکھ کر باندھ دیں۔ آیت 74: کسی بڑے برتن کے اندر لکھ کر پانی ڈال کر پینے سے جملہ امراض ختم ہو جائیں گے۔

آیت 75: یہ آیت بھی کفن پر لکھنے کیلئے وارد ہے قبر کی وسعت کیلئے مفید ہے آیت 76: ہرن کی کھال کا چار کونوں والا ٹکڑا لیکر اس پر لکھ کر اولاد کیلئے باندھ لیں۔ آیت 77: نیلے رنگ کا کپڑا لیکر اس پر لکھ کر مرگی والے مریض کے گلہ میں باندھ دیں۔ آیت 78: جو مریض کو مد میں ہو یا مرگی کا شکار ہو 70 دفعہ اس آیت کو پڑھ کر اس پر پھونک دیں آیت 79: نظر بد سے بچنے کیلئے یہ آیت لکھ کر رکھ لیں اور گھر سے نکلنے

یہ آیت زعفران سے لکھ کر جیب میں رکھ لے تو اللہ سے عزت دے گا۔ آیت 31: دشمن کے وار سے بچنے کیلئے لکھ کر پاس رکھے۔ آیت 32: جنات سے بچنے کیلئے جادو سے نجات کیلئے لکھ کر پاس رکھ لے۔ آیت 33: جس انسان کو چھنبل یا بھلمہری ہو جائے وہ زعفران سے لکھ کر متاثرہ جگہ کو دھولے۔ آیت 34: سسرال میں کوئی بلا وجہ تنگ کرتا ہو آیت کاغذ پر لکھ کر کسی پتھر کے نیچے رکھ دے اس کی زبان کے تہر سے بچ جائے گا۔ آیت 35: گناہگار کے کفن پر لکھنے سے اللہ عذاب سے نجات دے گا۔ آیت 36: ناف کے مریض کیلئے اپنی انگلی سے مریض کی پیشانی پر یہ آیت لکھنی ہے۔ آیت 37: لوگوں میں اپنی چاہت اور محبت بڑھانے کیلئے 300 دفعہ تلاوت کریں۔ آیت 38: دشمن کا دار بے اثر کرنے کیلئے تلاوت کریں۔ آیت 39: گھوڑا سرکش ہو جائے اس کے گلے میں لکھ کر تعویذ ڈال دیں۔ آیت 40: بڑی سے بڑی حاجت کیلئے شب جمعہ 7 مرتبہ پڑھیں۔ آیت 41: پل صراط آسانی سے عبور کرنے کیلئے اس کی تلاوت کریں۔ آیت 42: کسی معصوم ع کی زیارت کرنی ہو کسی بھی چاند کی پہلی سے لیکر 29/30 تک ہر رات 30 دفعہ اس آیت کی تلاوت کرے۔ آیت 43: دنیا سے کامل ایمان لیکر جانے کیلئے 100 دفعہ روزانہ پڑھیں۔ آیت 44: جو بھی لگا تار تلاوت کرے گا بغیر شک و شبہ کے جنت میں جائے گا۔ آیت 45: جس بندے کے ہر کام میں نقصان ہوتا ہو اور کوئی کام بھی منافع بخش نہ ہو وہ اس آیت کا تعویذ بنا کر پہن لے۔ آیت 46: اس آیت کا ورد کرنے والا کبھی کاروبار میں نقصان رزق کا فقدان نہیں اٹھائے گا اور زندگی میں کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ آیت 47: اس پابرت آیت کی تلاوت قبر میں زبان کی فصاحت کا باعث بنے گی۔ آیت 48: دریا کا سفر شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ پڑھ لو غرق ہونے سے بچ جاوے گا۔ آیت 49: جو بندہ بھی لکھ کر اس آیت کو اپنے پاس رکھ لے وہ کبھی بھی پتھر سے زخمی نہیں ہوگا۔ آیت 50: روزانہ اس کی تلاوت کرنے والے پر اسرار، عجائب کے وہ درکھلیں گے کہ اس کو دعا کیلئے کسی سے کہتا نہیں پڑے گا۔ آیت 51: اپنی کسی بھی حاجت کی تکمیل کیلئے ایک دفعہ درود پڑھ کر 7 دفعہ یہ آیت پڑھیں۔ آیت 52: لوگوں میں مقام حاصل کرنے کیلئے کسی بھی چھوٹے پودے پر پڑھ کر پھونک مارو اور اس پودا کو اگنے دو۔ آیت 53: دشمنوں کے وار سے بچنے کیلئے اس آیت کو کاندھے پر باندھ کر گھر سے نکلیں۔ آیت 54: لکڑی کے کلڑے پر لکھ کر گھر میں رکھنے سے گھر میں سکون اور برکت میں اضافہ ہوگا۔ آیت 55: از دو اجی زندگی میں لے سکوئی سے



سیدہ ارم زہرا نقوی  
دختر سید ضیاء نقوی (مرحوم)  
0301-7899755  
0321-5702541

# باہمی محبت کا مخفی اصول تحفہ

سچی الفت محبت ایک انمول مخفی خزانہ ہے جس کی تلاش میں انسان سرگرداں ہے۔ ہر شخص کو زمانے بھر سے شکایت ہے کہ کسی میں محبت نہیں۔ عزیز و اقارب محبت سے نا آشنا بھائی بھائی سے بیگانہ، غیر تو غیر اپنوں کا بھی خون سفید ہو گیا اس لیے دلوں میں سچی محبت نہیں رہی۔ محبت سچائی و خلوص کا محور ہے۔ خالق کائنات نے اپنے کلام میں سورۃ الانفال (پارہ 10 آیت نمبر 63 میں فرمادیا ہے کہ) **توجہ** اور اسی خدا نے ان مسلمانوں کے دلوں میں باہمی الفت پیدا کر دی کہ اگر تم جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ خرچ کر دیتے تو بھی ان کے دلوں میں باہمی الفت پیدا نہ کر سکتے۔ مگر خدا ہی تھا جس نے ان میں باہمی محبت پیدا کر دی۔ صاحب ایمان مسلمان کے لیے مزید شک و شبہ کفر ہے قدر مطلق علی کل شیء قدیر رحمن و رحیم کے رحم کے طلب گار ہوتے ہوئے اسی مقدس آیت سے استفادہ کریں

**فوائد** جو شخص اس عمل سے استفادہ کرنا چاہے تو سورۃ فاتحہ مع سورۃ اخلاص الحاج آغا ثار احمد مرحوم بانی امامیہ جنتری اور آغا افتخار صاحب کی اہلیہ مرحومہ کے ایصالِ ثواب کے لیے ہدیہ کریں۔

میماں بیوی کے درمیان ناچاقی، سخت نفرت اگرچہ طلاق تک نوبت ہو بہن بھائیوں میں رنجش ہو ساس بہو میں غلش و کشیدگی دور کرنا قریبی رشتہ داروں میں سخت اختلاف کا خاتمہ دوست و احباب میں بدسلوکی ہو نفرت کا مٹانا دو دوستوں کی باہمی نفرت کو محبت میں بدلنا ہو پسند کی جگہ پر شادی کے لیے مجرب ہے۔

کلیہ کے مطابق کل میزان 5157 سے 120 نفی کریں باقی 5037 تقسیم 4 یہ تقسیم پوری ہوگئی۔ حاصل قسمت 1259 ہر خانہ چار کے اضافہ کے سے پر کریں۔ کسر خانہ 13 میں آئے گی عدد 1308 میں لکھا جائے گا وقف صحیح ہوگا **نوٹ** چار سے تقسیم کے بعد ایک بچے تو خانہ نمبر 13 اور دو بچوں تو خانہ نمبر 9، اگر تین بچے تو خانہ نمبر 5 میں ایک عدد کا اضافہ ہوگا۔

دو نقش بنائے جائیں، ایک طالب اپنے پاس رکھے اور دوسرا نقش کاغذ پر خالص زعفران عرق گلاب سے لکھ کر آگ کے نیچے دفن کریں کہ صرف حرارت پہنچتی رہے۔ **شرائط و ہدایات**

تعویذ لکھنے والے نے کم از کم حراف تہی کی زکوٰۃ دی ہوئی ہوگی ہر شخص کو اپنی ذات کے لیے لکھنے کی اجازت ہے لیکن حلال و جائز کام ہو نقش لکھتے وقت قمر در عقرب نہ ہو اور رجال الغیب سائے نہ ہو

الودود الرحیم کا عدد 340 مرتبہ پڑھے اول و آخر تین تین مرتبہ درود شریف پڑھے تعویذ جس ستارہ کی سماعت میں لکھا بارہا ہو تو اسکی متعلقہ دعات کے پرتے پر لکھا جائے اور متعلقہ بخور کریں اگر متعلقہ دعات کی توفیق نہ ہو تو خالص زعفران یا عرق گلاب میں کاہی کے قلم سے لکھیں لوہے کا قلم استعمال نہ کریں اگر خود نہ کر سکتے تو رابطہ کریں۔

سیدہ ارم زہرا نقوی دختر سید ضیاء نقوی نزد امام بارگاہ حسینہ شین باغ خورود تحصیل ضلع انک 0301-7899755, 0321-5702541

**التماس سورۃ فاتحہ** آغا گلگیر رضا غزالی (پارٹنر افکار بک ڈپو) ابن آغا مسعود رضا خاکی مرحوم 18 جولائی 2019 کو انتقال کر گئے ہیں۔ ان کے ایصالِ ثواب و بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ اور تین مرتبہ سورۃ اخلاص مع اول و آخر تین، تین مرتبہ درود کی تلاوت فرمادیں۔ شکر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ جبرائیلؑ			
۱۲۸۷	۱۲۹۹	۱۳۱۲	۱۲۵۹
۱۳۰۸	۱۲۶۳	۱۲۸۳	۱۳۰۳
۱۲۶۷	۱۳۲۰	۱۲۹۱	۱۲۷۹
۱۲۹۵	۱۲۷۵	۱۲۷۱	۱۳۱۶

## ایک مثال کے طور پر عمل

طالب فرہاد بن سکینہ	اعداد	435
آیت متعلقہ (سورۃ انفال 63)	اعداد قمری	3607
اعداد معاون آیت الودود الرحیم	اعداد	340
اعداد مطلوب مع والدہ شریں بنت نفسیہ	اعداد	775



عابِس شہیب (ایم اے، ایڈووکیٹ)  
0333-4633999, 0333-4128131  
رہاندر ازیمل شعلہ فوہ تک سنگھ  
abisshabib@Gmail.com

# بانجھ پن کا روحانی تریاق

قرآن مجید ایک مکمل اور جامع الہامی کتاب ہے۔ اس میں ہر خشک و تر کا علم ہے۔ یہ شفاء کا مہ ہے۔ میڈیکل سائنس بھی اسی کی مرہونِ منت ہے۔ بانجھ پن اولاد کا نا ہونا یہ بھی ایک خطرناک مرض ہے۔ کیونکہ انسان اپنی نسل کو اپنی زندگی کا سرمایہ چاوداں سمجھتا ہے۔ اگر کسی عورت کا کچا حمل گر جاتا ہو اسے چاہیے کہ یہ دُعا لکھ کر اس کے گلے میں باندھے تو اللہ کے حکم سے حمل ٹھہر جائیگا۔ اگر سہ ماہہ حمل والی عورت کو قند پر یہ دُعا پڑھ کر کھلائی جائے تو خداوند تعالیٰ فرزند عطا کرے گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سے روایت ہے کہ اگر کوئی عورت برسوں سے بانجھ ہو تو اس کے لئے پندرہ روز تک ایک سپاری تر لائی جائے اور اس پر تین بار یہ دُعا پڑھ کر عورت عقیمہ کو کھلائی جائے ضرور نطفہ قرار پائے گا اور خدا کے فضل سے لڑکا پیدا ہوگا۔ (جواہرِ فہرہ، صفحہ نمبر ۸۳)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اللّٰهُمَّ اَنْتَ الرَّبُّ وَاَنَا الْعَبْدُ فَمَنْ يَدْعُ الْعَبْدُ اِلَّا الرَّبَّ يَا رَبِّ اللّٰهُمَّ اَنْتَ الْخَالِقُ وَاَنَا الْمَخْلُوْقُ فَمَنْ يَدْعُ الْمَخْلُوْقُ اِلَّا الْخَالِقَ يَا رَبِّ اللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ وَاَنَا الْمَمْلُوْكُ فَمَنْ يَدْعُ الْمَمْلُوْكُ اِلَّا الْمَلِكَ يَا رَبِّ اللّٰهُمَّ اَنْتَ الْغَنِيُّ وَاَنَا الْفَقِيْرُ فَمَنْ يَدْعُ الْفَقِيْرُ اِلَّا الْغَنِيَّ يَا رَبِّ اللّٰهُمَّ اَنْتَ الْقَوِيُّ وَاَنَا الضَّعِيْفُ فَمَنْ يَدْعُ الضَّعِيْفُ اِلَّا الْقَوِيَّ يَا رَبِّ اللّٰهُمَّ اَنْتَ الْقَيُّوْمُ وَاَنَا الرَّايِلُ فَمَنْ يَدْعُ الرَّايِلُ اِلَّا الْقَيُّوْمَ يَا رَبِّ اللّٰهُمَّ اَنْتَ الْعَفُوُّ وَاَنَا الْمُسِيْئُ فَمَنْ يَدْعُ الْمُسِيْئُ اِلَّا الْعَفُوَّ يَا رَبِّ اللّٰهُمَّ اَنْتَ الْغَفُوْرُ وَاَنَا الْمُنْدِبُ فَمَنْ يَدْعُ الْمُنْدِبُ اِلَّا الْغَفُوْرَ يَا رَبِّ اللّٰهُمَّ اَنْتَ الرَّحِيْمُ وَاَنَا الْخَاطِيْئُ فَمَنْ يَدْعُ الْخَاطِيْئُ اِلَّا الرَّحِيْمَ يَا رَبِّ اللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمُغِيْثُ وَاَنَا الْمُسْتَعِيْثُ فَمَنْ يَدْعُ الْمُسْتَعِيْثُ اِلَّا الْمُغِيْثَ يَا رَبِّ اللّٰهُمَّ اَنْتَ الْبُحِيْبُ وَاَنَا الدَّاعِي فَمَنْ يَدْعُ الدَّاعِي اِلَّا الْبُحِيْبَ يَا رَبِّ اللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمُهْجِرُ وَاَنَا الْمُسْتَجِيْرُ فَمَنْ يَدْعُ الْمُسْتَجِيْرُ اِلَّا الْمُهْجِرَ يَا رَبِّ اللّٰهُمَّ اَنْتَ الْعَزِيْزُ وَاَنَا الدَّلِيْلُ فَمَنْ يَدْعُ الدَّلِيْلُ اِلَّا الْعَزِيْزَ يَا رَبِّ اللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمُعْطِيْ وَاَنَا السَّائِلُ فَمَنْ يَدْعُ السَّائِلُ اِلَّا الْمُعْطِيَّ يَا رَبِّ اللّٰهُمَّ اَنْتَ الْوَهَّابُ وَاَنَا الْبَائِسُ فَمَنْ يَدْعُ الْبَائِسُ اِلَّا الْوَهَّابَ يَا رَبِّ اللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمُفْرِجُ وَاَنَا الْمَغْمُوْمُ فَمَنْ يَدْعُ الْمَغْمُوْمُ اِلَّا الْمُفْرِجَ يَا رَبِّ اللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمُنْجِيْ وَاَنَا الْغَرِيْبُ فَمَنْ يَدْعُ الْغَرِيْبُ اِلَّا الْمُنْجِيَّ يَا رَبِّ اللّٰهُمَّ اَنْتَ الرَّازِقُ وَاَنَا الْمَرْزُوْقُ فَمَنْ يَدْعُ الْمَرْزُوْقُ اِلَّا الرَّازِقَ يَا رَبِّ اللّٰهُمَّ اَنْتَ الْغَفَّارُ وَاَنَا الْمُنْتَظَرُ فَمَنْ يَدْعُ الْمُنْتَظَرُ اِلَّا الْغَفَّارَ يَا رَبِّ اللّٰهُمَّ اَنْتَ الْكَاشِفُ وَاَنَا الْمُنْتَظَرُ فَمَنْ يَدْعُ الْمُنْتَظَرُ اِلَّا الْكَاشِفَ يَا رَبِّ اللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّيِّدُ وَاَنَا الْمُنْتَجِلُ فَمَنْ يَدْعُ الْمُنْتَجِلُ اِلَّا السَّيِّدَ يَا رَبِّ اللّٰهُمَّ اَنْتَ سَيِّدِيْ وَمَوْلَايْ فَاغْفِرْ ذُنُوْبِيْ وَاَعْتَقْنِيْ مِنَ النَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ اَجْمَعِيْنَ

# قرآن پاک سے مسائل کا حل

ڈاکٹر وحکیم محمد ثنا اللہ

السلام علیکم! تہہ دل سے دعا گو ہوں کہ معزز قارئین امامیہ جنٹری اور محترم آغا افتخار حسین صاحب اور آپکی ٹیم کو اللہ بزرگ و برتر صحت اور عزت اور خوشحالی کی زندگی عطا فرمائے آمین! اور خدائے بزرگ و برتر آپ کو شر شیطان اور شر انسان سے اپنی حفاظت میں رکھے آمین۔ نیز بانی امامیہ جنٹری کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ کی استعا ہے۔ معزز قارئین آپ کی خدمت میں ایسا نقش پیش کر رہا ہوں جو ہر قسم کی بندش کھول دے۔ مثلاً نکاح کی بندش، نظر بد، جادو ٹونہ، کالا علم، سفلی علم بلکہ ہر مشکل کا حل اس میں موجود ہے۔

**نقش لکھنے کا طریقہ:** شروع کے چاند بروز جمعہ کو 2 نفل خاتون جنت ادا کریں اسکے بعد 3 گلو آنا صدقہ دیں، منہ قبلہ کی طرف کر کے اول و آخر 11-11 مرتبہ درود پاک سورہ فاتحہ 101 مرتبہ سورہ کوثر 101 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اس پانی کو 11 روز پینا ہے یہ عمل ایک مرتبہ کرنا ہے۔ اسکے بعد نقش زعفران سے تحریر کریں نقش کی چال کے مطابق تحریر کریں نیچے نقش پڑ کرنے کی چال دی ہے۔

**نوٹ:** اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو فون کر کے معلوم کر لیں۔ اگر آپ پریشان ہیں تو استخارہ بذریعہ قرآن پاک کروائیں۔ فی سبیل اللہ

یا اللہ یا علی یا محمد

یا فتاح	یا فتاح	یا فتاح	یا فتاح
یا فتاح	یا فتاح	یا فتاح	یا فتاح
یا فتاح	یا فتاح	یا فتاح	یا فتاح
یا فتاح	یا فتاح	یا فتاح	یا فتاح

الا = ۱۱۹ ل = ۱۱۹ = ۱۱۱ محطے

یا اللہ بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلاں بن فلاں کی مشکل حل جاوے

ڈاکٹر وحکیم محمد ثنا اللہ ملہ گنگ ضلع چکوال

0300-6080973, 0333-6849263

عورت لکھ کر اپنے پاس رکھے اور ان شاء اللہ فرزند کو جنم دے گی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ  
حی قیوم قیوم قیوم قیوم قیوم قیوم قیوم قیوم قیوم قیوم قیوم  
قیوم وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ اجمعین برحمتک  
یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ  
اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی خیر خلقہ  
محمد و آلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی  
خیر خلقہ محمد و آلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین  
وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ اجمعین برحمتک یا ارحم  
الراحمین وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ اجمعین  
برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و  
آلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی خیر  
خلقہ محمد و آلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی  
اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ اجمعین برحمتک یا ارحم  
الراحمین

عروج ماہ نو چندی جمعرات اول و آخر درود پاک 11 مرتبہ سورہ الحمد شریف مع آمین پانی پر دم کر کے میاں بیوی سات جمعرات پیتے رہیں ان ان شاء اللہ حمل قرار پائے گا اور اولاد ہوگی۔

غسل ایام مخصوصہ سے فارغ ہو کر روزہ رکھے اور دودھ پرے پار سورہ منزل پڑھ کر دم کر کے اسی دودھ سے روزہ افطار کرے، اگر دودھ ہضم ہو گیا تو حمل قرار پائے گا اور اگر ہضم نہ ہو تو حمل قرار نہیں پائے گا۔

ہاں مجھ عورت کو یہ تعویذ لکھ کر سات روز تک پلائے

هو هو هو هو هو هو هو هو الله الله الله الله الله الله الله  
اللہ حی  
قیوم قیوم قیوم قیوم قیوم قیوم قیوم قیوم قیوم قیوم قیوم

**نوٹ:** اولاد زینہ کی دوائی اور نقش دستیاب ہے۔

اسم اسمائے حسنیٰ کا روز میں وسعت دفع اور ہر نقصان و گھٹانے سے محفوظ رہنے کیلئے ان اسماء کا ورد ہر نماز کے بعد گیارہ بار کریں یہ مؤثر ترین عمل ہے

یا رزاق یا نافع یا غنی یا وصاب یا انا سبط یا مصلح

ترجمہ: رزاق ہے اللہ، نافع ہے اللہ، غنی ہے اللہ، وصاب ہے اللہ، انا سبط ہے اللہ، مصلح ہے اللہ

ظاہرہ پبلیشرز G-3 دہلی ہائوس سولجر بازار کراچی 0345-2586430

سرخ تیسر جاوا مسلم بازار سیالکوٹ 0321-6815354

0333-7014915

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

انیم غلام رضا عسکری (ماہر علوم فلکیات)

۱۴۴۱ھ ہجری

لَا یَعْلَمُ الْغَیْبَ إِلَّا هُوَ

2020 عیسوی

# نوروز عالمی افروز

عرض بلد 33-43N

تحویل آفتاب در برج حمل

طول بلد 73-04E

## مورخہ 20 مارچ 2020 بروز جمعہ المبارک

### صبح 8 بجکر 49 منٹ 29 سکینڈ پاکستان سینڈ رڈ ٹائم برطانیق دار الحکومت اسلام آباد

**صدقات**  
چاول، آنا، سیدہ، سوئی، چینی،  
اندا، سفید ریشمی کپڑا، کپاس،  
جوار، سفید کٹی، ساگودان، کبوتر  
سفید، فاختہ آزاد کرنا۔ بہتر ہے  
چینی، سوئی، کا صدقہ کپڑے  
کوزوں کو دیں یا سفید ریشمی  
ڈوپڈ کسی ضعیف خاتون کو دیں۔

### خوارک

برنی، چم چم، چاول کی کھیر  
ساگودان کھویہ، سوئی کا حلوہ  
دودھ، کسرت، سفید پیٹھے چاول  
پیٹھے، قلاقند، دانت گوشت اور  
سفید اجناس جن کا ذائقہ شیریں ہو

جوزا	حمل شمسی 00:00 درجہ	حوت عطارد 02:36:00 درجہ نیپچون 18:50 درجہ
رہو 04:20 درجہ	طالع ثور 24:11 درجہ	یورانس 04:32 درجہ زہرہ 15:56 درجہ
سرطان	زائچہ نوروز بحساب یونانی نجوم	قمر 13:32 درجہ
اسد	دلہ	جدی مریخ 22:35 مشتری کیتو 22:46 24:40 زحل 29:50
سنبلہ	عقرب	
میزان		

مراتب سیارگان برائے نوروز

بادشاہ: زہرہ

وزیر: شمس

سپہ سالار: مریخ

مشیر: قمر

رنگ: سفید

نوٹ: سواری، پوشاک وغیرہ  
کی کیفیت صرف اہل ہنود میں  
پائی جاتی ہے اسلام میں اسکا  
تصور نہیں ہے

### بین الاقوامی اوقات برائے نوروز

بغداد، عراق، جدہ، سعودی عرب 20 مارچ 06:49:30  
تہران، ایران 20 مارچ 07:19:29  
مشق شام 20 مارچ 05:49:29  
دہلی، امارات 07:49:30  
دہلی انڈیا 09:19:29  
واشنگٹن نیویارک کیلیفورنیا  
اوتاوا کینیڈا امریکہ 19 مارچ 23:49:29  
رات لندن برطانیہ 20 مارچ 03:49:30  
صبح ٹوکیو جاپان کچھ بڑے ممالک کے نوروز اوقات دیئے جا رہے ہیں

تحویل کے وقت مولا مشکل کشا کی نذر دیکر ان کے وسیلہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ حاجت پوری کرے گا۔

**نوٹ** کچھ بڑے ممالک کے نوروز کے اوقات تاریخین کی سہولت کے لیے دیئے جا رہے ہیں۔ امریکہ، کینیڈا کی ریاستوں میں مختلف ٹائم زون  
ہیں اپنے مقامی وقت کو جمع یا نفی کر کے درست وقت نکال لیں۔ قریب و جوار کے ممالک بھی درست وقت کے لیے مقامی وقت میں جمع یا نفی اپنے  
قریبی ملک کے مطابق درست وقت نکال لیں۔ پاکستانی وقت نوروز میں سے 5 گھنٹے نفی کر لیں تو گرین واچ ٹائم نکل آئے گا۔

اس کے بعد، دُعا کرے بعض نے لکھا ہے کہ نور روز کے دن موافق اعداد ایام سال نکال کر اس دُعا کو پڑھے۔

اللَّهُمَّ هَذِهِ سَنَةٌ جَدِيدَةٌ وَأَنْتَ مَلِكٌ قَدِيمٌ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا  
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَأَسْتَكَفِيكَ مَمُونَتِهَا وَسُغْلَهَا يَا ذَا الْجَلَالِ

وَالْإِكْرَامِ (زاد المعاد)

اعداد **نقشِ نور روز** ۵۰۳۶

تحویل آفتاب کے وقت کسی پاک جگہ با وضو ہو کر گلاب دزعفران سے اس نقش کو لکھ کر اپنے پاس رکھیں تو تمام سال جملہ امراض و بلیات غم و صدمات سے محفوظ رہیں گے دشمن مقہور ہوگا مقاصد پورے ہوں گے۔ نہایت مجرب اور راز مرہوم ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

العَلِیُّ العَلِیُّ العَلِیُّ العَلِیُّ العَلِیُّ  
 یَاعَلِیُّ یَاعَلِیُّ یَاعَلِیُّ یَاعَلِیُّ یَاعَلِیُّ  
 ۱۴۶۱ ۱۴۶۲ ۱۴۶۳ ۱۴۶۴ ۱۴۶۵  
 ۱۴۶۶ ۱۴۶۷ ۱۴۶۸ ۱۴۶۹ ۱۴۷۰  
 ۱۴۷۱ ۱۴۷۲ ۱۴۷۳ ۱۴۷۴ ۱۴۷۵  
 ۱۴۷۶ ۱۴۷۷ ۱۴۷۸ ۱۴۷۹ ۱۴۸۰

**سات سلام** مشہور ہے کہ جو شخص یہ سات سلام نور روز کے دن منگ و زعفران سے کسی چینی کے برتن پر لکھ کر گلاب کے عرق سے دھوئے اور اس میں سے پیئے تو آئندہ سال تک کوئی رنج و درد اُس کو نہ ستائے گا۔ اگر زہریلا جانور کاٹے تو اس پر اثر نہ ہوگا۔

- 1 سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ
- 2 سَلَامٌ عَلٰی نُوْجِ فِی الْعَالَمِیْنَ
- 3 سَلَامٌ عَلٰی اَبْرَآهِیْمَ
- 4 سَلَامٌ عَلٰی مُوسٰی وَهَارُوْنَ
- 5 سَلَامٌ عَلٰی اٰلِ یَاسِیْنَ
- 6 سَلَامٌ عَلَیْكُمْ طِبْتُمْ فَاذْخُلُوْهَا خَالِدِیْنَ
- 7 سَلَامٌ هِیَ حَتّٰی مَطْلَعِ الْفَجْرِ ط (الرحاشیہ زاد المعاد)

اور مدت حمل تک واسطے حفاظت حمل کے ایضاً اس شکل کو لکھ کر ران پر اندر کی جانب باندھے اور گرد کی عہارت کو چشم کشادہ لکھے اور بعد پیدائش بچے کے فوراً کھول دے۔

الشکور البکور

اربعہ	ثلثہ	اشنین
اربعہ	اشنین	ثلثہ

۶۸۳۳ ۱۴۸۰ ۱۴۷۹ ۱۴۷۸ ۱۴۷۷ ۱۴۷۶

مندرجہ ذیل نقش کو منگ و زعفران سے لکھ کر گلاب میں دھو کر پیئے وہا و امراض جسمانی سے محفوظ رہے گا۔ اس نقش کی انگلیوں چاندی پر کندہ کر کے اپنے کسی محتاج نہ ہوگا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ بِاَنَّیِّ اَسْمَآئِکَ  
**محط** ۱۱۱۹ = ۱۱۱۹ ۱۱۱ = ۱۱۱

برائے دروز و سات مرتبہ اس آیت کو گڑ، شکر یا کسی مناسب عرق پر پڑھ کر کھلائے یا پالائے۔ فوراً بچہ پیدا ہوگا۔

اِذْ السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَاذْ اَنْتَ لِوَلَدِهَا وَحَقَّتْ  
 وَاِذْ الْاَرْضُ مُدَّتْ وَاَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ

**تمام جلدی بیماریوں اور کینسر**

کے علاج کے لیے چشمہ امام حسن (نجف اشرف) کا پانی فی سبیل اللہ حاصل کریں۔ ذاکر حسین بلتستانی  
 Only Whatsapp 0332-4106690  
 بلتستان بک ڈپو نیو بازار سکروہ 0341-5088828

Imamia Jantri Official By Iftikhar Book Depot . Download from Googleplay-IOsplaystore



# آداب و اعمال نوروز



تحویل آفتاب کا وقت نہایت مبارک ہوتا ہے۔ یہ استجاب دعا کا وقت ہے۔ مومنین کو چاہیے کہ مقررہ وقت سے پہلے پاک صاف ہو کر لباس مطہرہ زیب تن کریں اور کسی پاک جگہ پر پاک فرش کا اہتمام کریں۔ خوشبو یا ت مثل لوبان، اگر بتی و صندل وغیرہ سلگائیں۔ دسترخوان پر مٹھائی پھل میوے وغیرہ رکھیں اور نذر حضرت امیر المومنین علیہ السلام دیں۔ بعد ازاں ایک کٹورے یا پیالے میں پانی بھر کر اس میں گلاب کا سرخ پھول ڈال دیں اور بوقت تحویل آفتاب اس پر نظر رکھیں جو وقت تحویل کا ہوگا اس وقت خود بخود ساکن پھول میں حرکت پیدا ہوگی بس یہ وقت دعاؤں کے مستجاب ہونے کا ہے۔ اس وقت ۳۶۹ مرتبہ ”یا ذالجلال والاکرام“ اور کم از کم ۳۶ مرتبہ یہ دعا پڑھیں۔

**يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَالْأَبْصَارِ يَا مُدَبِّرَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ يَا مُعْوِلَ الْحَوَالِ**

**وَالْأَحْوَالِ حَوِّلْ خَالِقًا إِلَى أَحْسَنِ الْحَالِ ط**

مومنین کو چاہیے کہ نوروز کے دن بعد نماز ظہر میں چار رکعت نماز اس طرح ادا کریں۔ اول یہ نیت کریں کہ دو رکعت نماز نوروز پڑھتا ہوں۔ ”قُرْبَةً إِلَى اللَّهِ، اللَّهُ أَكْبَرُ“ اور اول رکعت میں بعد سورہ حمد میں مرتبہ سورہ ”إِنَّا أَنْزَلْنَاهَا“ اور دوسری رکعت میں بعد سورہ حمد میں مرتبہ ”قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ“ اور بعد سلام ختم کرے اور پھر دو رکعت کی نیت کر کے نماز شروع کریں۔ اول رکعت میں بعد سورہ حمد میں مرتبہ ”قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ“ اور دوسری رکعت میں بعد سورہ حمد میں اس مرتبہ ”قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ“ اور ”قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْقَلْبِ“ پڑھے اور بعد سلام ختم کرے اور سجدے میں جائے اور یہ دعا پڑھے۔

**اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ الْأَوْصِيَاءِ الْمَرْضِيِّينَ وَعَلَى جَمِيعِ**

**أَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ بِأَفْضَلِ صَلَوَاتِكَ وَبَارِكْ عَلَيْهِمْ بِأَفْضَلِ بَرَكَاتِكَ وَصَلِّ**

**عَلَى أَرْوَاحِهِمْ وَأَجْسَادِهِمْ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ لِنَفْسِي يَوْمِنَا**

**هَذَا الَّذِي فَضَلْتَهُ وَكَرَّمْتَهُ وَشَرَّفْتَهُ وَعَظَّمْتَهُ خَطَرَهُ اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِيهَا**

**أَلْعَنَتْ بِهِ عَلَيَّ حَتَّى لَا أَشْكُرَ أَحَدًا غَيْرَكَ وَوَسِّعْ عَلَيَّ فِي رِزْقِي يَا ذَا الْجَلَالِ**

**وَالْإِكْرَامِ اللَّهُمَّ مَا غَابَ عَنِّي فَلَا يَغِيبَنَّ عَنِّي عَوْنُكَ وَحِفْظُكَ**

**وَمَا فَقَدْتُ مِنْ شَيْءٍ فَلَا تُفْقِدْنِي عَوْنِكَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا أَتَكَلَّفَ مَالًا أَحْتَاَجُ**

**إِلَيْهِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ**

# عالمی حالات 2020

www.humaliwalayazar.com

نشر و تحقیق علامہ رضا مسکری انصاری صاحب شاہ Ph 0300 3210024, E mail: razaaskri@gmail.com

جمعہ کے دن کانوروز عورتوں بچوں اور نوجوانوں کے لئے بہتر ہوتا ہے اس سال عملی طور پر خواتین شعبہ ہائے زندگی میں نمایاں کارکردگی کرتی نظر آئیں گی

ہے۔ نویں گھریسیاسی اور مذہبی جماعتوں کا اجتماع حکمرانوں کے لئے دباؤ میں اضافہ کا باعث بنے گا۔ اپریل مئی میں حکومت مخالف مظاہرے اور تحریکیں سامنے آسکتی ہیں تاہم حکومت کی جانب سے کسی نرمی کی توقع نہ رکھی جائے۔ قدرتی آفات یا سمندری طوفان کی وجہ سے اپریل تا جون شمال مشرقی اور جنوب مغربی علاقے متاثر ہو سکتے ہیں۔ مریخ زحل مشتری پلوٹو اور کیپٹونوں گھر جنوب مغربی ساحلی پٹی پر آباد شہروں کو قدرتی آفات سے نقصان ہو سکتا ہے۔ 2020 کا بجٹ قدرے بہتر ہوگا تاہم نئی ٹیکس اصلاحات اور مالیاتی قوانین سامنے آئیں گے۔ ممکن ہے کہ کاروباری طبقہ کی جانب سے دباؤ برقرار رہے تاہم تبدیلیاں لانا ناگزیر ہوگی۔ زراعت سے واسطہ افراد کے لئے اچھا بجٹ ہوگا اجناس کی قیمت خرید میں اضافہ کیا جائے گا۔ کپاس انگوڑی گندم اور خشک میوہ جات کی پیداوار میں اضافہ کے ساتھ ٹیکسٹائل کی صنعت میں بہتری آئے گی۔ قیش اور آرٹس میں اضافہ ہوگا جبکہ کپڑا بلوسات خوشبو سازی اور سفارت میں ریل اور ہوائی سفرات میں بہتری سامنے آئے گی۔ جبکہ اسٹاک مارکیٹ میں سیمنٹ ٹیکسٹائل ادویات آئل لوہا اور جزیل آئل کمپنیوں کے حصص میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ انٹرنیٹ کی صنعت میڈیا اور فلم سازی کو مراعات کے ساتھ میڈیا پر نئے اور سخت قوانین کا اطلاق اور ذرائع ابلاغ کو منفی اور سنسنی خیز افواہوں اور خبروں سے روکنے کے قوانین سامنے آئیں گے، کھیلوں کو فروغ دینے کے ساتھ خواتین کی فلاح و بہبود اور صحت کے معاملات پر توجہ دی جائے گی جبکہ انٹرنیٹ اور دیگر روابط کو بہتر بنانے کے لئے موبائل کمپنیز اور اطلاعات عامہ میں بہتریاں لائی جائیں گی۔

موسم مرطوب اور درمیانہ رہے گا۔ برقیاری زیادہ ہوگی اور اسکے ساتھ بارشیں معمول کے مطابق اور زراعت کی مناسبت سے اچھی موسمی بارشیں ہوں گی۔ مون سون کی بارشیں جولائی کے وسط میں شروع ہو جائیں گی جبکہ اس سال سندھ کے شمال مشرقی حصوں میں زیادہ بارشیں ہونے کا امکان ہے اسکے ساتھ طوفان باد و باران معمولات زندگی متاثر کر سکتے ہیں۔ بلوچستان میں اس سال خاطر خواہ برقیاری اور بارشیں خشک

## پاکستان کے حالات

زائچہ نوروز کی روشنی میں ملکی وقار میں بین الاقوامی سطح پر اضافہ ہوگا، خارجی معاملات میں پاکستان کو واضح کامیابیاں ملنے کی امید ہے خصوصاً پڑوسی ممالک میں ایران افغانستان کے ساتھ معاملات میں بہتری آئیگی بھارت کے گٹھ جوڑ اور بھارتی ایجنسیوں کی دہشت گرد کارروائیوں کو پاکستان عالمی اور پڑوسی سطح پر بے نقاب کرتا ہوا ایران اور افغانستان کے ساتھ تعلقات میں مضبوطی لائیگی۔ معاشی طور پر پاکستان کی کرنسی مزید کمزوری سے بچ جائے گی اور روپیہ کی قدر مستحکم رہے گی۔ زہرہ طالع میں زرمبادلہ کے ذخائر میں خاطر خواہ اضافہ اور بیرونی قرضوں میں کمی کا باعث بنے گا۔ تاہم گورنمنٹ میں مشیروں اور وزراء کی سطح پر تبدیلیاں آتی رہیں گی۔ ممکن ہے کہ پاکستانی سیاست میں عالمی سطح پر مشہور خاتون کی شمولیت حکمران پارٹی میں ہو۔ اور نمایاں عہدہ آنے والے وقتوں میں خاتون کو دیا جائے عدلیہ اور ججز کے معاملات میں بہتری اور کارکردگی میں اضافہ کے لئے تبدیلیاں لائی جائیں گی۔ نیب اور دہشت گردی کی عدالتوں میں اضافہ دیکھنے میں آتا ہے۔ لوٹی ہوئی دولت کی خاطر خواہ ریکوری ابتدائی چھ ماہ میں عوام کے سامنے آئے گی۔ حکومت اور افواج پاکستان کی مشترکہ ایک پالیسی پاکستان کو اندرونی بیرونی معاملات سے نمٹنے میں نمایاں کامیابیاں دے گی، راہو کی تیسرے شخص موجودگی شمال مشرقی علاقوں میں سرحدی جھڑپیں معمول کے مطابق چلتی رہیں گی۔ تاہم بین الاقوامی سطح پر سرحدی خلاف ورزیوں کے ٹھوس ثبوت انڈیا کی رسوائی کا سبب بنیں گے، جنگ کا کوئی امکان نہیں ہے عالمی قومیں دو ایٹمی طاقتوں کو مذاکرات پر لانے میں معاونت اور کردار ادا کریں گی۔ میڈیا وادار میں انڈیا کو جگہ ہنسائی کا سامنا ہوگا۔ پاکستان کی جانب سے جنگی ساز و سامان کی خریداری اور تجربات میں اضافہ مارچ مئی اکتوبر اور نومبر دسمبر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ عوامی سطح پر حکومت کو سخت رد عمل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ خصوصاً صوبائی معاملات میں وفاقی اور صوبائی معاملات پر اختلافات سامنے آئیں گے۔ اس سال کسی قسم کے ٹریم ایکشن کا کوئی امکان نہیں

Imamia Jantri Official By Ifikhar Book Depot . Download from Googleplay-IOsplaystore

سالی میں معاون ثابت ہوگی۔ جبکہ دریائوں میں پانی کی صورتحال معمول کے مطابق بہتر رہے گی۔

## بھارت

اندرونی حالات انڈیا میں خراب ہونے کا خدشہ ہے اقلیتوں کی جانب سے ہندو ازم کی نفی اور عدم توازن انڈیا میں اقلیتوں کو ایک محاذ پر اکٹھا کر سکتا ہے۔ نویں گھر میں چار ستاروں کا اجتماع عالمی سطح پر انڈیا کے عزائم کا پردہ چاک ہونے اور انڈیا کو اقوام عالم میں جواب دہی کا سامنا ہوگا بھارت روایتی طور پر اپنے قریبی چھوٹے ممالک پر دباؤ جاری رکھنے کی کوشش کرتا رہے گا بلکہ دیش نیپال بھونان برما اور سری لنکا کو اپنے زیر اثر لانے کی کوششوں میں تیزی لائے گا در پردہ بھارت جنوبی ایشیا میں سپر پاور بننے کے خواب دیکھ رہا ہے جو کہ ناکام ہونگے۔ انڈین کرنسی رو بہ زوال ہوگی۔ اندرونی مداخلت کے واقعات عالمی سطح پر بھارت کو بے نقاب کر سکتے ہیں۔ اسلحہ کی خریداری اور میزائل تجربات کی خبریں منظر عام پر رہیں گی جبکہ کشمیر میں سختیاں اور آدمی کی موجودگی بھارت کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اقوام عالم کی جانب سے دباؤ کا سامنا بھارت کو ہوگا۔ قدرتی آفات میں بھارت کی انتہائی جنوبی علاقے بہار اور نیپال کی سرحدی پہاڑوں پر قدرتی آفات یا برفباری کثیر جانی مالی نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ چین کے ساتھ بھارت کے تعلقات مشروط سطح پر قدرے بہتر ہو سکتے ہیں جبکہ بھارت پاکستان کی ترقی میں رکاوٹیں حائل کرتا ہوا سی پیک اور بلوچستان کے ساتھ افغانستان میں پاکستان مخالف تنظیموں اور دہشت گردوں کی معاونت میں بے نقاب ہوگا۔ مہنگائی میں اضافہ ہوگا۔ اپوزیشن کا دباؤ اور خالصہ تحریک متحرک ہونے کی وجہ سے مودی سرکار کو اندرونی معاملات میں دباؤ کا سامنا ہوگا۔ فصلوں کی پیداوار میں خاطر خواہ کمی ہو سکتی ہے جبکہ بھارت کی ایکسپورٹ کو چند پابندیوں کا سامنا ہونے کے امکانات ہو سکتے ہیں۔ منفی پروپیگنڈا اور غلط افواہیں بھارتی میڈیا کے لئے جگ ہنسائی کا باعث بنے گا۔ بھارتی عزائم کی وجہ سے عالمی منڈیوں میں بھارت کو سختیوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ بھارت کی جانب سے پانی کی تقسیم کی خلاف ورزیاں سامنے آئیں گی۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی جانب سے بھارت کی سیاسی اور دہشت گرد RSS جماعت کو بین الاقوامی سطح پر پابندی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ جبکہ داعش اور القاعدہ جیسی تنظیموں کو بھارت کی جانب سے مالی معاونت کے ثبوت سامنے آنے کے امکانات واضح نظر آتے ہیں۔

## ایران

ایران عالمی سطح پر اپنے ہم خیال دوستوں اور پڑوسی ممالک کی حمایت حاصل کر لے گا جبکہ عالمی سطح پر روس چین اور پاکستان کے ساتھ دیگر ممالک کی حمایت ایران پر کسی بھی ممکنہ امریکی جارحیت کے امکانات نا ہونے کے برابر ہونگے۔ عرب ممالک خصوصاً سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں بہتری کا کوئی امکان نہیں ہے معاشی طور پر ایران کے حالات بہتر ہونگے جبکہ امریکی ممالک کی پابندیوں کو خاطر میں نالاتے ہوئے کئی ایک ممالک ایران کے ساتھ تجارتی اور سفارتی روابط استوار کریں گے۔ انڈیا کے ساتھ ایران کے روابط میں خلل پیدا ہو سکتا ہے۔ امریکہ ایران مخالف ممالک کی وجہ سے یہاں مقیم ہے جبکہ ایرانی حکومت دیگر پڑوسی ممالک کے ساتھ معاملات میں نمایاں بہتری لائے گی۔ سرحدی معاملات میں ایران پاکستان سرحد کو دونوں ممالک رضامندی سے دہشت گردوں سے پاک کرنے کے معاہدوں پر کام کریں گے۔ معاشی طور پر ایران کی کرنسی مضبوط ہوگی اور ایران کی برآمدات میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ تیل کی پیداوار میں ایران نئے ذخائر کی جانب پیش رفت کرے گا جبکہ ایران کی جانب سے وفاقی تجربات جون جولائی میں سامنے آ سکتے ہیں۔ ایران کے جوہری پروگرام پر قدرتی لگانے کی کوششیں ناکام ہوگی اور اسکے ساتھ ہی عالمی سطح پر ایران پر لگی پابندیوں کو یکسر نظر انداز کرنے کے سلسلے شروع ہو جائیں گے۔ ترکی کے ساتھ ایرانی تعلقات کے نئے دور کا آغاز ہوگا ممکن ہے شام میں ایران اور ترکی مل کر داعش اور دیگر اسلام دشمن گروہوں کی جانب پیش رفت کریں۔ نوروز میں زہرہ مرتخ اور زحل کی اچھی پوزیشن کی وجہ سے ایران کے حالات قدرے بہتر رہیں گے تاہم ایران کو قدرتی آفات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ایران کی دیگر سرحدیں جو عراق اور سعودیہ سے ملتی ہیں ان سرحدوں پر ایران کی جانب سے سخت سرحدی قوانین سامنے آئیں گے جب کہ افغان سرحد پر ایران کی جانب سے بندش لگائے جانے کے امکانات ہو سکتے ہیں۔ ابتدائی اپریل میں ایران کی جانب سے فوجی قوت میں اضافہ یا ہتھیاروں کے تجربات سامنے آ سکتے ہیں۔ راہوکا داخلہ تیسرے گھر میں مئی کے بعد سرحدی کاروائیوں میں اضافہ کی صورتحال پیدا کر سکتا ہے۔

## عراق

عراق میں حکومتی رسد کشی عروج پر رہے گی حکومت مخالف سرگرمیوں میں اضافہ عراق میں خراب حالات کی نشان دہی کرتے ہیں۔ امریکی آشیر باد پر عرب ممالک کی مداخلت سامنے آنے اور مقامات مقدمہ کے راستے بند یا پریشان کن حالات پیدا کرنے کی منقہ

Imamia Jantri Official By Iftikhar Book Depot . Download from Googleplay-IOsplaystore

سرحدی بیٹیوں میں فوجی آپریشن دہشت گردوں کو پھیلنے کے خلاف کیا جائے۔ بین الاقوامی سطح پر شام کے خلاف جاری پابندیوں میں امریکہ کو ناکامیوں کا سامنا ہوگا خصوصاً روس اور ترکی کی جانب سے بین الاقوامی پابندیوں کو روکرتے ہوئے شام کی حمایت اور فوجی مدد کی جائے گی۔ معاشی طور پر شام کو مشکلات کا سامنا ہے تاہم ستاروں کی نوعیت عارضی طور پر شام کی مالی حالت میں بہتری لائے گی۔ تیل کی پیداوار میں اضافہ شام کی معاشی حالات میں بہتری لائے گا جبکہ شام میں حکومت مخالف گروپوں کو مذاکرات پر لانے کی کوششیں کی جائیں گی تاہم حالات و واقعات اندرونی خلفشار میں کمی کی کوئی نوید ناسنا نہیں گے۔ شامی افواج میں تقویت اور اضافہ ہوگا۔ حماس سے رکتہ حلب اور دیگر علاقوں کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کی کارروائیوں میں شام کی جانب سے اضافہ ہوگا جبکہ لبنان اسرائیل کی سرحدی پٹیوں انتشار کا شکار رہیں گی۔ خدائے متعال بی بی زینب سلام اللہ کے مزار اقدس اور دیگر مقامات مقدسہ کی حفاظت کرے اور اہل بیت اطہار کے مزارات اور مقامات مقدسہ کی حفاظت کرے۔ آمین

### سعودی عرب

سعودی عرب نوروز کے زائچے کے حوالہ سے دیکھا جائے تو لبرل ازم کی جانب بڑھے گا۔ خواتین سے متعلق سخت قوانین میں نرمی کے ساتھ نئے قوانین متعارف کرائے جانے کے امکانات ہیں۔ میڈیا اور نوجوانوں کی سرگرمیوں کے لحاظ سے مثبت کام کئے جائیں گے۔ ممکن ہے کہ سعودیہ بین الاقوامی چینلز کی نشریات انٹرنیٹ اور دیگر پابندیوں میں نرمی کرے۔ تاہم پڑوسی ممالک کے ساتھ عرب و عجم کا تضاد باقی رہے گا۔ سعودی حکمرانوں اور حکومتی شاہی خاندانوں میں اختلافات سامنے آسکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ شاہی خاندان میں سے کسی خاتون کو مرکزی عہدے پر لائے جانے کے امکانات ہو سکتے ہیں۔ دسویں گھر میں چار ستاروں کا اجتماع شاہی خاندان کی جانب سے ہم خیال عرب ممالک کو ملا کر کوئی نیا اتحاد یا فوجی قوت سامنے آسکتی ہے۔ سعودی مالی حالات میں بہتری آئیگی تاہم جنگی کیفیات اور پڑوسی ممالک کے ساتھ فوجی معاملات اور امریکی مداخلت سعودیہ کے بجٹ کو غیر متوازن بنا سکتی ہے۔ یمن بحرین اور ایران کے ساتھ عراق میں سعودی مداخلت بجٹ کو غیر مناسب کر سکتی ہے۔ نئے ٹیکسز کا اطلاق تارکین وطن کے لئے مشکلات کا باعث بن سکتی ہے۔ یمن کی جانب سے سعودی تنصیبات پر حملے مالی و جانی نقصانات کا باعث بن سکتے ہیں۔ سعودی ذرائع ابلاغ اور میڈیا پر پابندیوں کا عائد کئے جانے کے امکانات ہیں۔

کاروائیاں منظر عام پر آئیں گی۔ عراقی معیشت کا بیشتر حصہ زائرین اور سیاحت پر منحصر ہے جبکہ امریکی اور مغربی پابندیوں میں عراق خلاف ورزیوں کی جانب جائے گا۔ عراقی معیشت میں بہتری آئے گی اسکے ساتھ ہی عراق میں حکومت مخالف گروپوں کے ساتھ حالات کشیدہ ہو سکتے ہیں خصوصاً شام کی سرحدی بیٹیوں سے موصل تکریت اور بغداد تک دہشت گرد کاروائیوں میں اضافہ معاملات سنگین کر سکتا ہے۔ ایران کی معاونت اور دیگر مجاہد گروپس کی معاونت سے عراق داخلی معاملات پر قابو پالے گا دسویں گھر کا مالک اچھی پوزیشن میں اور دوسرے گھر کا مالک زہرہ عراقی معیشت میں استحکام اور حکومت کی مضبوطی کی جانب اشارہ کرتے ہیں راہو کا چوتھے گھر میں تک اور مئی کے بعد تیسرے گھر میں راہو کا داخلہ عراقی عوام میں انتشار پیدا کرنے کی کوششیں اور اسکے ساتھ ہی جون تا دسمبر عراق سعودیہ سرحدی پٹی پر جھڑپوں میں اضافہ اور انتشار کی صورت حال پیدا ہو سکتی ہے۔ قدرتی آفات بارشیں برفباری اور زلزلے جنوبی اور شمالی علاقوں میں جانی و مالی نقصانات ہو سکتے ہیں۔ حکومتی سطح پر مالی معاملات اور بے روزگاری کے خاتمہ کی کوششیں اور نئے منصوبے جاری کئے جانے کے امکانات ہو سکتے ہیں جبکہ تباہ حال علاقوں میں عراق کی جانب سے تعمیر نو کے کاموں میں تیزی سامنے آئے گی۔ ممکن ہے کہ عراقی حکومت میں مغربی اور دیگر عرب ممالک کی جانب سے تبدیلیوں کی کوشش کی جائے اور شیعہ مخالف لوگوں کو سامنے لایا جائے اندرونی حالات کشیدہ کر کے ایسے حالات پیدا کئے جانے کی ناکام کوششیں ہو سکتی ہیں۔ ایران شام کی حمایت اور حزب اللہ کی معاونت سے اندرونی معاملات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ سیکورٹی معاملات پر عراقی حکومت کو خصوصی توجہ کی ضرورت ہوگی۔ خصوصاً زائرین کی آمد کے سلسلوں کو کم کرنے کی کوششیں کی جائیں گی۔

### شام

شام کے حالات میں بہتری کے امکانات ہیں خصوصاً لبنان اسرائیل کی سرحدی بیٹیوں پر دہشت گردوں کے خلاف کاروائیوں میں تیزی سامنے آسکتی ہے۔ ترکی روس ایران کی حمایت اور شامی افواج کے ساتھ مل کر شام میں جاری خانہ جنگی پر کسی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے، شام پر جاری پابندیوں میں کمی کا کوئی خاص امکان نہیں تاہم بشار الاسد کی حکومت کو ہٹانے کی کوششیں اور شام میں عرب نواز حکومت لانے کی کوششیں جاری رہیں گی۔ اردن کے ساتھ شام کے تعلقات میں خرابیاں سامنے آسکتی ہیں۔ ممکن ہے کہ شام کی جانب سے اردن کی



## نوروز کی شرعی حیثیت

**احکام نوروز** مورخہ 20 مارچ 2020 مطابق 24 رجب

المرجب بروز جمعۃ المبارک 1441 ہجری 7 چیت 2076 بکری بوقت صبح 8 بجکر 49 منٹ 29 سکینڈ (پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم) مطابق دارالحکومت اسلام آباد (73 درجہ 04 دقیقہ شرقی) (33 درجہ 43 دقیقہ شمالی) پاکستان کے موجودہ وقت شمس در برج حمل کے صفر و رجب پر تھوہل ہوگا عید نوروز شمسی کیلنڈر کے حساب سے منائی جاتی ہے۔ نوروز 20 یا 21 مارچ کے بارے میں جو کچھ لکھا جاتا ہے۔ وہ علم نجوم اور حرکت سیارگان ہے۔ نیادن اس لئے کہ شمس برج حمل میں داخل ہو رہا ہے۔ یہ سب روایات گردش ایام سے متعلق ہیں جن کا دین اور شریعت سے کوئی تعلق ہرگز نہیں ہے۔ ۱۸ ذوالحجہ ۱۰ ہجری چونکہ اتفاقاً ۲۱ مارچ کو آ گیا۔ اس لیے اس جشن کو دہرمانے کے لیے دونوں تاریخوں کو عید نوروز سے معنون کر دیا گیا۔ ہم جو اعمال بجالاتے ہیں وہ 20 یا 21 مارچ کو شمس کے برج حمل میں داخل ہونے کے نہیں ہیں بلکہ عید غدیر کے ہیں۔ شمسی کیلنڈر کی ایکسوس مارچ سے بہت سے اور تہوار بھی مربوط ہیں۔ مگر سال ہائے وقوع میں فرق ہے۔ اعمال کی کتب مناقب الہمان، تحفۃ العوام وغیرہ میں اس تاریخ کے جو اعمال آپ پڑھیں گے۔ وہ نوروز سے متعلق نہیں ہیں بلکہ عید نوروز سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثلاً یہ واقعات ایک نئے دن سے متعلق ہیں۔ اس لیے یاد خدا میں تشکر کے طور پر اعمال بجالائے جاتے ہیں۔ آئمہ معصومین علیہم السلام کے ارشادات اور اعمال سے ثابت ہے۔ کہ اس دن کو آل محمد نے اپنا دن فرمایا ہے۔ (۱) اللہ تعالیٰ نے اس دن اپنے بندوں سے عہد لیا ہے کہ اس کی واحدیت کے ساتھ عبادت کریں۔ (۲) یہ پہلا دن ہے کہ آفتاب کی پہلی کرن زمین پر پڑی۔ (۳) حضرت نوح کی کشتی کا کنارے لگنا۔ (۴) رجعت آئمہ طاہرین اور حضرت علی کی خلافت ظاہرہ (۵) حضرت محمد پر نزول وحی کا آغاز ہونا۔ (۶) حضرت ابراہیم کا کافروں کے بتوں کو توڑنا۔ (۷) حضرت علی کا خوارج پر فتح پانا۔ (۸) حضرت علی کا تمہیر کعب کا عمل بجالانا وغیرہ۔ عید نوروز کے اعمال مومنین اپنے تہواروں کی یاد میں مناتے ہیں۔ یہ اعمال، نوافل، دعائیں اور نمازیں تھوہل آفتاب سے متعلق نہیں بلکہ متذکرہ بالا اسلامی تہواروں سے مربوط ہیں۔ جن کی یاد منانا باعث تقویت ایمان ہے۔

مداخلت کا امکان نہیں ہے۔ قدرتی آفات خصوصاً سمندری طوفان اور برف باری سے کئی ایک امریکی ریاستیں متاثر ہو سکتی ہیں۔ قدرتی آفات و سمندری طوفان مالی و جانی نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ امریکہ پاک تعلقات میں بہتری آئے گی اسکے ساتھ ہی فوجی آلات و سامان پر لگی پابندیوں میں نرمی کا اطلاق پاکستان پر ہونے کے امکانات ہیں۔

پاک سعودیہ تعلقات کے نئے دور کا آغاز ہوگا اسکے ساتھ ہی نئے منصوبوں میں سعودی حکومت سرمایہ کاری کرے گی۔ مالی بے ضابطگیاں اور کرپشن پر حکومت کی جانب سے سختیاں کی جائیں گی۔ شاہی خاندان میں بھی کچھ نئے اسکینڈلز سامنے آ سکتے ہیں۔ زرمبادلہ کی کمی اور بڑھتے ہوئے جنگی اخراجات سعودی کرنسی کو رو بہ زوال کریں گے۔ سعودی عرب پر عالمی ذرائع ابلاغ کا دباؤ بڑھے گا۔ صحافت کے شعبہ میں نئی پابندیاں لگائی جائیں گی۔ سوئی اور قدرتی آفات سعودیہ میں جانی مالی مشکلات کا باعث بن سکتے ہیں خصوصاً اکتوبر تا جنوری اور مئی جون اہم ہو سکتے ہیں حکومتی سطح پر بڑے پیمانے پر تبدیلیاں سامنے آئیں گی۔

## امریکہ

امریکہ کی جانب سے پڑوسی ممالک کو لیبیا وینزویلا اور دیگر ممالک کے ساتھ سرحدی تنازعے سامنے آ سکتے ہیں خصوصاً میکسیکو کے ساتھ سرحدی بازو اور دیگر علاقوں میں سرحدی پابندیاں امریکہ کے پڑوسی تعلقات خراب کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ پالیسیاں امریکی عوام اور دیگر دنیا کے لئے خطرناک ہوگی خصوصاً چین کے ساتھ امریکہ کا بڑھتا ہوا تجارتی معاملہ پوری دنیا کے معاملات پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ گولڈ کی بے تحاشہ خریداری امریکی کرنسی کے کم ہونے اور مالی خسارے میں اضافہ کا باعث بن سکتی ہے۔ ٹرمپ کو امریکی کانگریس کی جانب سے محاسبے کی تحریک کا سامنا ہوگا جبکہ اپوزیشن کی جانب سے ٹرمپ کے کئی منصوبوں میں اختلاف سامنے آ سکتا ہے۔ زہرہ کی مضبوطی اپوزیشن کی مضبوطی کو ظاہر کرتی ہے۔ بین الاقوامی سطح پر امریکہ کی ایک طرفہ پالیسیوں سے انکار اور فوجی کارروائیوں سے اختلاف امریکہ کے دنیا میں بڑھتے اثر و رسوخ میں کمی کا باعث بنے گا۔ ٹیکسز میں اضافہ، غیر ملک تارکین وطن کے لئے نئے قوانین اور امیگریشن قوانین میں تبدیلیاں امریکی عوام میں ٹرمپ کی مقبولیت میں کمی کا باعث بن سکتی ہیں۔ تیل کی پیداوار میں کمی اور قدرتی محاصل میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ امریکہ کی اقوام عالم میں مداخلت خصوصاً یہود سعودی حمایت امریکہ کے بچٹ کو وقتی طور پر سہارا دے سکتی ہے تاہم گرتی ہوئی معیشت کے پیش نظر امریکہ ہتھیاروں کی فروخت میں اضافہ کرنے کے لئے قوانین اور پالیسیوں میں تبدیلیاں لاسکتا ہے، اسٹاک مارکیٹس کمی کا شکار ہوگی جبکہ امریکی عوام میں روزگار کی کمی کی وجہ سے حکومت مشکلات میں آ سکتی ہے۔ ایران عراق شام یمن بحرین میں براہ راست عرب ممالک کی ایما پر امریکہ صرف معیشت کو سہارا دینا نظر آتا ہے کسی نئی جنگ میں امریکہ کی براہ راست



# شجرہ طیہ چہارده معصومین علیہم السلام

(مصدقہ ادارہ شیعہ مجلس علمائے پاکستان)

اسمائے معصومین	مشہور لقب	تاریخ و سنہ میلاد مسعود	تاریخ و سنہ شہادت	سبب شہادت	مدفن	مادر گرامی	مدت حیات
تغییر اسلام حضرت محمد	مصطفیٰ	۱۲ ربیع الاول ۱۰ سال ۵۷۰ء	۲۸ صفر ۱۱ ۵۷۰ء	زہر - یہودیہ	مدینہ منورہ	حضرت آمنہ خاتون	۶۳ سال
ام المائمہ جناب فاطمہ	زہرا	۱۵ جمادی الآخر ۵ بعثت ۵۹۸ء	۳ جمادی الآخر ۱۱ ۵۷۰ء	اقتادون درو پہلو کشتن	جنت البقیع	حضرت خدیجہ الکبریٰ	۱۸ سال ۹ ماہ ۱۵ یوم
ابو المائمہ حضرت علی علیہ السلام	امیر المومنین	۱۲ رجب المرجب ۳۰ عام الفیل ۵۹۸ء	۲۱ رمضان ۴۰ ۵۷۰ء	ضربت ابن ملجم	نجف اشرف	حضرت فاطمہ بنت اسد	۶۳ سال
حضرت امام حسن علیہ السلام	مجتبیٰ	۱۵ رمضان المبارک ۵۳ جماد ۶۲۵ء	۲۸ صفر ۵۰ ۵۷۰ء	زہر جعدہ بنت اشعث	جنت البقیع	حضرت فاطمہ زہرا	۴۷ سال
حضرت امام حسین علیہ السلام	سید الشہداء	۱۰ شعبان المعظم ۵۲ شنبہ ۶۲۶ء	۱۰ محرم الحرام ۱۱ ۵۷۰ء	فخیر شمر لعین	کربلاء معلیٰ	حضرت فاطمہ زہرا	۵۷ سال
حضرت امام علی علیہ السلام	زین العابدین	۱۵ جمادی الاول ۳۸ جماد ۶۵۸ء	۲۵ محرم الحرام ۹۵ ۵۹۵ء	زہر ولید بن عبد الملک	جنت البقیع	شہر بانو	۵۷ سال
حضرت امام محمد علیہ السلام	باقر	۱۰ رجب المرجب ۵۵ شنبہ ۶۷۱ء	۷ ذی الحجہ ۱۱ ۵۷۰ء	زہر ابراہیم بن عبد الملک	جنت البقیع	فاطمہ بنت امام حسن	۵۷ سال
حضرت امام جعفر علیہ السلام	صادق	۱۲ ربیع الاول ۸۲ ۵۸۲ء	۱۵ شوال المکرم ۱۲۸ ۵۷۰ء	زہر منصور دو انقی	جنت البقیع	ام فروہ	۶۵ سال
حضرت امام موسیٰ علیہ السلام	کاظم	۲ صفر ۱۲۸ ۵۷۰ء	۲۵ رجب المرجب ۸۳ ۵۷۰ء	زہر ہارون رشید عباسی	کاظمین	خاتون حمیدہ	۵۵ سال
حضرت امام علی علیہ السلام	رضا	۱۱ ذیقعدہ ۱۲۸ ۵۷۰ء	۲۳ ذی قعدہ ۲۰۳ ۵۷۰ء	زہر ہارون رشید عباسی	مشہد مقدس	نجمہ خاتون	۵۵ سال
حضرت امام محمد علیہ السلام	تقی	۱۵ رجب المرجب ۱۹۵ ۵۷۰ء	۲۹ ذی قعدہ ۲۲۰ ۵۷۰ء	زہر معتصم باللہ	کاظمین	خیزران خاتون	۲۵ سال ۱۳ ماہ ۱۳ یوم
حضرت امام علی علیہ السلام	نقی	۵ رجب المرجب ۲۱۳ ۵۷۰ء	۳ رجب المرجب ۲۵۲ ۵۷۰ء	زہر معتز باللہ	سامرہ	سائہ خاتون	۳۰ سال
حضرت امام حسن علیہ السلام	عسکری	۱۵ ربیع الآخر ۲۳۲ ۵۷۰ء	۸ ربیع الاول ۲۶۰ ۵۷۰ء	زہر معتد باللہ	سامرہ	حدیثہ خاتون	۲۸ سال ۱۲ ماہ
حضرت امام محمد علیہ السلام	مہدی	۱۵ شعبان المعظم ۲۵۵ جماد کم اگست ۸۱۹ء	نکم خدا یا حیات ہیں نظروں سے پوشیدہ ہیں	بجگم خدا زندہ ہیں	مقام شیبیت سرداب سامرہ	نرجس خاتون	بائے نسبت سامرہ



# کیفیات قمر 2020

## حصیض قمر (درجہ حوت)

تاریخ	وقت آغاز	تاریخ	وقت اختتام
02 جنوری	09:00	27 جنوری	16:50
29 جنوری	23:47	23 فروری	05:58
25 فروری	12:00	21 مارچ	18:36
21 مارچ	02:03	17 اپریل	10:06
14 اپریل	10:06	05 مئی	18:04
11 مئی	01:21	01 جون	07:47
01 جون	07:47	28 جون	13:45
28 جون	13:45	22 جولائی	20:05
22 جولائی	03:32	19 اگست	03:32

## سرف قمر (درجہ ثور)

تاریخ	وقت آغاز	تاریخ	وقت اختتام
04 جنوری	07:11	07 جنوری	21:15
01 فروری	16:29	03 فروری	05:28
28 فروری	00:21	02 مارچ	12:30
26 مارچ	06:38	29 مارچ	18:37
23 اپریل	12:20	25 اپریل	00:36
20 مئی	18:36	22 مئی	07:10
16 جون	02:00	19 جون	14:35
13 جولائی	10:19	16 جولائی	22:34
10 اگست	18:46	12 اگست	06:28
06 ستمبر	02:27	09 ستمبر	13:43
03 اکتوبر	09:03	06 اکتوبر	20:12
31 اکتوبر	15:00	02 نومبر	02:19
27 نومبر	21:16	29 نومبر	08:43
24 دسمبر	04:32	27 دسمبر	15:55

## صوب قمر (درجہ عقرب)

تاریخ	وقت آغاز	تاریخ	وقت اختتام
17 جنوری	03:41	20 جنوری	23:20
14 فروری	09:07	16 فروری	05:37
12 مارچ	16:09	14 مارچ	14:28
09 اپریل	01:35	11 اپریل	01:17
06 مئی	12:15	08 مئی	12:05
02 جون	22:17	04 جون	21:05
30 جون	06:21	02 جولائی	03:47
27 جولائی	12:25	29 جولائی	09:12
23 اگست	17:49	25 اگست	15:16
19 ستمبر	00:31	22 ستمبر	23:33
17 اکتوبر	09:43	19 اکتوبر	10:05
13 نومبر	20:47	15 نومبر	21:19
11 دسمبر	07:39	13 دسمبر	06:58

## اوج قمر (درجہ سنبلہ)

تاریخ	وقت آغاز	تاریخ	وقت اختتام
13 جنوری	20:43	15 جنوری	19:06
10 فروری	04:37	12 فروری	04:39
08 مارچ	15:03	10 مارچ	15:47
05 اپریل	02:16	07 اپریل	02:18
02 مئی	12:09	04 مئی	10:35
29 مئی	19:38	31 مئی	16:40
25 جون	01:16	28 جون	22:05
23 جولائی	06:54	25 جولائی	04:40
19 اگست	14:16	21 اگست	13:20
15 ستمبر	23:56	17 ستمبر	23:37
13 اکتوبر	10:54	15 اکتوبر	09:56
09 نومبر	21:09	11 نومبر	18:30
07 دسمبر	05:01	09 دسمبر	00:46

## نرج قمر (درجہ جوزا)

تاریخ	وقت آغاز	تاریخ	وقت اختتام
07 جنوری	13:43	09 جنوری	07:11
03 فروری	00:03	06 فروری	16:29
02 مارچ	09:25	04 مارچ	00:21
29 مارچ	16:43	31 مارچ	06:38
25 اپریل	22:28	27 اپریل	12:20
22 مئی	04:09	25 مئی	18:36
19 جون	11:02	21 جون	02:00
16 جولائی	19:24	18 جولائی	10:19
12 اگست	04:35	15 اگست	18:46
09 ستمبر	13:23	11 ستمبر	02:27
06 اکتوبر	20:45	08 اکتوبر	09:03
02 نومبر	02:45	05 نومبر	15:00
02 دسمبر	08:33	02 دسمبر	21:16
27 دسمبر	15:28	29 دسمبر	04:32

## نرج قمر (درجہ سرطان)

تاریخ	وقت آغاز	تاریخ	وقت اختتام
09 جنوری	17:16	11 جنوری	13:43
06 فروری	03:45	08 فروری	00:03
04 مارچ	14:28	06 مارچ	09:25
31 مارچ	23:26	02 اپریل	16:43
27 اپریل	06:06	30 اپریل	22:28
25 مئی	11:33	27 مئی	04:09
21 جون	17:33	23 جون	11:02
18 جولائی	01:16	21 جولائی	19:24
15 اگست	10:38	17 اگست	04:35
11 ستمبر	20:32	13 ستمبر	13:23
08 اکتوبر	05:24	11 اکتوبر	20:45
05 نومبر	12:18	07 نومبر	02:45
02 دسمبر	17:53	04 دسمبر	08:33
29 دسمبر	23:58	31 دسمبر	15:28

# اوقات شرعی برائے لاہور۔ کراچی

نام	لاہور		کراچی	
	طلوع	غروب	طلوع	غروب
01	05:36	07:03	05:55	07:16
02	05:36	07:03	05:55	07:16
03	05:36	07:03	05:56	07:17
04	05:36	07:03	05:56	07:17
05	05:36	07:04	05:57	07:17
06	05:36	07:04	05:58	07:17
07	05:36	07:04	05:59	07:18
08	05:36	07:04	05:59	07:18
09	05:36	07:04	06:00	07:18
10	05:36	07:04	06:01	07:18
11	05:36	07:03	06:02	07:18
12	05:36	07:03	06:02	07:18
13	05:36	07:03	06:03	07:18
14	05:36	07:03	06:04	07:18
15	05:36	07:03	06:05	07:18
16	05:37	07:03	06:05	07:18
17	05:37	07:02	06:06	07:18
18	05:37	07:02	06:07	07:18
19	05:37	07:02	06:08	07:18
20	05:37	07:02	06:08	07:18
21	05:37	07:02	06:09	07:18
22	05:37	07:01	06:10	07:18
23	05:36	07:01	06:11	07:17
24	05:36	07:01	06:11	07:17
25	05:35	07:00	06:12	07:17
26	05:35	07:00	06:13	07:17
27	05:34	06:59	06:14	07:16
28	05:34	06:59	06:14	07:16
29	05:32	06:58	06:15	07:15
30	05:32	06:58	06:15	07:15
31	05:32	06:57	06:16	07:14

**ہدایات حضرت امام رضا علیہ السلام**  
 اس ماہ میں منتم پیدا ہوتا ہے۔ گرم پانی کے چھو گھونٹ  
 پینا مفید ہے۔ دن کے اوّلین حصہ میں ماش مفید ہے۔  
 گرم بہریاں اور پودینہ استعمال کریں۔

**لوح حروف مقطعات قرآنی برائے حصول مال و دولت عزت، دفع، سحر و بندش وغیرہ**  
 تیار کردہ پروفیسر علامہ حافظ تصدق حسین ماہر علوم روحانی  
 مکان 33-F مقب جامع مسجد صاحب الزمان حیدرآباد اسلام پورہ لاہور۔  
 رضی مہدی: 0321-4422348 ارغنی مہدی: 0321-4491346

13 رجب جشن مولود کبھی پیش یک تحصیل طلوع کمرات منقوہ مکہ۔ زاکر انوار حسین اسمدی 3394931 0307 + ایئر انڈیا کا کاتھم 26 رجب الرجب بمقام امام باگہ کاظمیہ کرمال (پکوال) بابائی گلش پورہ پشیمین گلش 0300-5290020

**نوٹ:** مارکیٹ میں قدیم اور مشہور اسلامی کتب تحفۃ العلوم، تہذیب الاسلام، نوح البلاغہ، صحیفہ کاملہ، امامیہ جعفری وغیرہ کے جعلی ایڈیشن شائع اور فروخت کے جارہے ہیں۔ خریدتے وقت اطمینان کر لیں۔ شکریہ









## اوقات شرف و شبوط سیارگان

عطارد				
حالت	تاریخ	وقت آغاز	تاریخ	وقت اختتام
تبدل	31 مارچ	04:54	31 مارچ	23:43
ظہیر	29 اپریل	23:43	30 اپریل	11:16
شرف	27 اگست	16:14	28 اگست	05:32
ادب	01 اکتوبر	06:14	02 اکتوبر	06:47
ادب	14 نومبر	13:35	15 نومبر	08:07

زہرہ				
حالت	تاریخ	وقت آغاز	تاریخ	وقت اختتام
شرف	04 فروری	15:38	05 فروری	11:56
ادب	28 جولائی	09:16	29 جولائی	14:56
ظہیر	24 اکتوبر	23:15	25 اکتوبر	19:08

شمس				
حالت	تاریخ	وقت آغاز	تاریخ	وقت اختتام
ظہیر	10 جنوری	00:43	11 جنوری	00:16
شرف	07 اپریل	13:49	08 اپریل	14:15
ادب	11 جولائی	00:57	12 جولائی	02:08
تبدل	12 اکتوبر	02:04	13 اکتوبر	02:19

مریخ				
حالت	تاریخ	وقت آغاز	تاریخ	وقت اختتام
شرف	26 مارچ	17:07	28 مارچ	03:39
ظہیر	25 اپریل	22:47	27 اپریل	09:29

## نماز وحشت قبر

میت کے دفن کی رات اس کیلئے دو (۲) رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ جسے نماز وحشت قبر کہتے ہیں۔ یہ نماز میت کیلئے قبر میں پہلی رات کے خوف کو دور کرنے کیلئے پڑھی جاتی ہے اور دفن میت کی پہلی ہی رات میں مغرب کی نماز کے بعد سے لیکر طلوع فجر تک پڑھی جاسکتی ہے کیونکہ میت پر قبر میں پہلی رات سے زیادہ سخت گھڑی اور نہیں ہوتی ہے۔

**طریقہ نماز:** پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ (یعنی سورہ الحمد) کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد دس مرتبہ سورہ قدر (یعنی انا انزلناہ) پڑھی جائے۔ سلام پڑھنے کے بعد کہو! (اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِ مُحَمَّدٍ وَاَبْعَثْ ثَوَابَهَا اِلٰی قَدْرِ فُلَانِ بْنِ فُلَانِ) (فلاں بن فلاں کی جگہ پر میت اور اس کے باپ کا نام لے) بس اللہ تعالیٰ اسی وقت اس میت کی قبر پر 1000 ملائکہ بھیجتے ہیں دیکر بھیجتا ہے اور اسکی قبر کو قیامت تک وسیع کردیتا ہے اور نماز پڑھنے والے کو بیشمار نیکیاں عطا کرتا ہے

## اوقات شرعی برائے لاہور۔ کراچی

کراچی		لاہور		مارچ		نمبر
طلوع	زوال	طلوع	زوال	طلوع	زوال	
06:34	06:54	06:00	12:16	06:30	05:10	1
06:34	06:54	06:01	12:15	06:29	05:09	2
06:35	06:53	06:01	12:15	06:28	05:08	3
06:35	06:52	06:02	12:15	06:27	05:07	4
06:36	06:51	06:02	12:15	06:26	05:06	5
06:36	06:50	06:03	12:14	06:25	05:05	6
06:37	06:49	06:04	12:14	06:24	05:04	7
06:37	06:48	06:05	12:14	06:23	05:03	8
06:38	06:47	06:06	12:14	06:22	05:02	9
06:38	06:46	06:07	12:14	06:21	05:00	10
06:39	06:45	06:07	12:13	06:19	04:59	11
06:39	06:44	06:08	12:13	06:18	04:58	12
06:40	06:43	06:09	12:13	06:17	04:57	13
06:40	06:42	06:10	12:13	06:16	04:56	14
06:41	06:41	06:10	12:12	06:14	04:54	15
06:41	06:40	06:11	12:12	06:13	04:53	16
06:42	06:39	06:12	12:12	06:12	04:52	17
06:42	06:38	06:13	12:11	06:10	04:51	18
06:43	06:37	06:14	12:11	06:09	04:50	19
06:43	06:36	06:14	12:11	06:08	04:48	20
06:44	06:35	06:15	12:10	06:06	04:47	21
06:44	06:34	06:16	12:10	06:05	04:46	22
06:45	06:33	06:16	12:10	06:03	04:44	23
06:45	06:32	06:17	12:09	06:02	04:43	24
06:46	06:31	06:18	12:09	06:01	04:41	25
06:46	06:30	06:18	12:09	06:00	04:40	26
06:46	06:29	06:18	12:09	05:58	04:39	27
06:46	06:27	06:19	12:08	05:57	04:38	28
06:47	06:26	06:20	12:08	05:56	04:36	29
06:47	06:25	06:20	12:08	05:55	04:35	30
06:48	06:24	06:21	12:07	05:54	04:33	31

ہدایات حضرت امام رضا علیہ السلام  
اس ماہ میں چند بڑے گوشت کم استعمال کریں۔ رات بیدار نہ رہیں۔ کھانے کا استعمال زیادہ کریں۔ بڑا اور دلکش بہت منہ سے۔

**قدیمی سالانہ مجلس عزا**  
**ذکر امام موسیٰ کاظم**

بمقام مرکزی امام بارگاہ بلاک 4 چیچہ وطنی ساہیوال

24 رجب  
برطابق چاند  
صبح تا شام

**خاکپائے اہلبیت** سید اختر علی شاہ و پسران  
0300-8485399

25 عزم الحرام سالانہ مجلس عزا ساہیوال چیچہ وطنی • ہر سال منزل انظر کا پہلا اتوار چھ ماہوں کی برطابق • بچے عظیم کا دوران حسین جھنڈ سیدان تحصیل وطن راولپنڈی۔



# سیارگان در منازل فلک 2020

## زہرہ

منازل	تواریخ	اوقات	منازل	تواریخ	اوقات
مقدم	06 جنوری	22:41	بمرفہ	25 ستمبر	15:55
مخوف	17 جنوری	12:31	۱۴	06 اکتوبر	17:44
رشا	28 جنوری	04:56	سہاک	17 اکتوبر	14:11
شرطین	08 فروری	01:02	ظفرہ	28 اکتوبر	06:41
بلین	19 فروری	02:25	زبانہ	07 نومبر	20:06
ثریا	01 مارچ	11:03	اکلیل	18 نومبر	07:05
دبران	13 مارچ	06:44	قلب	28 نومبر	16:26
ہفتہ	25 مارچ	20:15	شولہ	09 دسمبر	00:30
بصہ	08 اپریل	19:47	نعام	19 دسمبر	07:40
ذراہہ	27 اپریل	01:21	بلدہ	29 دسمبر	14:21
نثرہ	07 اگست	20:21	ذراخ	08 جنوری	20:41
ظرفہ	21 اگست	04:25	بلدہ	19 جنوری	02:49
جبہ	02 ستمبر	12:57	سعود	29 جنوری	09:00
زیرہ	14 ستمبر	07:13			

## شمس

منازل	تواریخ	اوقات	منازل	تواریخ	اوقات
بلدہ	04 جنوری	00:03	زیرہ	31 جولائی	12:53
سعود	16 جنوری	14:54	بمرفہ	13 اگست	22:57
انصیہ	29 جنوری	06:06	سوا	27 اگست	07:23
مقدم	10 فروری	22:21	سہاک	09 ستمبر	14:06
مخوف	23 فروری	15:58	ظفرہ	22 ستمبر	18:31
رشا	07 مارچ	11:19	زبانہ	05 اکتوبر	20:46
شرطین	20 مارچ	08:49	اکلیل	18 اکتوبر	20:35
بلین	02 اپریل	08:27	قلب	31 اکتوبر	18:11
ثریا	15 اپریل	10:34	شولہ	13 نومبر	13:43
دبران	28 اپریل	14:50	نعام	26 نومبر	07:24
ہفتہ	11 مئی	21:25	بلدہ	08 دسمبر	23:48
بصہ	25 مئی	05:46	ذراخ	21 دسمبر	15:02
ذراہہ	07 جون	15:44	بلدہ	03 جنوری	05:56
نثرہ	21 جون	02:44	سعود	15 جنوری	20:40
ظرفہ	04 جولائی	14:17	انصیہ	28 جنوری	11:58
جبہ	18 جولائی	01:53			

## مریخ

منازل	تواریخ	اوقات	منازل	تواریخ	اوقات
نعام	09 جنوری	23:10	مخوف	19 مئی	16:17
بلدہ	28 جنوری	21:48	رشا	07 جون	22:54
ذراخ	16 فروری	16:33	شرطین	28 جون	06:45
بلدہ	06 مارچ	07:53	بلین	21 جولائی	01:02
سعود	24 مارچ	20:43	ثریا	22 اگست	09:01
انصیہ	12 اپریل	08:41	دبران	24 جنوری	15:28
مقدم	30 اپریل	21:51			

الہامیہ جنتری (رجسٹرڈ) کا پی رائنٹ ایکٹ نمبر 9573 کے تحت رجسٹرڈ ہے

# اوقات شرعی برائے لاہور - کراچی

کراچی		لاہور		اپریل		
طلوع آفتاب	غروب آفتاب	طلوع آفتاب	غروب آفتاب	طلوع صبح	تاریخ	
06:49	06:23	06:21	12:07	05:52	04:32	1
06:49	06:22	06:22	12:07	05:51	04:30	2
06:49	06:21	06:22	12:06	05:49	04:29	3
06:49	06:20	06:23	12:06	05:48	04:27	4
06:50	06:19	06:24	12:06	05:47	04:26	5
06:50	06:18	06:25	12:06	05:46	04:24	6
06:51	06:17	06:26	12:05	05:45	04:23	7
06:51	06:16	06:26	12:05	05:43	04:21	8
06:52	06:15	06:27	12:05	05:42	04:19	9
06:52	06:14	06:28	12:05	05:41	04:18	10
06:53	06:13	06:28	12:04	05:39	04:16	11
06:53	06:13	06:29	12:04	05:38	04:15	12
06:54	06:12	06:29	12:04	05:37	04:13	13
06:54	06:11	06:30	12:04	05:36	04:12	14
06:55	06:10	06:30	12:03	05:35	04:10	15
06:55	06:09	06:31	12:03	05:34	04:09	16
06:55	06:08	06:32	12:03	05:33	04:08	17
06:55	06:07	06:32	12:03	05:32	04:06	18
06:56	06:06	06:33	12:02	05:31	04:05	19
06:56	06:05	06:34	12:02	05:30	04:04	20
06:57	06:04	06:34	12:02	05:29	04:02	21
06:57	06:04	06:35	12:02	05:28	04:01	22
06:58	06:03	06:36	12:01	05:26	03:59	23
06:58	06:02	06:36	12:01	05:25	03:58	24
06:59	06:01	06:37	12:01	05:24	03:57	25
06:59	06:00	06:38	12:01	05:23	03:55	26
07:00	05:59	06:39	12:01	05:22	03:54	27
07:00	05:59	06:39	12:00	05:21	03:53	28
07:01	05:58	06:40	12:00	05:20	03:52	29
07:01	05:57	06:41	12:00	05:19	03:51	30

**ہدایاتِ حضرت**  
 اس ماہ میں زیادہ نمکین اشیاء، بڑا گوشت اور پیسیس کا  
 دورہ استعمال نہ کریں۔ دن کے اول حصہ میں غسل  
 مفید ہے۔

# سالانہ مجلس عزا

ہر سال اپریل کا تیسرا اتوار

بمقام: کربلا گائے شاہ لاہور۔

منحانب: ملک شجر حسین العوان اینڈ برادرز۔ شیکار پور ٹاؤن لاہور۔

0300-4262165, 0333-4210919

سالانہ جشنِ حضورِ حضرت عباسؓ کی مجلسِ شامیہ شام 5 بجے ہفت روزہ کراچی نام لکھنؤ کے ذریعہ جاری ہوگی۔ ستمبر 14 شعبان الحکیم 8 بجے شب جشنِ حضورِ جنتِ خدا برقامت امام بارگاہ شاہ خراسان چیمبرٹ۔ میو میاں 0308-4952031













## حالت شرف اوج حسیض و شبوط سیارگان برائے سال 2020

### مشتری

حالت	تاریخ آغاز	وقت آغاز	تاریخ اختتام	وقت اختتام
شبوط (مطر 30% سے زائد)	02 دسمبر	23:20	19 دسمبر	18:07

### راہو گشتی

حالت	تاریخ آغاز	وقت آغاز	تاریخ اختتام	وقت اختتام
شرف (مطر 30% سے زائد)	05 مئی	10:48	18 جون	23:50

### بلوتو

### یہرائس

یہرائس ماسال برائے ٹورس گول کرے گا | پلو ماسال برائے جوی مگر گول کرے گا

### نسیچون

نسیچون ماسال برائے حوت مگر گول کرے گا

## رحمت و استقامت سیارگان 2020

سیارگان	کیفیات	تواریخ	اوقات	درجات و دقائق
یہرائس	مستقیم	11 جنوری	06:49	02 درجہ 39 منٹ برج ثور
عطارد	راجع	17 فروری	05:54	12 درجہ 53 منٹ برج حوت
عطارد	مستقیم	10 مارچ	08:49	28 درجہ 13 منٹ برج دلو
پلو	راجع	25 اپریل	23:54	25 درجہ 00 منٹ برج جدی
زحل	راجع	11 مئی	09:09	01 درجہ 57 منٹ برج دلو
زہرہ	راجع	13 مئی	11:46	21 درجہ 50 منٹ برج جوزا
مشتری	راجع	14 مئی	19:32	27 درجہ 14 منٹ برج جدی
عطارد	راجع	18 جون	09:58	14 درجہ 46 منٹ برج سرطان
نسیچون	راجع	23 جون	09:33	20 درجہ 58 منٹ برج حوت
زہرہ	مستقیم	25 جون	11:48	05 درجہ 20 منٹ برج جوزا
عطارد	مستقیم	12 جولائی	13:25	05 درجہ 30 منٹ برج سرطان
یہرائس	راجع	15 اگست	19:27	10 درجہ 42 منٹ برج ثور
مرخ	راجع	10 ستمبر	03:22	28 درجہ 09 منٹ برج حمل
مشتری	مستقیم	13 ستمبر	05:42	17 درجہ 24 منٹ برج جدی
زحل	مستقیم	29 ستمبر	10:12	25 درجہ 20 منٹ برج جدی
پلو	مستقیم	04 اکتوبر	18:33	22 درجہ 29 منٹ برج جدی
عطارد	راجع	14 اکتوبر	06:05	11 درجہ 40 منٹ برج عقرب
عطارد	مستقیم	03 نومبر	22:50	25 درجہ 54 منٹ برج میزان
مرخ	مستقیم	14 نومبر	05:35	15 درجہ 14 منٹ برج حمل
نسیچون	مستقیم	29 نومبر	05:37	18 درجہ 10 منٹ برج حوت

والدین کے لیے  
رحمت کی دعا  
رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا

## اوقات شرعی برائے لاہور۔ کراچی

تاریخ	لاہور		کراچی	
	طلوع	مغرب	طلوع	مغرب
1	03:22	05:01	07:11	12:06
2	03:23	05:01	07:11	12:07
3	03:23	05:02	07:11	12:07
4	03:24	05:02	07:11	12:07
5	03:24	05:03	07:11	12:07
6	03:25	05:03	07:11	12:07
7	03:26	05:04	07:11	12:07
8	03:27	05:04	07:11	12:07
9	03:27	05:05	07:10	12:08
10	03:28	05:05	07:10	12:08
11	03:28	05:06	07:10	12:08
12	03:29	05:06	07:10	12:08
13	03:29	05:07	07:10	12:08
14	03:30	05:07	07:09	12:08
15	03:31	05:08	07:09	12:09
16	03:32	05:09	07:09	12:09
17	03:33	05:09	07:09	12:09
18	03:34	05:10	07:08	12:09
19	03:35	05:10	07:08	12:09
20	03:35	05:11	07:08	12:09
21	03:36	05:11	07:07	12:09
22	03:37	05:12	07:06	12:09
23	03:37	05:12	07:06	12:09
24	03:38	05:13	07:05	12:09
25	03:39	05:13	07:05	12:09
26	03:40	05:14	07:04	12:09
27	03:41	05:15	07:03	12:09
28	03:42	05:16	07:02	12:09
29	03:43	05:17	07:02	12:09
30	03:44	05:17	07:01	12:09
31	03:45	05:18	07:00	12:09

**ہدایات حضرت امام رضا علیہ السلام**  
شہادت تمہارا تمہارا کر کے شہادت پانی پینا، لطیف اور  
زود بخشم خدا میں کھانا اور پھولوں کا سوکھنا مفید ہے۔

## مجلس شب عاشور و اذان علی اکبر

مخصوص انداز میں اذان علی اکبر علیہ السلام پڑھی جائے گی  
★ اذان کے وقت شہید ذوالحجہ کی آواز ہوگی اور زنجیروں کا ماتم ہوگا۔

0301  
دعا گو: سید مقبول حسین نقوی 8404890

سالانہ مجلس 11 مارچ 2020 بمقام: سید اہل بیت علیہم السلام۔ سالانہ مجلس 11 مارچ 2020 بمقام: سید اہل بیت علیہم السلام۔ سالانہ مجلس 11 مارچ 2020 بمقام: سید اہل بیت علیہم السلام۔



# شمسی و قمری گرہن 2020

غلام رضا عسکری اعوان 0333-7014915

## جزوی قمری گرہن

سال کا پہلا جزوی قمری گرہن 10 جنوری 2020 بروز جمعہ المبارک اور ہفتہ کی درمیانی رات کو ہوگا۔ برج سرطان کے 20.00.13 درجہ پر یہ گرہن لگے گا۔ گرہن کا آغاز 07:44PM:10 رات کو ہوگا۔ انتہائی نقطہ عروج رات 00.10.02AM پر ہوگا اور گرہن کا اختتام 11 جنوری نصف رات 02:12:19AM پر ہوگا۔ آسٹریلیا، بھیم، جاپان، انڈیا، مصر، پرتگال، انڈونیشیا، ہنگری، اٹلی، ترکی، اسپین، یونان، برطانیہ، فرانس، چین، ساؤتھ افریقہ، روس اور روس کی مسلم ریاستوں ترکمانستان، آذربائیجان، ازبکستان، بنگلہ دیش سمیت پاکستان کے علاقوں میں دیکھا جاسکے گا۔ گرہن کا کل دورانیہ 4 گھنٹے 5 منٹ ہوگا۔

## جزوی قمری گرہن

سال کا دوسرا جزوی قمری گرہن 5 اور 6 جون کی درمیانی شب کو ہوگا۔ برج قوس کے 15.34.02 درجہ پر یہ گرہن لگے گا۔ گرہن کا آغاز 05.06.2020 کی رات 10:45:51PM پر ہوگا۔ گرہن کا نقطہ عروج 6 جون نصف شب 12:24:55AM پر ہوگا۔ گرہن کا اختتام 6 جون نصف شب کے بعد 02:45:03 پر ہوگا۔ پاکستان کے اکثر علاقوں میں یہ گرہن دیکھا جاسکے گا۔ ساؤتھ افریقہ، برازیل، انڈیا، انڈونیشیا، بھیم، آسٹریلیا، انڈونیشیا، روس، ترکی، یونان، اٹلی، جاپان، چین، اسپین، فرانس، بھیم اور برطانیہ میں اکثر مقامات پر دیکھا جاسکے گا۔ گرہن کا کل دورانیہ 5 گھنٹے کا ہوگا۔

## جزوی شمسی گرہن

سال کا پہلا جزوی شمسی گرہن 21 جون 2020 کو ہوگا۔ یہ گرہن برج سرطان کے 00.21.23 پر لگے گا۔ گرہن کا آغاز 21 جون کو صبح 08:45:51AM پر ہوگا جبکہ گرہن 09:45:47Am پر نظر آنا شروع ہوگا۔ گرہن کا انتہائی نقطہ عروج 11:40:04 تک ہوگا۔ گرہن کا نظر آنا 01:32:17PM تک رہے گا جبکہ گرہن کا اختتام 02:34:00PM تک ہوگا۔ گرہن کا کچھ حصہ پاکستان کے اکثر علاقوں میں دیکھا جاسکے گا جبکہ سب سے زیادہ گرہن کا حصہ حیدرآباد، سکھر سے لے کر رحیم یار خان، صادق آباد میں دیکھا جاسکے گا۔

## اوقات شرعی برائے لاہور۔ کراچی

کراچی		لاہور		اگست		
عروب اصابت	طلوع اصابت	عروب اصابت	زوال اصابت	طلوع اصابت	طلوع عروج	نارم
07:17	05:59	07:00	12:09	05:19	03:46	1
07:17	05:59	06:59	12:09	05:19	03:47	2
07:16	06:00	06:58	12:09	05:20	03:47	3
07:15	06:00	06:57	12:09	05:21	03:48	4
07:14	06:01	06:56	12:09	05:22	03:49	5
07:14	06:01	06:55	12:09	05:22	03:50	6
07:13	06:02	06:54	12:09	05:23	03:51	7
07:13	06:02	06:53	12:09	05:24	03:52	8
07:12	06:03	06:52	12:08	05:25	03:53	9
07:11	06:03	06:51	12:08	05:25	03:54	10
07:10	06:04	06:50	12:08	05:26	03:55	11
07:09	06:04	06:49	12:08	05:26	03:56	12
07:09	06:05	06:48	12:08	05:27	03:57	13
07:08	06:05	06:47	12:08	05:28	03:58	14
07:07	06:05	06:47	12:07	05:28	03:58	15
07:06	06:05	06:46	12:07	05:29	03:59	16
07:05	06:06	06:45	12:07	05:29	04:00	17
07:05	06:06	06:44	12:07	05:30	04:01	18
07:04	06:07	06:43	12:07	05:30	04:02	19
07:03	06:07	06:42	12:06	05:31	04:03	20
07:02	06:08	06:41	12:06	05:31	04:04	21
07:01	06:08	06:40	12:06	05:32	04:05	22
07:00	06:09	06:38	12:06	05:33	04:06	23
06:59	06:09	06:37	12:05	05:33	04:07	24
06:58	06:10	06:36	12:05	05:34	04:08	25
06:57	06:10	06:35	12:05	05:34	04:09	26
06:56	06:10	06:34	12:05	05:35	04:10	27
06:55	06:10	06:33	12:04	05:35	04:10	28
06:54	06:11	06:32	12:04	05:36	04:11	29
06:53	06:11	06:30	12:04	05:37	04:12	30
06:52	06:12	06:29	12:03	05:37	04:13	31

ہدایات حضرت  
امام رضا علیہ السلام  
اس ماہ میں جلّاب لینا مفید ہے۔ کثرت سے گوشت یا  
حلوہ کھانا، بلا عذر غسل کرنا صحت کیلئے مضر ہے۔

## شب بیداری ماتم ہی ماتم

چوتھی سالانہ بمقام سندھ راولہ تحصیل ڈسٹرکٹ سیکولٹری  
21 محرم الحرام بعد نماز مغربین تا مرضی امام زمانہ

حاجی اشفاق جعفری زوار اشفاق جعفری (نجف اشرف عراق)  
0304-4158919 پسران ماہر اشرف مہاس (کوٹ والے)



## اوقات شرعی برائے لاہور۔ کراچی

تاریخ	لاہور		کراچی	
	طلوع اشراق	زوال اشراق	طلوع اشراق	عروج اشراق
1	04:14	05:37	06:28	06:51
2	04:15	05:38	06:27	06:50
3	04:15	05:39	06:26	06:49
4	04:16	05:39	06:24	06:48
5	04:17	05:40	06:23	06:47
6	04:18	05:41	06:22	06:46
7	04:18	05:42	06:20	06:45
8	04:19	05:43	06:19	06:44
9	04:20	05:43	06:18	06:43
10	04:21	05:44	06:16	06:42
11	04:22	05:44	06:15	06:41
12	04:23	05:45	06:14	06:40
13	04:23	05:45	06:13	06:39
14	04:24	05:46	06:11	06:38
15	04:24	05:46	06:10	06:37
16	04:25	05:47	06:08	06:35
17	04:26	05:48	06:07	06:34
18	04:26	05:49	06:06	06:33
19	04:27	05:50	06:05	06:32
20	04:28	05:51	06:04	06:31
21	04:29	05:51	06:02	06:30
22	04:30	05:52	06:01	06:29
23	04:30	05:52	05:59	06:28
24	04:31	05:53	05:58	06:27
25	04:32	05:53	05:57	06:26
26	04:32	05:54	05:55	06:25
27	04:33	05:54	05:54	06:24
28	04:33	05:55	05:53	06:23
29	04:34	05:55	05:51	06:22
30	04:34	05:56	05:50	06:20

جبکہ پاکستان کے دیگر حصوں میں گرہن کا کم حصہ دکھائی دے گا۔ کنگو افریقہ سے گرہن کا آغاز ہوگا جو کہ چین کے سمندری علاقوں میں جا کر ختم ہوگا۔ گرہن پاکستان انڈیا افریقہ ایتھوپیا چین میں زیادہ واضح ہوگا جبکہ افریقہ سوڈان اریٹریا یمن عمان عرب امارات نیپال بھوٹان چین ہانگ کانگ تائیوان میں انتہائی کم جزوی گرہن دکھائی دے گا۔ گرہن کا کل دورانیہ 5 گھنٹے 49 منٹ ہوگا۔

### جزوی قمری گرہن

سال کا تیسرا جزوی قمری گرہن 5 جولائی 2020 کو ہوگا۔ یہ گرہن فلکیاتی اعتبار سے برج جدی کے 13.37.47 درجہ پر لگے گا۔ گرہن کا آغاز 08:07:23AM پر ہوگا جبکہ انتہائی نقطہ عروج 09:29:51AM پر ہوگا گرہن کا اختتام 10:52:21AM پر ہوگا۔ دن ہونے کی وجہ سے پاکستان اور ایشیا کے اکثر ممالک میں نظر نہیں آئے گا۔ برطانیہ پیرس الجیریا برازیل، نیا گریسیکیو چلی امریکہ ویزویلا کینیڈا پرنگال بیروکیو باسواؤتھ افریقہ موراکو اسپین گونے مالا اور ارجنٹائن میں نظر آئے گا۔ گرہن کا کل دورانیہ 3 گھنٹے 45 منٹ ہوگا۔

### جزوی قمری گرہن

سال کا چوتھا جزوی قمری گرہن 30 نومبر 2020 کو ہوگا فلکیاتی اعتبار سے یہ گرہن برج جوزا کے 08.38.01 درجہ پر لگے گا۔ گرہن کا آغاز دن کے وقت 12:32:22PM پر ہوگا انتہائی نقطہ عروج دوپہر کے 14:42:53PM پر ہوگا جب کہ اختتام گرہن 16:53:22PM سے پہلے کے بعد تک ہوگا دن ہونے کی وجہ سے یہ گرہن پاکستان میں نظر نہیں آئے گا۔ جبکہ چلی، فلپائن، وینزویلا، امریکہ، کینیڈا آسٹریلیا پیرو تائیوان گونے مالا ہانگ کانگ جنوبی کوریا جاپان آئی لینڈ نیکیو نیوزی لینڈ پیٹریوٹیکو، اور چائنا کیوبا میں نظر آئے گا۔ گرہن کا کل دورانیہ 5 گھنٹے 21 منٹ ہوگا۔

### مکمل شمسی گرہن

سال کا دوسرا مکمل شمسی گرہن 13 دسمبر 2020 کو ہوگا۔ فلکیاتی اعتبار سے یہ گرہن برج قوس کے 23.08.14 درجہ پر لگے گا۔ گرہن کا آغاز 06:33:55PM پر ہوگا۔ جبکہ 07:32:34PM پر گرہن نظر آنا شروع ہوگا۔ انتہائی نقطہ عروج 09:13:28PM پر ہوگا اور اختتام گرہن 1:53:03PM پر ہوگا۔ میوکو اور ولیریکا چلی کے علاقوں میں مکمل گرہن کا نظارہ کیا جاسکے گا جبکہ پولینیشیا پیرو چلی پیرو گونے فاک لینڈ انمارک ٹیکا برازیل ساؤتھ جارجیا انگولانیمیبیا ساؤتھ افریقہ اور سینٹ ہیلینا میں گرہن کا 70% سے 90% تک حصہ دیکھا جاسکے گا۔ پاکستان سمیت ایشیائی ممالک میں یہ گرہن نظر نہیں آئے گا۔ گرہن کا کل دورانیہ 6 گھنٹے 20 منٹ ہوگا۔

**ہدایات حضرت امام رضاؑ**  
رات کو پانی پینا صحت کے لئے مفید ہے۔ ساگ پودینہ، اورک سے پرہیز کریں۔ صبح کے وقت پانی پینا اور سیر اور ورزش مفید ہے۔

### تنبیہ برائے حاملہ خواتین

گرہن کے اوقات میں گھر کے اندر چت لیٹی رہیں۔ چھڑی اور قینچی کا استعمال نہ کریں پیٹ پر کسی قسم کا دباؤ نہ ڈالیں۔ گرہن کے اوقات میں صدقہ اور نماز آیات ضرور ادا کریں۔ صدقہ حسب استطاعت ٹوٹ چاول کسی مستحق کو دیں۔ 1 کلو باجرہ گھر سے باہر پرندوں کو ڈالیں۔  
خصوصی نوٹ: تمام گرہن چاہے دنیا کی کسی خطے میں ہوں اثرات دیتے ہیں

29 مزیں بعد از نماز عشاء مجلس عزائم شہادت امام حسینؑ کا نظام آئینہ شیشی امام بارگاہ حیدری پرائیوٹ لٹریچر ایسوسی ایشن اسلام آباد۔ اسد مہاس 0300-5322857

امامیہ تقویم ماہ اکتوبر 2020 عیسوی		صفر المظفر		ربیع الاول 1442 ہجری	
شہادتی تقویم		استخراج و کوائف سیارگان		اسلامی تقویم	
عیسوی	قمری	شمسی	مطابق الشاہ بخاری		
2020	2077	1942	سیارگان	قمر	قمر
اکتوبر	الربیع	سفر	فی الجروج	فی المنازل	فی الجروج
31	31	31			
بہرات	1	17	10	17	1
جمعہ	2	18	11	18	2
ہفتہ	3	19	12	19	3
اتوار	4	20	13	20	4
پہ	5	21	14	21	5
منگل	6	22	15	22	6
پہ	7	23	16	23	7
بہرات	8	24	17	24	8
جمعہ	9	25	18	25	9
ہفتہ	10	26	19	26	10
اتوار	11	27	20	27	11
پہ	12	28	21	28	12
منگل	13	29	22	29	13
پہ	14	30	23	30	14
بہرات	15	31	24	31	15
جمعہ	16	2	25	2	16
ہفتہ	17	3	26	3	17
اتوار	18	4	27	4	18
پہ	19	5	28	5	19
منگل	20	6	29	6	20
پہ	21	7	30	7	21
بہرات	22	8	31	8	22
جمعہ	23	9	1	9	23
ہفتہ	24	10	2	10	24
اتوار	25	11	3	11	25
پہ	26	12	4	12	26
منگل	27	13	5	13	27
پہ	28	14	6	14	28
بہرات	29	15	7	15	29
جمعہ	30	16	8	16	30
ہفتہ	31	17	9	17	31







# استخراج ساعت

درویش خضر عباس پیراسی اگر کسی بات کی بھنٹا ہے تو ہمراہ جمالی لٹائر کے (طعت) ہو چکے ہیں۔  
 موبائل: 0333-6474494 فاضل پوزو پٹیس جوگی تحصیل، ضلع، جن پور

آپ نے جس روز کی ساعت معلوم کرنی ہو تو طلوع آفتاب سے غروب تک جتنے گھنٹے ہوں ان کو 12 پر تقسیم کر دیں ایک ستارہ کی ساعت معلوم ہو جائے گی اور یاد رکھیں اگر دن چھوٹے ہوں گے تو ساعت کا وقت بھی کم ہو جائیگا اور اگر دن بڑے ہوں گے تو ساعت کا وقت بھی بڑھ جائے گا۔

## جدول ساعت دن

دن	پہلا گھنٹہ	دوم گھنٹہ	سوم گھنٹہ	چوتھا گھنٹہ	پانچواں گھنٹہ	چھٹا گھنٹہ	ساتواں گھنٹہ	آٹھواں گھنٹہ	نواں گھنٹہ	دسواں گھنٹہ	گیارہواں گھنٹہ	بارہواں گھنٹہ
پندرہ	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مرخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری
بہشت	زحل	مشتری	مرخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مرخ	شمس	زہرہ
اتوار	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مرخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل
سہوار	قمر	زحل	مشتری	مرخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مرخ	شمس
منگل	مرخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مرخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر
بدھ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مرخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مرخ
جمعرات	مشتری	مرخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مرخ	شمس	زہرہ	عطارد

## جدول ساعت رات

دن	پہلا گھنٹہ	دوم گھنٹہ	سوم گھنٹہ	چوتھا گھنٹہ	پانچواں گھنٹہ	چھٹا گھنٹہ	ساتواں گھنٹہ	آٹھواں گھنٹہ	نواں گھنٹہ	دسواں گھنٹہ	گیارہواں گھنٹہ	بارہواں گھنٹہ
پندرہ	قمر	زحل	مشتری	مرخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مرخ	شمس
بہشت	مرخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مرخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر
اتوار	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مرخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مرخ
سہوار	مشتری	مرخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مرخ	شمس	زہرہ	عطارد
منگل	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مرخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری
بدھ	زحل	مشتری	مرخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مرخ	شمس	زہرہ
جمعرات	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مرخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل

## برائے زیادتی رزق

بعد از نماز آیت کی تلاوت موجب رحمت و برکت رزق ہے۔

اللَّهُ لَيُفِي بِعِبَادِهِ يَسْرُورًا مِّنْ يَّسَاءٍ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ (احقری)

اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے اور طاقت والا زبردست ہے۔

# اوقات شرعی برائے لاہور۔ کراچی

نومبر	لاہور		کراچی	
	طلوع صبح	غروب آفتاب	طلوع آفتاب	غروب آفتاب
1	04:56	06:19	05:14	11:47
2	04:57	06:19	05:14	11:47
3	04:57	06:20	05:13	11:47
4	04:58	06:21	05:12	11:47
5	04:58	06:22	05:11	11:47
6	04:59	06:23	05:10	11:47
7	05:00	06:23	05:10	11:47
8	05:00	06:24	05:09	11:47
9	05:01	06:25	05:09	11:47
10	05:01	06:26	05:08	11:47
11	05:02	06:27	05:07	11:47
12	05:03	06:28	05:06	11:47
13	05:04	06:29	05:05	11:47
14	05:05	06:30	05:05	11:47
15	05:06	06:31	05:04	11:48
16	05:07	06:32	05:04	11:48
17	05:08	06:33	05:03	11:48
18	05:09	06:33	05:03	11:48
19	05:09	06:34	05:02	11:48
20	05:10	06:35	05:02	11:49
21	05:11	06:36	05:02	11:49
22	05:12	06:37	05:01	11:49
23	05:12	06:37	05:01	11:49
24	05:13	06:38	05:00	11:50
25	05:14	06:39	05:00	11:50
26	05:15	06:40	05:00	11:50
27	05:16	06:41	04:59	11:51
28	05:16	06:42	04:59	11:51
29	05:17	06:42	04:59	11:51
30	05:17	06:43	04:59	11:52

**ہدایات حضرت امام رضا علیہ السلام**  
 رات کو پانی پینا صحت کے لئے مفید ہے۔ غسل میں کمی چاہیے۔ سناک پورینے اور ک سے پرہیز نہ کرنا ایک کھوت پانی پینا مفید ہے۔

**سالانہ مجلس عزاء امام حسین**  
 13 ویں سالانہ برسی برائے بلندی درجات  
 بشیر احمد زکریا مرحوم (قطر والے)

11 اپریل بروز ہفتہ 2020 مرکزی امام بارگاہ اور جنرل اوڈو پوریاں سیالکوٹ ملک بھر کے علماء کرام و ڈاکٹرین خطاب فرمائیں گے

**خاکپانے اہلبیت** زوار حاجی عامر رضا پیران قطر والے

الوہائی مجلس عزاء کے لیے سب سے پہلے اطلاع لیں اور پھر ہجرت کے لیے تیار رہیں۔ سالانہ مجلس عزاء کے لیے سب سے پہلے اطلاع لیں اور پھر ہجرت کے لیے تیار رہیں۔ سالانہ مجلس عزاء کے لیے سب سے پہلے اطلاع لیں اور پھر ہجرت کے لیے تیار رہیں۔

0307 8417017: فون: خلیفہ حسن مہدی زہرا عیسیٰ دروڈ لاہور۔ جشن عید فطر سورہ 15 رجب بمقام گلستان زہرا عیسیٰ دروڈ لاہور۔

اہم مسیحا تقویم ماہ دسمبر 2020 عیسوی		ربیع الثانی   جمادی الاول 1442   ھجری		اسلامی تقویم			عمومی تقویم			استخراج و کوائف سیارگان			
ایام	2020	2077	1942	قمر	قمر	سیارگان	قمر	قمر	قمر	قمر	قمر	قمر	قمر
31	دسمبر	دسمبر	دسمبر	فی البروج	فی المنازل	فی البروج	فی البروج	فی البروج	فی البروج	فی البروج	فی البروج	فی البروج	فی البروج
منگل	1	18	10		ذراعہ 07:21								
بدھ	2	19	11		نثرہ 08:33	00:51							
جمعرات	3	20	12		طرفہ 09:23								
جمعہ	4	21	13		جیبہ 09:50								
ہفتہ	5	22	14		زہرا 09:49								
اتوار	6	23	15		صرفہ 09:21								
پہ	7	24	16		عوا 08:24								
منگل	8	25	17		سہاگ 06:57								
بدھ	9	26	18		غفرہ 05:01								
جمعرات	10	27	19		زبان 02:40								
جمعہ	11	28	20		قلب 20:57								
ہفتہ	12	29	21		شولہ 17:47								
اتوار	13	30	22		نعام 14:35								
پہ	14	31	23		بلدہ 11:28								
منگل	15	2	24		زواج 08:35	21:21							
بدھ	16	3	25		بلع 06:03								
جمعرات	17	4	26		سعود 04:00	10:04							
جمعہ	18	5	27		اخیبہ 02:33								
ہفتہ	19	6	28		مقدم 01:46	18:07							
اتوار	20	7	29		مؤخر 01:42								
پہ	21	8	30		رشا 02:19	04:07							
منگل	22	9	2		شرطین 03:32								
بدھ	23	10	3		بطین 05:14								
جمعرات	24	11	4		شریا 07:13								
جمعہ	25	12	5		دبران 09:19								
ہفتہ	26	13	6		حققہ 11:20								
اتوار	27	14	7		ھنحہ 13:06								
پہ	28	15	8		ذراعہ 14:30								
منگل	29	16	9		نثرہ 15:28								
بدھ	30	17	10		طرفہ 15:59								
جمعرات	31	18	11		جیبہ 16:03								



امامیہ تقویم ماہ جنوری 2021 عیسوی

امامیہ تقویم ماہ دسمبر 2019 عیسوی

مطابق جمادی الاول / جمادی الثانی ۲۲ ۲۲ ۲۲ ہجری

مطابق ربیع الثانی / جمادی الاول ۱۲ ۱۲ ۱۲ ہجری

ایام 31	دسمبر 2019	ربیع الثانی	نیک	یاداشت	ایام 31	جنوری 2021	جمادی الاول	نیک	یاداشت
اتوار	1	۴	نیک	سڑک کے لئے بد	جمعہ	1	۱۶	محسن	قبر مکان کے لئے نیک
پہ	2	۵	محسن		ہفتہ	2	۱۷	میانہ	قرض لینے دینے کے لئے بد
منگل	3	۶	نیک		اتوار	3	۱۸	نیک	
بدھ	4	۷	نیک	سڑک کے لئے بد	پہ	4	۱۹	نیک	
جمعرات	5	۸	نیک		منگل	5	۲۰	میانہ	قبر کے لئے نیک
جمعہ	6	۹	نیک		بدھ	6	۲۱	محسن	
ہفتہ	7	۱۰	نیک	میلاں مسجد امام حسن مسکری ۱۳۳۰ھ	جمعرات	7	۲۲	نیک	قمر در عقرب ابتدا 13/53
اتوار	8	۱۱	محسن اکبر	بڑی گیارہویں شریف	جمعہ	8	۲۳	نیک	
پہ	9	۱۲	نیک	نماز فرض ہوئی سائے	ہفتہ	9	۲۴	محسن	قمر در عقرب اختتام 16/15
منگل	10	۱۳	محسن	کوئٹہ میں قیام حضرت مختار	اتوار	10	۲۵	محسن	
بدھ	11	۱۴	نیک		پہ	11	۲۶	نیک	کلاخ دسڑک کے لئے بد
جمعرات	12	۱۵	نیک	قرض لینے دینے کے لئے بد	منگل	12	۲۷	نیک	قرض لینے دینے کے لئے بد
جمعہ	13	۱۶	محسن	قبر کے لئے نیک	بدھ	13	۲۸	محسن اکبر	
ہفتہ	14	۱۷	میانہ	قرض لینے دینے کے لئے بد	جمعرات	14	۲۹	نیک	کلاخ کے لئے بد
اتوار	15	۱۸	نیک	سڑک کے لئے بد	جمعہ	15	۳۰	محسن اکبر	
پہ	16	۱۹	نیک		ہفتہ	16	۳۱	نیک	
منگل	17	۲۰	میانہ	قبر مکان کے لئے نیک	اتوار	17	۳۲	محسن	شکرات بی بی مائتہ الزہراء
بدھ	18	۲۱	محسن		پہ	18	۳۳	نیک	سڑک کے لئے بد
جمعرات	19	۲۲	نیک	دلت حضرت مہدی	منگل	19	۳۴	محسن	
جمعہ	20	۲۳	نیک		بدھ	20	۳۵	نیک	
ہفتہ	21	۲۴	محسن	قمر در عقرب ابتدا 17/57	جمعرات	21	۳۶	نیک	
اتوار	22	۲۵	محسن		جمعہ	22	۳۷	نیک	سڑک کے لئے بد
پہ	23	۲۶	نیک	قمر در عقرب اختتام 21/54	ہفتہ	23	۳۸	نیک	
منگل	24	۲۷	نیک		اتوار	24	۳۹	نیک	تاجک جمل ۳۷ھ
بدھ	25	۲۸	محسن اکبر		پہ	25	۴۰	محسن اکبر	
جمعرات	26	۲۹	نیک	کلاخ کے لئے بد جزوی سورج گرہن	منگل	26	۴۱	محسن اکبر	
جمعہ	27	۳۰	نیک	کلاخ کے لئے بد	بدھ	27	۴۲	محسن	شکرات ام العسین والحد حضرت عباس
ہفتہ	28	۳۱	نیک		جمعرات	28	۴۳	نیک	
اتوار	29	۱	نیک		جمعہ	29	۴۴	نیک	
پہ	30	۲	محسن	سڑک کے لئے بد	ہفتہ	30	۴۵	محسن	قبر مکان کے لئے نیک
منگل	31	۳	نیک		اتوار	31	۴۶	میانہ	قرض لینے دینے کے لئے بد

سالانہ مجلس عزاء 13 سالہ مجلس عزاء بعد از نماز صبح روز جمعہ 14 فروری 2021ء

14 فروری 2021 یکم رجب - قمر در عقرب ابتدا 3 فروری 2021 19:14 - اختتام قمر در عقرب 5 فروری 2021 22:16

غلام رضا عسکری اعوان  
0333-7014915

# نظرات قمر و سیارگان 2020

تاریخ نظرات وقت

11 فروری 22:36 قمر حث زحل  
11 فروری 23:25 قمر حث مریخ

12 فروری 13:06 قمر حث زحل  
13 فروری 06:53 قمر حث مشتری

13 فروری 20:16 قمر حث شمس  
13 فروری 23:46 قمر حث زحل

13 فروری 19:20 قمر حث زحل  
14 فروری 02:40 قمر حث مریخ

14 فروری 10:53 قمر حث مشتری  
15 فروری 02:42 قمر حث عطارد

15 فروری 11:24 قمر حث بھون  
15 فروری 09:51 قمر حث مشتری

15 فروری 22:20 قمر حث زحل  
16 فروری 03:17 قمر حث شمس

16 فروری 03:19 قمر حث زحل  
17 فروری 04:05 قمر حث زہرہ

17 فروری 08:09 قمر حث عطارد  
17 فروری 16:48 قمر حث بھون

18 فروری 14:03 قمر حث شمس  
18 فروری 18:16 قمر حث مشتری

18 فروری 21:44 قمر حث مشتری  
19 فروری 17:08 قمر حث زہرہ

19 فروری 14:56 قمر حث عطارد  
20 فروری 00:49 قمر حث مشتری

20 فروری 01:05 قمر حث بھون  
20 فروری 13:06 قمر حث مشتری

20 فروری 19:18 قمر حث مشتری  
21 فروری 07:13 قمر حث مشتری

22 فروری 09:08 قمر حث زہرہ  
23 فروری 18:28 قمر حث مشتری

23 فروری 20:31 قمر حث مشتری  
23 فروری 21:29 قمر حث مشتری

24 فروری 05:39 قمر حث مشتری  
24 فروری 23:25 قمر حث بھون

25 فروری 00:45 قمر حث مشتری  
25 فروری 11:57 قمر حث مشتری

25 فروری 19:11 قمر حث مشتری  
26 فروری 13:32 قمر حث مشتری

27 فروری 14:21 قمر حث مشتری  
27 فروری 22:05 قمر حث مشتری

تاریخ نظرات وقت

29 جنوری 03:20 قمر حث مشتری  
29 جنوری 06:08 قمر حث مشتری

30 جنوری 12:49 قمر حث شمس  
30 جنوری 19:54 قمر حث مشتری

31 جنوری 06:49 قمر حث مریخ  
31 جنوری 16:10 قمر حث مشتری

31 جنوری 19:24 قمر حث مشتری  
31 جنوری 20:09 قمر حث مشتری

01 فروری 11:09 قمر حث مشتری  
02 فروری 09:11 قمر حث مشتری

02 فروری 06:41 قمر حث مشتری  
02 فروری 15:29 قمر حث مشتری

03 فروری 03:53 قمر حث مشتری  
03 فروری 07:24 قمر حث مشتری

03 فروری 05:31 قمر حث مشتری  
03 فروری 16:27 قمر حث مشتری

04 فروری 21:19 قمر حث مشتری  
05 فروری 00:50 قمر حث مشتری

05 فروری 10:07 قمر حث مشتری  
05 فروری 19:19 قمر حث مشتری

06 فروری 06:59 قمر حث مشتری  
06 فروری 05:16 قمر حث مشتری

07 فروری 02:13 قمر حث مشتری  
07 فروری 06:15 قمر حث مشتری

07 فروری 17:02 قمر حث مشتری  
07 فروری 20:42 قمر حث مشتری

08 فروری 03:59 قمر حث مشتری  
08 فروری 08:42 قمر حث مشتری

09 فروری 12:33 قمر حث مشتری  
09 فروری 21:08 قمر حث مشتری

10 فروری 09:30 قمر حث مشتری  
10 فروری 19:50 قمر حث مشتری

11 فروری 08:29 قمر حث مشتری  
11 فروری 05:54 قمر حث مشتری

11 فروری 18:35 قمر حث مشتری  
11 فروری 14:30 قمر حث مشتری

تاریخ نظرات وقت

15 جنوری 09:12 قمر حث شمس  
15 جنوری 08:51 قمر حث مشتری

15 جنوری 11:40 قمر حث مشتری  
15 جنوری 17:11 قمر حث مشتری

16 جنوری 13:45 قمر حث مشتری  
16 جنوری 11:13 قمر حث مشتری

17 جنوری 11:55 قمر حث مشتری  
17 جنوری 11:16 قمر حث مشتری

17 جنوری 17:58 قمر حث مشتری  
18 جنوری 03:55 قمر حث مشتری

18 جنوری 02:36 قمر حث مشتری  
18 جنوری 08:25 قمر حث مشتری

18 جنوری 17:45 قمر حث مشتری  
19 جنوری 04:13 قمر حث مشتری

19 جنوری 16:18 قمر حث مشتری  
19 جنوری 15:17 قمر حث مشتری

20 جنوری 02:21 قمر حث مشتری  
20 جنوری 18:20 قمر حث مشتری

20 جنوری 14:39 قمر حث مشتری  
21 جنوری 00:46 قمر حث مشتری

21 جنوری 09:45 قمر حث مشتری  
22 جنوری 14:59 قمر حث مشتری

23 جنوری 07:44 قمر حث مشتری  
23 جنوری 06:52 قمر حث مشتری

23 جنوری 17:19 قمر حث مشتری  
24 جنوری 07:08 قمر حث مشتری

24 جنوری 05:18 قمر حث مشتری  
24 جنوری 23:34 قمر حث مشتری

25 جنوری 02:41 قمر حث مشتری  
25 جنوری 23:34 قمر حث مشتری

26 جنوری 00:06 قمر حث مشتری  
27 جنوری 10:12 قمر حث مشتری

28 جنوری 06:13 قمر حث مشتری  
28 جنوری 16:01 قمر حث مشتری

28 جنوری 14:33 قمر حث مشتری  
28 جنوری 14:30 قمر حث مشتری

تاریخ نظرات وقت

01 جنوری 05:15 قمر حث مشتری  
01 جنوری 15:42 قمر حث مشتری

01 جنوری 17:38 قمر حث مشتری  
02 جنوری 07:13 قمر حث مشتری

02 جنوری 23:31 قمر حث مشتری  
02 جنوری 23:18 قمر حث مشتری

03 جنوری 09:45 قمر حث مشتری  
03 جنوری 20:37 قمر حث مشتری

04 جنوری 04:49 قمر حث مشتری  
04 جنوری 06:18 قمر حث مشتری

05 جنوری 02:31 قمر حث مشتری  
05 جنوری 12:20 قمر حث مشتری

05 جنوری 20:18 قمر حث مشتری  
06 جنوری 02:37 قمر حث مشتری

06 جنوری 05:14 قمر حث مشتری  
06 جنوری 14:07 قمر حث مشتری

06 جنوری 16:07 قمر حث مشتری  
06 جنوری 17:07 قمر حث مشتری

07 جنوری 12:05 قمر حث مشتری  
08 جنوری 13:27 قمر حث مشتری

09 جنوری 03:15 قمر حث مشتری  
09 جنوری 18:22 قمر حث مشتری

10 جنوری 04:59 قمر حث مشتری  
10 جنوری 18:19 قمر حث مشتری

11 جنوری 00:21 قمر حث مشتری  
11 جنوری 00:33 قمر حث مشتری

11 جنوری 04:43 قمر حث مشتری  
11 جنوری 04:58 قمر حث مشتری

11 جنوری 21:42 قمر حث مشتری  
12 جنوری 02:53 قمر حث مشتری

13 جنوری 18:41 قمر حث مشتری  
13 جنوری 23:28 قمر حث مشتری

14 جنوری 06:59 قمر حث مشتری  
14 جنوری 11:07 قمر حث مشتری

14 جنوری 22:27 قمر حث مشتری

0321-5513892

تاریخ	نظرات	وقت	تاریخ	نظرات	وقت	تاریخ	نظرات	وقت	تاریخ	نظرات	وقت
28 فروری	قرآن مجید	00:46	13 مارچ	قرآن مجید	04:10	29 مارچ	قرآن مجید	04:04	12 اپریل	قرآن مجید	16:45
28 فروری	قرآن مجید	08:24	13 مارچ	قرآن مجید	20:52	29 مارچ	قرآن مجید	07:36	13 اپریل	قرآن مجید	10:59
28 فروری	قرآن مجید	19:49	13 مارچ	قرآن مجید	19:59	30 مارچ	قرآن مجید	01:31	13 اپریل	قرآن مجید	15:36
28 فروری	قرآن مجید	20:51	14 مارچ	قرآن مجید	02:13	30 مارچ	قرآن مجید	07:57	14 اپریل	قرآن مجید	17:09
29 فروری	قرآن مجید	05:55	14 مارچ	قرآن مجید	05:47	30 مارچ	قرآن مجید	20:10	15 اپریل	قرآن مجید	04:47
29 فروری	قرآن مجید	08:39	14 مارچ	قرآن مجید	06:53	<b>اپریل</b>			15 اپریل	قرآن مجید	03:01
<b>مارچ</b>			14 مارچ	قرآن مجید	14:35	01 اپریل	قرآن مجید	02:23	15 اپریل	قرآن مجید	03:56
01 مارچ	قرآن مجید	03:11	14 مارچ	قرآن مجید	15:05	01 اپریل	قرآن مجید	15:21	15 اپریل	قرآن مجید	15:20
01 مارچ	قرآن مجید	00:50	16 مارچ	قرآن مجید	00:51	01 اپریل	قرآن مجید	22:50	16 اپریل	قرآن مجید	00:08
01 مارچ	قرآن مجید	13:03	16 مارچ	قرآن مجید	14:34	02 اپریل	قرآن مجید	04:22	16 اپریل	قرآن مجید	03:40
01 مارچ	قرآن مجید	20:52	16 مارچ	قرآن مجید	21:48	02 اپریل	قرآن مجید	13:48	16 اپریل	قرآن مجید	08:28
02 مارچ	قرآن مجید	04:04	17 مارچ	قرآن مجید	05:32	02 اپریل	قرآن مجید	14:20	16 اپریل	قرآن مجید	10:41
03 مارچ	قرآن مجید	00:57	17 مارچ	قرآن مجید	22:30	02 اپریل	قرآن مجید	21:48	17 اپریل	قرآن مجید	19:34
03 مارچ	قرآن مجید	11:24	18 مارچ	قرآن مجید	08:36	03 اپریل	قرآن مجید	03:13	18 اپریل	قرآن مجید	11:46
04 مارچ	قرآن مجید	07:19	18 مارچ	قرآن مجید	13:32	03 اپریل	قرآن مجید	00:48	18 اپریل	قرآن مجید	23:57
04 مارچ	قرآن مجید	09:44	18 مارچ	قرآن مجید	15:46	03 اپریل	قرآن مجید	08:39	19 اپریل	قرآن مجید	15:31
04 مارچ	قرآن مجید	16:25	18 مارچ	قرآن مجید	19:53	04 اپریل	قرآن مجید	00:28	20 اپریل	قرآن مجید	04:30
05 مارچ	قرآن مجید	07:24	19 مارچ	قرآن مجید	03:56	05 اپریل	قرآن مجید	04:07	20 اپریل	قرآن مجید	01:50
05 مارچ	قرآن مجید	12:49	19 مارچ	قرآن مجید	05:47	05 اپریل	قرآن مجید	11:05	20 اپریل	قرآن مجید	15:15
05 مارچ	قرآن مجید	18:14	19 مارچ	قرآن مجید	15:03	06 اپریل	قرآن مجید	09:37	21 اپریل	قرآن مجید	16:17
05 مارچ	قرآن مجید	21:55	20 مارچ	قرآن مجید	13:59	06 اپریل	قرآن مجید	14:48	21 اپریل	قرآن مجید	18:34
06 مارچ	قرآن مجید	04:50	22 مارچ	قرآن مجید	01:38	06 اپریل	قرآن مجید	18:28	22 اپریل	قرآن مجید	01:05
06 مارچ	قرآن مجید	12:11	22 مارچ	قرآن مجید	02:50	06 اپریل	قرآن مجید	18:14	22 اپریل	قرآن مجید	17:31
06 مارچ	قرآن مجید	17:00	23 مارچ	قرآن مجید	07:38	07 اپریل	قرآن مجید	03:52	22 اپریل	قرآن مجید	14:31
06 مارچ	قرآن مجید	21:05	23 مارچ	قرآن مجید	07:35	07 اپریل	قرآن مجید	06:55	23 اپریل	قرآن مجید	03:59
08 مارچ	قرآن مجید	13:12	23 مارچ	قرآن مجید	16:20	07 اپریل	قرآن مجید	10:20	23 اپریل	قرآن مجید	07:25
08 مارچ	قرآن مجید	22:00	23 مارچ	قرآن مجید	19:51	08 اپریل	قرآن مجید	07:34	23 اپریل	قرآن مجید	13:28
08 مارچ	قرآن مجید	22:10	23 مارچ	قرآن مجید	19:18	08 اپریل	قرآن مجید	17:49	24 اپریل	قرآن مجید	10:30
09 مارچ	قرآن مجید	15:47	24 مارچ	قرآن مجید	06:14	08 اپریل	قرآن مجید	17:17	24 اپریل	قرآن مجید	16:37
09 مارچ	قرآن مجید	22:47	24 مارچ	قرآن مجید	14:28	09 اپریل	قرآن مجید	03:02	25 اپریل	قرآن مجید	02:26
09 مارچ	قرآن مجید	20:56	26 مارچ	قرآن مجید	05:43	09 اپریل	قرآن مجید	10:09	25 اپریل	قرآن مجید	05:42
10 مارچ	قرآن مجید	01:07	26 مارچ	قرآن مجید	08:02	09 اپریل	قرآن مجید	11:40	25 اپریل	قرآن مجید	15:47
10 مارچ	قرآن مجید	06:23	26 مارچ	قرآن مجید	12:16	10 اپریل	قرآن مجید	08:32	26 اپریل	قرآن مجید	21:38
10 مارچ	قرآن مجید	13:32	26 مارچ	قرآن مجید	19:15	10 اپریل	قرآن مجید	18:07	27 اپریل	قرآن مجید	00:54
11 مارچ	قرآن مجید	17:05	27 مارچ	قرآن مجید	04:28	10 اپریل	قرآن مجید	17:14	27 اپریل	قرآن مجید	03:31
12 مارچ	قرآن مجید	00:47	27 مارچ	قرآن مجید	14:03	11 اپریل	قرآن مجید	00:34	27 اپریل	قرآن مجید	21:59
12 مارچ	قرآن مجید	05:40	28 مارچ	قرآن مجید	09:01	11 اپریل	قرآن مجید	03:36	28 اپریل	قرآن مجید	11:08
12 مارچ	قرآن مجید	11:57	28 مارچ	قرآن مجید	18:38	11 اپریل	قرآن مجید	12:27	28 اپریل	قرآن مجید	14:38
12 مارچ	قرآن مجید	13:11	28 مارچ	قرآن مجید	19:20	11 اپریل	قرآن مجید	15:02	29 اپریل	قرآن مجید	12:12
12 مارچ	قرآن مجید	21:13	28 مارچ	قرآن مجید	20:19	12 اپریل	قرآن مجید	10:53	29 اپریل	قرآن مجید	21:00

تاریخ	نظرات	وقت	تاریخ	نظرات	وقت	تاریخ	نظرات	وقت	تاریخ	نظرات	وقت
30 اپریل	قرتیبہ شتری	00:29	14 مئی	قرتیبہ ذہرہ	14:19	30 مئی	قرتیبہ ذہرہ	20:18	13 جون	قرتیبہ پلانو	14:56
30 اپریل	قرتیبہ ذہرہ	09:26	14 مئی	قرتیبہ شتری	19:02	31 مئی	قرتیبہ پلانو	04:13	14 جون	قرتیبہ ذہرہ	04:12
30 اپریل	قرتیبہ پلانو	15:46	15 مئی	قرتیبہ ذہرہ	09:05	31 مئی	قرتیبہ شتری	14:16	14 جون	قرتیبہ پلانو	17:24
30 اپریل	قرتیبہ شتری	18:20	15 مئی	قرتیبہ پلانو	21:57	31 مئی	قرتیبہ ذہرہ	10:46	15 جون	قرتیبہ شتری	07:06
	صفت		15 مئی	قرتیبہ پلانو	21:40	31 مئی	قرتیبہ ذہرہ	22:19	16 جون	قرتیبہ شتری	03:21
01 مئی	قرتیبہ شتری	01:38	16 مئی	قرتیبہ پلانو	23:33	01 جون	قرتیبہ ذہرہ		16 جون	قرتیبہ شتری	05:49
01 مئی	قرتیبہ ذہرہ	16:15	17 مئی	قرتیبہ پلانو	01:35	01 جون	قرتیبہ شتری	02:15	16 جون	قرتیبہ ذہرہ	05:10
01 مئی	قرتیبہ پلانو	21:04	17 مئی	قرتیبہ ذہرہ	08:14	01 جون	قرتیبہ شتری	14:27	16 جون	قرتیبہ پلانو	16:28
02 مئی	قرتیبہ شتری	22:18	17 مئی	قرتیبہ پلانو	12:12	01 جون	قرتیبہ ذہرہ	20:20	17 جون	قرتیبہ شتری	09:15
03 مئی	قرتیبہ پلانو	04:38	17 مئی	قرتیبہ ذہرہ	12:59	02 جون	قرتیبہ شتری	12:22	17 جون	قرتیبہ پلانو	20:02
03 مئی	قرتیبہ شتری	08:39	17 مئی	قرتیبہ پلانو	22:28	02 جون	قرتیبہ ذہرہ	15:39	18 جون	قرتیبہ شتری	08:18
03 مئی	قرتیبہ ذہرہ	20:21	18 مئی	قرتیبہ شتری	22:16	02 جون	قرتیبہ پلانو	23:37	18 جون	قرتیبہ ذہرہ	14:16
03 مئی	قرتیبہ پلانو	20:05	19 مئی	قرتیبہ ذہرہ	13:16	03 جون	قرتیبہ شتری	07:40	18 جون	قرتیبہ پلانو	17:02
04 مئی	قرتیبہ شتری	04:00	19 مئی	قرتیبہ پلانو	20:50	03 جون	قرتیبہ ذہرہ	11:16	18 جون	قرتیبہ شتری	15:00
04 مئی	قرتیبہ ذہرہ	07:24	20 مئی	قرتیبہ شتری	01:32	03 جون	قرتیبہ پلانو	20:44	19 جون	قرتیبہ ذہرہ	03:34
04 مئی	قرتیبہ پلانو	15:15	20 مئی	قرتیبہ ذہرہ	10:57	04 جون	قرتیبہ شتری	07:14	19 جون	قرتیبہ پلانو	13:39
05 مئی	قرتیبہ شتری	21:23	20 مئی	قرتیبہ پلانو	17:09	04 جون	قرتیبہ ذہرہ	13:26	20 جون	قرتیبہ شتری	18:06
06 مئی	قرتیبہ ذہرہ	04:12	20 مئی	قرتیبہ شتری	23:06	04 جون	قرتیبہ پلانو	16:36	21 جون	قرتیبہ ذہرہ	02:47
06 مئی	قرتیبہ پلانو	04:04	22 مئی	قرتیبہ ذہرہ	00:18	05 جون	قرتیبہ شتری	00:43	21 جون	قرتیبہ پلانو	11:41
06 مئی	قرتیبہ شتری	07:30	22 مئی	قرتیبہ پلانو	08:28	05 جون	قرتیبہ ذہرہ	18:57	22 جون	قرتیبہ شتری	04:35
06 مئی	قرتیبہ ذہرہ	15:09	22 مئی	قرتیبہ شتری	13:00	06 جون	قرتیبہ پلانو	00:12	22 جون	قرتیبہ ذہرہ	13:01
06 مئی	قرتیبہ پلانو	23:31	22 مئی	قرتیبہ ذہرہ	22:38	06 جون	قرتیبہ شتری	00:44	23 جون	قرتیبہ پلانو	01:21
07 مئی	قرتیبہ شتری	15:45	22 مئی	قرتیبہ پلانو	22:11	06 جون	قرتیبہ ذہرہ	09:10	23 جون	قرتیبہ شتری	08:28
07 مئی	قرتیبہ ذہرہ	21:30	23 مئی	قرتیبہ شتری	07:43	07 جون	قرتیبہ پلانو	19:05	23 جون	قرتیبہ ذہرہ	07:18
07 مئی	قرتیبہ پلانو	20:39	24 مئی	قرتیبہ ذہرہ	08:14	07 جون	قرتیبہ شتری	16:08	23 جون	قرتیبہ پلانو	12:20
08 مئی	قرتیبہ شتری	04:02	24 مئی	قرتیبہ پلانو	10:33	08 جون	قرتیبہ ذہرہ	07:06	23 جون	قرتیبہ شتری	18:30
08 مئی	قرتیبہ ذہرہ	06:32	24 مئی	قرتیبہ شتری	16:09	08 جون	قرتیبہ پلانو	13:25	24 جون	قرتیبہ ذہرہ	03:05
08 مئی	قرتیبہ پلانو	07:38	25 مئی	قرتیبہ ذہرہ	19:57	08 جون	قرتیبہ شتری	23:05	24 جون	قرتیبہ پلانو	10:34
08 مئی	قرتیبہ شتری	15:26	25 مئی	قرتیبہ پلانو	19:33	08 جون	قرتیبہ ذہرہ	20:00	26 جون	قرتیبہ شتری	07:17
09 مئی	قرتیبہ ذہرہ	22:13	26 مئی	قرتیبہ شتری	18:42	09 جون	قرتیبہ پلانو	08:16	26 جون	قرتیبہ ذہرہ	06:33
10 مئی	قرتیبہ پلانو	00:13	27 مئی	قرتیبہ ذہرہ	02:03	09 جون	قرتیبہ شتری	22:29	26 جون	قرتیبہ پلانو	14:44
10 مئی	قرتیبہ شتری	11:10	27 مئی	قرتیبہ پلانو	06:06	10 جون	قرتیبہ ذہرہ	00:14	26 جون	قرتیبہ شتری	19:17
11 مئی	قرتیبہ ذہرہ	03:38	27 مئی	قرتیبہ شتری	14:42	10 جون	قرتیبہ پلانو	19:34	27 جون	قرتیبہ ذہرہ	09:56
12 مئی	قرتیبہ پلانو	03:04	28 مئی	قرتیبہ ذہرہ	02:33	12 جون	قرتیبہ شتری	07:34	27 جون	قرتیبہ پلانو	15:50
12 مئی	قرتیبہ شتری	05:23	28 مئی	قرتیبہ پلانو	00:02	12 جون	قرتیبہ ذہرہ	08:20	27 جون	قرتیبہ شتری	15:24
12 مئی	قرتیبہ ذہرہ	11:13	28 مئی	قرتیبہ شتری	18:30	12 جون	قرتیبہ پلانو	17:06	28 جون	قرتیبہ ذہرہ	01:01
12 مئی	قرتیبہ پلانو	15:29	29 مئی	قرتیبہ ذہرہ	18:32	13 جون	قرتیبہ شتری	07:12	28 جون	قرتیبہ پلانو	01:43
13 مئی	قرتیبہ شتری	00:17	30 مئی	قرتیبہ پلانو	07:14	13 جون	قرتیبہ ذہرہ	07:50	28 جون	قرتیبہ شتری	10:33
13 مئی	قرتیبہ ذہرہ	00:06	30 مئی	قرتیبہ شتری	08:29	13 جون	قرتیبہ پلانو	11:23	28 جون	قرتیبہ ذہرہ	13:15
13 مئی	قرتیبہ پلانو	10:51	30 مئی	قرتیبہ ذہرہ	12:34	13 جون	قرتیبہ شتری	17:44	28 جون	قرتیبہ پلانو	20:13

تاریخ	نظرات	وقت	تاریخ	نظرات	وقت	تاریخ	نظرات	وقت	تاریخ	نظرات	وقت
29 جون	قرآن مشغول	18:01	14 جولائی	قرآن میں عطار	09:55	29 جولائی	قرآن میں پلاٹو	01:05	14 اگست	قرآن میں غم	13:32
29 جون	قرآن میں پلاٹو	17:55	14 جولائی	قرآن پر اس	19:13	29 جولائی	قرآن میں ذم	09:01	14 اگست	قرآن میں مرغ	16:19
30 جون	قرآن میں ذم	04:01	15 جولائی	قرآن میں مشغول	18:56	30 جولائی	قرآن میں غم	00:46	15 اگست	قرآن زہرہ	18:26
30 جون	قرآن میں پر اس	20:20	15 جولائی	قرآن میں بھون	16:15	30 جولائی	قرآن میں مرغ	19:01	16 اگست	قرآن میں پر اس	00:17
30 جون	قرآن میں غم	19:19	15 جولائی	قرآن میں پلاٹو	22:01	31 جولائی	قرآن میں بھون	00:19	16 اگست	قرآن میں مشغول	14:32
30 جون	قرآن میں عطار	20:38	15 جولائی	قرآن میں غم	21:49	31 جولائی	قرآن میں زہرہ	05:07	16 اگست	قرآن میں بھون	17:28
			16 جولائی	قرآن میں ذم	08:21	ہجرت			16 اگست	قرآن میں پلاٹو	22:23
01 جولائی	قرآن میں بھون	15:01	17 جولائی	قرآن میں مرغ	07:26	01 اگست	قرآن میں پر اس	11:55	17 اگست	قرآن میں مرغ	00:31
01 جولائی	قرآن میں مشغول	20:05	17 جولائی	قرآن زہرہ	11:40	02 اگست	قرآن میں مرغ	02:22	17 اگست	قرآن میں ذم	04:58
01 جولائی	قرآن میں پلاٹو	20:19	18 جولائی	قرآن میں بھون	02:14	02 اگست	قرآن میں مشغول	04:57	18 اگست	قرآن میں پر اس	05:01
02 جولائی	قرآن میں ذم	06:20	19 جولائی	قرآن میں عطار	09:18	02 اگست	قرآن میں بھون	05:54	19 اگست	قرآن میں غم	07:41
02 جولائی	قرآن میں مرغ	10:34	19 جولائی	قرآن میں مرغ	17:38	02 اگست	قرآن میں پلاٹو	10:57	19 اگست	قرآن میں مرغ	04:50
02 جولائی	قرآن میں زہرہ	17:01	19 جولائی	قرآن میں پر اس	14:24	02 اگست	قرآن میں عطار	13:52	19 اگست	قرآن میں عطار	10:38
03 جولائی	قرآن میں بھون	18:05	20 جولائی	قرآن میں بھون	09:00	02 اگست	قرآن میں ذم	18:59	20 اگست	قرآن میں پر اس	06:51
04 جولائی	قرآن میں مرغ	16:27	20 جولائی	قرآن میں مشغول	10:26	03 اگست	قرآن میں پر اس	18:52	20 اگست	قرآن میں زہرہ	09:05
04 جولائی	قرآن میں عطار	23:12	20 جولائی	قرآن میں پلاٹو	14:04	03 اگست	قرآن میں غم	20:58	20 اگست	قرآن میں بھون	22:15
05 جولائی	قرآن میں پر اس	03:18	20 جولائی	قرآن میں غم	22:32	04 اگست	قرآن میں مرغ	11:44	20 اگست	قرآن میں مشغول	19:13
05 جولائی	قرآن میں غم	09:44	20 جولائی	قرآن میں ذم	22:54	05 اگست	قرآن میں زہرہ	02:45	21 اگست	قرآن میں پلاٹو	02:47
05 جولائی	قرآن میں بھون	22:43	21 جولائی	قرآن میں پر اس	19:21	06 اگست	قرآن میں پر اس	04:00	21 اگست	قرآن میں ذم	08:36
06 جولائی	قرآن میں مشغول	03:12	22 جولائی	قرآن میں مرغ	00:22	06 اگست	قرآن میں بھون	23:11	22 اگست	قرآن میں زہرہ	13:25
06 جولائی	قرآن میں پلاٹو	04:13	22 جولائی	قرآن میں زہرہ	05:27	06 اگست	قرآن میں مشغول	21:19	22 اگست	قرآن میں مشغول	19:45
06 جولائی	قرآن میں ذم	14:35	23 جولائی	قرآن میں پر اس	22:16	07 اگست	قرآن میں پلاٹو	04:37	23 اگست	قرآن میں پلاٹو	03:33
07 جولائی	قرآن میں مرغ	00:36	23 جولائی	قرآن میں عطار	23:47	07 اگست	قرآن میں ذم	12:52	23 اگست	قرآن میں مرغ	08:35
07 جولائی	قرآن میں زہرہ	05:22	24 جولائی	قرآن میں زہرہ	10:45	07 اگست	قرآن میں زہرہ	17:53	23 اگست	قرآن میں ذم	09:19
07 جولائی	قرآن میں پر اس	09:37	24 جولائی	قرآن میں بھون	15:22	08 اگست	قرآن میں عطار	05:12	23 اگست	قرآن میں غم	16:34
09 جولائی	قرآن میں عطار	10:34	24 جولائی	قرآن میں مشغول	15:56	09 اگست	قرآن میں غم	03:48	24 اگست	قرآن میں عطار	03:41
09 جولائی	قرآن میں زہرہ	16:14	24 جولائی	قرآن میں پلاٹو	20:05	09 اگست	قرآن میں مشغول	08:43	24 اگست	قرآن میں پر اس	08:59
09 جولائی	قرآن میں پر اس	18:49	25 جولائی	قرآن میں ذم	04:07	09 اگست	قرآن میں مرغ	13:35	24 اگست	قرآن میں زہرہ	18:51
10 جولائی	قرآن میں غم	11:08	25 جولائی	قرآن میں غم	11:32	09 اگست	قرآن میں پلاٹو	16:37	24 اگست	قرآن میں مشغول	21:20
10 جولائی	قرآن میں بھون	15:56	26 جولائی	قرآن میں مرغ	08:49	10 اگست	قرآن میں ذم	00:49	25 اگست	قرآن میں بھون	00:47
10 جولائی	قرآن میں مشغول	19:46	26 جولائی	قرآن میں عطار	06:11	10 اگست	قرآن میں زہرہ	11:22	25 اگست	قرآن میں پلاٹو	05:35
10 جولائی	قرآن میں پلاٹو	21:51	26 جولائی	قرآن میں زہرہ	15:44	11 اگست	قرآن میں پر اس	04:04	25 اگست	قرآن میں ذم	11:27
11 جولائی	قرآن میں ذم	08:48	26 جولائی	قرآن میں مشغول	17:41	11 اگست	قرآن میں عطار	06:11	25 اگست	قرآن میں غم	22:57
11 جولائی	قرآن میں عطار	21:08	26 جولائی	قرآن میں پلاٹو	22:12	11 اگست	قرآن میں مشغول	20:51	26 اگست	قرآن میں عطار	14:46
12 جولائی	قرآن میں مرغ	02:16	27 جولائی	قرآن میں ذم	06:08	11 اگست	قرآن میں غم	21:44	27 اگست	قرآن میں بھون	04:42
12 جولائی	قرآن میں زہرہ	06:21	27 جولائی	قرآن میں غم	17:32	11 اگست	قرآن میں بھون	23:31	27 اگست	قرآن میں مرغ	16:59
13 جولائی	قرآن میں غم	04:28	28 جولائی	قرآن میں پر اس	03:04	12 اگست	قرآن میں پلاٹو	05:03	28 اگست	قرآن میں غم	08:08
13 جولائی	قرآن میں مشغول	07:24	28 جولائی	قرآن میں عطار	14:03	12 اگست	قرآن میں ذم	12:54	28 اگست	قرآن میں پر اس	17:50
13 جولائی	قرآن میں پلاٹو	10:02	28 جولائی	قرآن میں بھون	20:17	14 اگست	قرآن میں عطار	05:32	29 اگست	قرآن میں مشغول	06:55
13 جولائی	قرآن میں ذم	20:54	28 جولائی	قرآن میں مشغول	20:07	14 اگست	قرآن میں بھون	10:15	29 اگست	قرآن میں عطار	05:04





تاریخ	نظرات	وقت	تاریخ	نظرات	وقت	تاریخ	نظرات	وقت	تاریخ	نظرات	وقت
30 اکتوبر	قرآن مجید	11:25	14 نومبر	قرآن مجید	10:09	29 نومبر	قرآن مجید	17:48	14 دسمبر	قرآن مجید	21:16
30 اکتوبر	قرآن مجید	18:30	15 نومبر	قرآن مجید	02:05	30 نومبر	قرآن مجید	14:29	15 دسمبر	قرآن مجید	20:22
30 اکتوبر	قرآن مجید	21:12	15 نومبر	قرآن مجید	09:30	ہفت روزہ		16 دسمبر	قرآن مجید	15:11	
31 اکتوبر	قرآن مجید	19:54	15 نومبر	قرآن مجید	10:07	01 دسمبر	قرآن مجید	09:21	16 دسمبر	قرآن مجید	20:32
31 اکتوبر	قرآن مجید	19:49	15 نومبر	قرآن مجید	10:03	01 دسمبر	قرآن مجید	07:12	17 دسمبر	قرآن مجید	00:32
نومبر											
01 نومبر	قرآن مجید	15:31	16 نومبر	قرآن مجید	16:12	02 دسمبر	قرآن مجید	23:00	17 دسمبر	قرآن مجید	10:34
01 نومبر	قرآن مجید	21:06	17 نومبر	قرآن مجید	02:06	03 دسمبر	قرآن مجید	18:28	17 دسمبر	قرآن مجید	15:15
02 نومبر	قرآن مجید	00:13	17 نومبر	قرآن مجید	12:54	03 دسمبر	قرآن مجید	19:32	17 دسمبر	قرآن مجید	23:50
02 نومبر	قرآن مجید	07:29	18 نومبر	قرآن مجید	11:00	04 دسمبر	قرآن مجید	05:21	19 دسمبر	قرآن مجید	03:08
03 نومبر	قرآن مجید	05:31	18 نومبر	قرآن مجید	13:31	04 دسمبر	قرآن مجید	11:51	19 دسمبر	قرآن مجید	13:44
03 نومبر	قرآن مجید	22:56	18 نومبر	قرآن مجید	23:41	04 دسمبر	قرآن مجید	15:28	19 دسمبر	قرآن مجید	12:48
04 نومبر	قرآن مجید	03:42	19 نومبر	قرآن مجید	04:33	05 دسمبر	قرآن مجید	02:51	20 دسمبر	قرآن مجید	03:40
04 نومبر	قرآن مجید	18:48	19 نومبر	قرآن مجید	12:58	05 دسمبر	قرآن مجید	07:37	20 دسمبر	قرآن مجید	06:49
05 نومبر	قرآن مجید	23:22	19 نومبر	قرآن مجید	14:42	05 دسمبر	قرآن مجید	19:40	21 دسمبر	قرآن مجید	04:33
05 نومبر	قرآن مجید	19:18	19 نومبر	قرآن مجید	20:51	06 دسمبر	قرآن مجید	03:27	21 دسمبر	قرآن مجید	15:24
06 نومبر	قرآن مجید	06:06	19 نومبر	قرآن مجید	21:15	06 دسمبر	قرآن مجید	02:46	22 دسمبر	قرآن مجید	04:41
06 نومبر	قرآن مجید	09:08	19 نومبر	قرآن مجید	21:29	07 دسمبر	قرآن مجید	13:45	22 دسمبر	قرآن مجید	04:35
06 نومبر	قرآن مجید	14:13	20 نومبر	قرآن مجید	15:41	07 دسمبر	قرآن مجید	16:24	22 دسمبر	قرآن مجید	04:32
06 نومبر	قرآن مجید	21:00	21 نومبر	قرآن مجید	01:15	08 دسمبر	قرآن مجید	08:45	22 دسمبر	قرآن مجید	07:04
06 نومبر	قرآن مجید	22:40	21 نومبر	قرآن مجید	05:48	08 دسمبر	قرآن مجید	05:36	22 دسمبر	قرآن مجید	20:56
07 نومبر	قرآن مجید	05:51	22 نومبر	قرآن مجید	10:42	08 دسمبر	قرآن مجید	13:21	24 دسمبر	قرآن مجید	03:50
07 نومبر	قرآن مجید	06:26	22 نومبر	قرآن مجید	09:44	08 دسمبر	قرآن مجید	17:51	24 دسمبر	قرآن مجید	03:36
08 نومبر	قرآن مجید	03:49	23 نومبر	قرآن مجید	00:10	09 دسمبر	قرآن مجید	01:08	24 دسمبر	قرآن مجید	18:09
08 نومبر	قرآن مجید	13:35	23 نومبر	قرآن مجید	18:37	09 دسمبر	قرآن مجید	03:35	24 دسمبر	قرآن مجید	17:31
08 نومبر	قرآن مجید	16:39	23 نومبر	قرآن مجید	20:30	10 دسمبر	قرآن مجید	02:12	24 دسمبر	قرآن مجید	22:47
08 نومبر	قرآن مجید	18:45	24 نومبر	قرآن مجید	06:17	10 دسمبر	قرآن مجید	13:30	25 دسمبر	قرآن مجید	05:55
09 نومبر	قرآن مجید	16:04	24 نومبر	قرآن مجید	09:46	10 دسمبر	قرآن مجید	12:21	25 دسمبر	قرآن مجید	04:57
10 نومبر	قرآن مجید	08:49	24 نومبر	قرآن مجید	15:44	10 دسمبر	قرآن مجید	20:21	26 دسمبر	قرآن مجید	05:09
11 نومبر	قرآن مجید	01:42	25 نومبر	قرآن مجید	02:12	11 دسمبر	قرآن مجید	03:57	26 دسمبر	قرآن مجید	16:31
11 نومبر	قرآن مجید	02:52	26 نومبر	قرآن مجید	04:39	11 دسمبر	قرآن مجید	05:56	27 دسمبر	قرآن مجید	07:53
11 نومبر	قرآن مجید	08:54	26 نومبر	قرآن مجید	18:50	11 دسمبر	قرآن مجید	18:43	27 دسمبر	قرآن مجید	06:40
11 نومبر	قرآن مجید	09:20	26 نومبر	قرآن مجید	23:14	12 دسمبر	قرآن مجید	12:35	28 دسمبر	قرآن مجید	11:46
11 نومبر	قرآن مجید	15:58	27 نومبر	قرآن مجید	04:45	12 دسمبر	قرآن مجید	21:17	28 دسمبر	قرآن مجید	16:58
12 نومبر	قرآن مجید	21:50	28 نومبر	قرآن مجید	00:10	13 دسمبر	قرآن مجید	01:59	29 دسمبر	قرآن مجید	08:00
13 نومبر	قرآن مجید	04:30	28 نومبر	قرآن مجید	04:30	13 دسمبر	قرآن مجید	05:22	30 دسمبر	قرآن مجید	04:32
13 نومبر	قرآن مجید	10:04	28 نومبر	قرآن مجید	21:28	13 دسمبر	قرآن مجید	06:57	30 دسمبر	قرآن مجید	08:28
13 نومبر	قرآن مجید	10:00	29 نومبر	قرآن مجید	07:39	14 دسمبر	قرآن مجید	13:14	30 دسمبر	قرآن مجید	21:03
13 نومبر	قرآن مجید	16:32	29 نومبر	قرآن مجید	13:32	14 دسمبر	قرآن مجید	15:41	31 دسمبر	قرآن مجید	02:30
14 نومبر	قرآن مجید	02:43	29 نومبر	قرآن مجید	12:53	14 دسمبر	قرآن مجید	17:13			

تاریخ	نظرات	وقت	تاریخ	نظرات	وقت	تاریخ	نظرات	وقت	تاریخ	نظرات	وقت
30 اکتوبر	قرآن مجید	11:25	14 نومبر	قرآن مجید	10:09	29 نومبر	قرآن مجید	17:48	14 دسمبر	قرآن مجید	21:16
30 اکتوبر	قرآن مجید	18:30	15 نومبر	قرآن مجید	02:05	30 نومبر	قرآن مجید	14:29	15 دسمبر	قرآن مجید	20:22
30 اکتوبر	قرآن مجید	21:12	15 نومبر	قرآن مجید	09:30	ہجرت			16 دسمبر	قرآن مجید	15:11
31 اکتوبر	قرآن مجید	19:54	15 نومبر	قرآن مجید	10:07	01 دسمبر	قرآن مجید	09:21	16 دسمبر	قرآن مجید	20:32
31 اکتوبر	قرآن مجید	19:49	15 نومبر	قرآن مجید	10:03	01 دسمبر	قرآن مجید	07:12	17 دسمبر	قرآن مجید	00:32
نومبر											
01 نومبر	قرآن مجید	15:31	16 نومبر	قرآن مجید	16:12	02 دسمبر	قرآن مجید	23:00	17 دسمبر	قرآن مجید	10:34
01 نومبر	قرآن مجید	21:06	17 نومبر	قرآن مجید	21:20	03 دسمبر	قرآن مجید	12:42	17 دسمبر	قرآن مجید	11:27
02 نومبر	قرآن مجید	00:13	17 نومبر	قرآن مجید	02:06	03 دسمبر	قرآن مجید	18:28	17 دسمبر	قرآن مجید	15:15
02 نومبر	قرآن مجید	07:29	18 نومبر	قرآن مجید	12:54	03 دسمبر	قرآن مجید	19:32	17 دسمبر	قرآن مجید	23:50
03 نومبر	قرآن مجید	05:31	18 نومبر	قرآن مجید	11:00	04 دسمبر	قرآن مجید	05:21	19 دسمبر	قرآن مجید	03:08
03 نومبر	قرآن مجید	22:56	18 نومبر	قرآن مجید	13:31	04 دسمبر	قرآن مجید	11:51	19 دسمبر	قرآن مجید	13:44
04 نومبر	قرآن مجید	03:42	18 نومبر	قرآن مجید	23:41	04 دسمبر	قرآن مجید	15:28	19 دسمبر	قرآن مجید	12:48
04 نومبر	قرآن مجید	18:48	19 نومبر	قرآن مجید	04:33	05 دسمبر	قرآن مجید	02:51	20 دسمبر	قرآن مجید	03:40
05 نومبر	قرآن مجید	23:22	19 نومبر	قرآن مجید	12:58	05 دسمبر	قرآن مجید	07:37	20 دسمبر	قرآن مجید	06:49
05 نومبر	قرآن مجید	19:18	19 نومبر	قرآن مجید	14:42	05 دسمبر	قرآن مجید	19:40	21 دسمبر	قرآن مجید	04:33
06 نومبر	قرآن مجید	06:06	19 نومبر	قرآن مجید	20:51	06 دسمبر	قرآن مجید	03:27	21 دسمبر	قرآن مجید	15:24
06 نومبر	قرآن مجید	09:08	19 نومبر	قرآن مجید	21:15	06 دسمبر	قرآن مجید	02:46	22 دسمبر	قرآن مجید	04:41
06 نومبر	قرآن مجید	14:13	20 نومبر	قرآن مجید	21:29	07 دسمبر	قرآن مجید	13:45	22 دسمبر	قرآن مجید	04:35
06 نومبر	قرآن مجید	21:00	20 نومبر	قرآن مجید	15:41	07 دسمبر	قرآن مجید	16:24	22 دسمبر	قرآن مجید	04:32
06 نومبر	قرآن مجید	22:40	21 نومبر	قرآن مجید	01:15	08 دسمبر	قرآن مجید	08:45	22 دسمبر	قرآن مجید	07:04
07 نومبر	قرآن مجید	05:51	21 نومبر	قرآن مجید	05:48	08 دسمبر	قرآن مجید	05:36	22 دسمبر	قرآن مجید	20:56
07 نومبر	قرآن مجید	06:26	22 نومبر	قرآن مجید	10:42	08 دسمبر	قرآن مجید	13:21	24 دسمبر	قرآن مجید	03:50
08 نومبر	قرآن مجید	03:49	22 نومبر	قرآن مجید	09:44	08 دسمبر	قرآن مجید	17:51	24 دسمبر	قرآن مجید	03:36
08 نومبر	قرآن مجید	13:35	23 نومبر	قرآن مجید	00:10	09 دسمبر	قرآن مجید	01:08	24 دسمبر	قرآن مجید	18:09
08 نومبر	قرآن مجید	16:39	23 نومبر	قرآن مجید	18:37	09 دسمبر	قرآن مجید	03:35	24 دسمبر	قرآن مجید	17:31
08 نومبر	قرآن مجید	18:45	23 نومبر	قرآن مجید	20:30	10 دسمبر	قرآن مجید	02:12	24 دسمبر	قرآن مجید	22:47
09 نومبر	قرآن مجید	16:04	24 نومبر	قرآن مجید	06:17	10 دسمبر	قرآن مجید	13:30	25 دسمبر	قرآن مجید	05:55
10 نومبر	قرآن مجید	08:49	24 نومبر	قرآن مجید	09:46	10 دسمبر	قرآن مجید	12:21	25 دسمبر	قرآن مجید	04:57
11 نومبر	قرآن مجید	01:42	24 نومبر	قرآن مجید	15:44	10 دسمبر	قرآن مجید	20:21	26 دسمبر	قرآن مجید	05:09
11 نومبر	قرآن مجید	02:52	25 نومبر	قرآن مجید	02:12	11 دسمبر	قرآن مجید	03:57	26 دسمبر	قرآن مجید	16:31
11 نومبر	قرآن مجید	08:54	26 نومبر	قرآن مجید	04:39	11 دسمبر	قرآن مجید	05:56	27 دسمبر	قرآن مجید	07:53
11 نومبر	قرآن مجید	09:20	26 نومبر	قرآن مجید	18:50	11 دسمبر	قرآن مجید	18:43	27 دسمبر	قرآن مجید	06:40
11 نومبر	قرآن مجید	15:58	26 نومبر	قرآن مجید	23:14	12 دسمبر	قرآن مجید	12:35	28 دسمبر	قرآن مجید	11:46
12 نومبر	قرآن مجید	21:50	27 نومبر	قرآن مجید	04:45	12 دسمبر	قرآن مجید	21:17	28 دسمبر	قرآن مجید	16:58
13 نومبر	قرآن مجید	04:30	28 نومبر	قرآن مجید	00:10	13 دسمبر	قرآن مجید	01:59	29 دسمبر	قرآن مجید	08:00
13 نومبر	قرآن مجید	10:04	28 نومبر	قرآن مجید	04:30	13 دسمبر	قرآن مجید	05:22	30 دسمبر	قرآن مجید	04:32
13 نومبر	قرآن مجید	10:00	28 نومبر	قرآن مجید	21:28	13 دسمبر	قرآن مجید	06:57	30 دسمبر	قرآن مجید	08:28
13 نومبر	قرآن مجید	16:32	29 نومبر	قرآن مجید	07:39	14 دسمبر	قرآن مجید	13:14	30 دسمبر	قرآن مجید	21:03
14 نومبر	قرآن مجید	02:43	29 نومبر	قرآن مجید	13:32	14 دسمبر	قرآن مجید	15:41	31 دسمبر	قرآن مجید	02:30
			29 نومبر	قرآن مجید	12:53	14 دسمبر	قرآن مجید	17:13			





سائیں عبدالمطیف دامانی

نور دھارنے المرتضیٰ سٹریٹ چھنگلی سیدان اسلام آباد

0333-5638457

# بحر بات دامانی زائچہ قسمت

محترم قارئین کرام: دعا ہے کہ خداوند بکریم بصدقہ پنجتن پاک آغا حسین صاحب کو صحت و سلامتی میں رکھے اور بانی امامیہ جنتری آغا شارا احمد صاحب (مرحوم) کی مغفرت فرمائے جن کی کاوشوں کی بدولت لاکھوں مومنین روحانی فیض حاصل کر رہے ہیں۔

علم الاعداد کے ذریعہ زائچہ بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ پندرہ کا نقش اس کا بنیادی پہلو ہے۔ یہ نقش ایک سے لے کر ۹ ہندسوں تک ہوتا ہے اور ہر طرف سے اس کی تعداد پندرہ ہوتی ہے۔ ماہرین نے ۹ کے ہندسوں کو تین حصوں پر تقسیم کر دیا ہے ہر طرف سے اس کی تعداد ۱۵ ہوتی ہے۔

بچے دو پہر پیدا ہوا ہو تو ۱۲ تاریخ شمار ہوگی۔ تاریخ دن پیدائش کے اعداد کو نقشہ نمبر ۲ کے مطابق درج کر لیا جائے اگر کوئی عدد دو مرتبہ آئے تو اس عدد کو درج کر کے اس پر خاص نشان لگا دیا جائے اگر وہ عدد تین مرتبہ آئے تو دو مخصوص نشان لگا دیں۔ مثلاً ایک شخص ۱۱ اکتوبر ۱۹۴۴ دن کے ۱۴ بجے پیدا ہوا تو عدد تاریخ ماہ سن کے اس طرح حاصل کریں  $11 + 10 + 44 = 44$  (صدی کے اعداد نہ لیں)۔ اب ان اعداد کو نقش میں جہاں جہاں یہ ہندسے ہیں وہاں لکھ لیں۔ ان اعداد میں جو ہندسے نہیں ہیں ان کے خانے خالی رہنے دیں۔ مثلاً اس کا زائچہ یہ ہوا صرف دو خانے پر ہیں۔ نمبر ایک پر دو نشان یہ ظاہر کرتے ہیں کہ نمبر ۲ تین مرتبہ آیا ہے اور نمبر ۱ پر ایک نشان ظاہر کرتا ہے کہ نمبر ۱ دو دفعہ آیا ہے۔ اب اس شخص کے زائچہ میں روحانی درجات پر نمبر ۲ ہے جو شمس کا نشان ظاہر کرتا ہے۔ ذہین درجات خالی ہے مادی درجات میں نمبر ۱ ہے۔ جو دو دفعہ آیا ہے۔ یہ بھی شمس کا نشان ہے۔ ان درجوں کے نمبروں کی تفصیل یہ ہے۔

	۳	
		۱

(۱) شخصیت۔ اتانیت۔ حکومت و تسلط۔ اقتدار پسندی۔

(۲) انقلابات۔ عدم استقلال۔ سیاست۔ قسمت میں مدوجزر۔

(۳) ترقی و وسعت۔ افزائش ثروت و امارت

(۴) تکمیل خواہشات، عملی نتائج۔ غرور۔ خودداری

(۵) ذہانت۔ علمیت۔ مستعدی۔ تجارت۔ زبان بندی۔ سائنس

(۶) فنون لطیفہ۔ شعرو سخن حسن معاشرت۔ محبت۔ ہمدردی۔ غلق و مروت۔

(۷) روحانی صفت۔ ذاتی امر۔ ہر و معریزی بحری سیاحت رفتار زمانہ کا

ساتھ دینا۔ ترقی عروج۔

یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نمبر ۱ شمس کا نمبر ۲ قمر کا نمبر ۳ مشتری کا نمبر ۴ شمس کا نمبر ۵ عطارد کا نمبر ۶ زہرہ کا نمبر ۷ قمر کا نمبر ۸ زحل کا نمبر ۹ مریخ کا عدد ہے۔ اس نظریہ کے مطابق تین حصوں کے ذریعہ نقش کی ترتیب حسب ذیل ہوگی۔

روحانی اعداد	۹	۴	۲
ذہنی اعداد	۵	۳	۷
مادی اعداد	۱	۸	۶

یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نمبر ۱ شمس کا نمبر ۲ قمر کا نمبر ۳ مشتری کا نمبر ۴ شمس کا نمبر ۵ عطارد کا نمبر ۶ زہرہ کا نمبر ۷ قمر کا نمبر ۸ زحل کا نمبر ۹ مریخ کا عدد ہے۔ اس نظریہ کے مطابق تین حصوں کے ذریعہ نقش کی ترتیب حسب ذیل ہوگی۔

۲	۴	۹
۷	۳	۵
۶	۸	۱

نقش بلحاظ اعداد

قمر	شمس	مریخ
قمر	مشتری	عطارد
زہرہ	زحل	شمس

نقش بلحاظ سیارگان

اس روشنی میں زائچہ اس طرح تیار کیا جاتا ہے کہ اس شخص کا زائچہ بنانا مقصود ہو اور اس کی تاریخ پیدائش معلوم کریں اگر وہ ۱۲ بجے دن سے پہلے ہے تو ایک دن پہلے کی تاریخ شمار کریں۔ مثلاً ایک شخص ۱۲ اکتوبر کو ۱۰ بجے قبل از دو پہر پیدا ہوا ہے تو ۱۱ تاریخ زائچہ علم الاعداد میں شمار ہوگی اور اگر ۲

کرے گا۔ ذہنی اعتبار سے اس کے ۷ نمبر ہیں یہ روحانی صفات کا ہو گا۔ اور ہر ذہنی اور تفریح کا شائق ہوگا۔ اس شخص کا روحانی ستارہ مشتری ہوگا ذہنی قہر اور مادی شمس و زحل ہیں مادی زندگی میں ۱۳ گنا اور زحل ۸ گنا مدد دے گا شمس کامیابی اور زحل ناکامی کا ستارہ جیسا کہ دونوں مادی عناصر کے متعلق بتایا گیا ہے شمس سب سے باقوت ہے اس لئے محمد علی کا ستارہ شمس ہے اور شمسی قوتوں کے ذریعے مادی امور میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے شمسی قوتوں کا مطلب نمبر ایک کی قوت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر زندگی میں اسے افسرانہ پوسٹ پر کام کرے یا کسی ذمہ دارانہ یا خود مختار عہدہ کا حامل ہونا چاہیے۔ پھر وہ کامیابی حاصل کرے گا۔ ہم نے اس مضمون میں مقدور بھران حروف اور اس سے تیار کردہ عمل کو سمجھانے کی کوشش کی ہے پھر بھی اگر کوئی الجھن ہو تو مدد لے سکتے ہیں۔ آخر میں ادارہ کی پوری ٹیم کی صحت و سلامتی اور روحانی ترقی کیلئے دعا کریں اور مجھے گنہگار کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام دعا گو۔ سائیں عبداللطیف دامانی

(۸) بربادی۔ امراض۔ موت۔ دیوانگی۔ نقصانات۔ اخلاقی زوال اور ناکامی۔

(۹) آزادی قوت ارادی۔ سرگرمی عمل۔ مستعدی انہماک۔ جوش، آگے بڑھنے کا جذبہ۔ آتش مزاجی۔

اب مندرجہ بالا زائچہ میں مادی طور پر یہ نمبر ۴ کی تکمیل خواہشات اس کی قسمت کا لازمہ ہوگا۔ غرور خودداری کا پتلا ہوگا اور نمبر ایک شخصیت اقتدار پسندی کی ہوگی۔ نمبر ایک شمس کا ہے اور نمبر ۴ بھی شمس کا ہے۔ گویا اس شخص کا ستارہ شمس ہے اگر اس کی تاریخ پیدائش کے نمبروں کو جمع کر دیں تو  $2 = 11 + 10 + 44 = 11$  ہوگا۔ اس کیلئے ۲ تاریخ ہمیشہ سعد ہوگی اور جن تاریخوں کا مجموعہ ۲ ہو وہ بھی سعد ہی رہیں گی یہ یاد رہے کہ مکرر ہندسوں کا مطلب یہ ہے کہ شمس روحانی زندگی میں تلخی اور مادی ترقی میں دوگنی مدد کرے گا۔ ایسا شخص دنیوی مال و دولت سے مالا مال ہوگا۔ اور اگر روحانی طور پر شہرت حاصل کرنا چاہے پھر ایسے کام اختیار کرے تو بہت جلد مشہور ہو جائے گا جو شمس کے ماتحت ہیں۔ اگر کسی شخص کو اپنی تاریخ پیدائش کا علم نہیں صرف نام معلوم ہے اس کا پیدائشی نام لیں اس کو علیحدہ علیحدہ حروفوں میں لکھیں ان کے نیچے اس کی مادی قوتیں لکھ دیں اب اس حرف کو زائچہ میں لکھ دیں اگر مکرر یا سہ مکرر آیا ہے تو اسکی تعداد اور ہندسوں میں لکھ دیں مثلاً محمد علی کا زائچہ اعداد یہ ہوگا۔

## حرف ممالک وسعت رزق مالگاری

ریاض حسین شاہ نیچر (ر) 0303-9215921  
مکان نمبر 315-3 فیش امام جعفریہ مسجد اسکندریہ باد میا نوالی

دعا برائے وسعت رزق و ادائیگی قرض کم از کم 40 دن مسلسل صبح کی نماز کے بعد اسے 10 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے۔ اگر نافرمان ہو جائیں تو 2 تین ماہ تک جاری رکھیں۔ ایک مومنہ خاتون کو کسی عالم دین نے اس دعا کا ایک لاکھ کی تعداد میں پڑھنے کو کہا تھا۔ وہ مرحومہ (آج سے 20-30 سال قبل زندہ تھیں) فرماتی تھی کہ مجھے اس دعا سے بہت زیادہ فائدہ ملا ہے۔ صبح کی نماز کے بعد 10 مرتبہ اور باقی اوقات میں جتنی تعداد میں پڑھ سکیں عرصہ کی کوئی پابندی نہیں کہ کتنے ماہ میں ایک لاکھ کی تعداد پوری کریں۔ دعا یہ ہے

اللَّهُمَّ اغْنِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَوَامِكْ وَ بِفَضْلِكَ عَنْ سِوَاكَ

بہتر ہے کہ اول و آخر 5-5 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں۔ حفاظت جان کے لیے فرمان معصوم ہے کہ جب گھر سے باہر جانے لگیں تو ایک مرتبہ سورۃ القدر مبارکہ پڑھ کر 7 مرتبہ یا اللہ پڑھ لیا کریں تو گھر واپس آنے تک آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہونگے۔ ان شاء اللہ۔

رشتوں میں رکاوٹ اور اولاد خیریت کے مسز نقوی  
0332 4662358  
0322 4179311  
لیے صرف خواتین رابطہ کریں۔

م	ح	م	د	ع	ل	ی
۴	۸	۴	۴	۷	۳	۱
د	ح	د	د	ز	ج	ا

اس کا مطلب یہ ہے کہ روحانی اعداد میں نمبر ۴ تین دفعہ اور نمبر ۸ ایک دفعہ آیا ہے۔ ذہنی اعداد میں نمبر ۷ اور نمبر ۳ ایک ایک دفعہ آیا ہے۔ جبکہ مادی اعداد میں نمبر ایک مرتبہ آیا ہے۔ اس شخص کی شخصیت کا تجربہ یوں کریں گے کہ مادی ذہنی اور روحانی طور پر اس کی قوتوں کا توازن کیا ہے۔ مثلاً دکی قوت ۳ ہے تو کل قوت ۱۲ ہوگی ح کی قوت ۸ ہے چونکہ نمبر ۴ کی تشریح تکمیل خواہشات پر مبنی ہے اور نمبر ۸ بربادی اور ناکامی ہے تو مادی لحاظ سے تکمیل خواہشات اور ناکامی کی نسبت ۳، ۴ کی ہے اور روحانی لحاظ سے نمبر شخصیت میں اتانیت کا مرتبہ بلند کرتا ہے اور نمبر ۴ ترقی اور وسعت لاتا ہے اس لئے روحانی نظریہ

ملازمہ مسز ثروت شجاعت صاحبہ نے اس کتاب کو لکھا ہے اور اس کی اشاعت کے لیے ان کے عزیزوں نے مدد کی ہے۔

# علم نجوم ایک معتبر روحانی علم

ابن مظفر شیرازی (روحانی مشیر)

673/3/D-2 گرین ٹاؤن لاہور

0336-4811952, 0302-2323319

علم نجوم ایک معتبر اور نہایت پاکیزہ علم ہے جو رب کریم کے پیارے نبی حضرت اور لیس پر نازل ہوا تھا۔ اسی علم کی طاقت سے حضرت اور لیس نے طوفان نوح کی خیر 150 سال قبل دے دی تھی۔ رب کائنات نے زمین و آسمان میں جو کچھ بھی پیدا کیا ہے خالی از حکمت نہ ہے معمولی سے معمولی چیز بھی اپنا مقام رکھتی ہے یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی جزی بوٹیاں مہلک ترین امراض کا علاج ثابت ہوتی ہیں چھوٹی سی شہد کی مکھی منوں شہد پیدا کر کے مخلوق خدا کے کام آ رہی ہے۔ چھوٹا سا پتھر عقین پہن لیں تو تقویت قلب کا باعث ہوتا ہے اسکا کشتہ بنا کر کھائیں تو قوت باہ شدید تر ہو جاتی ہے الغرض میرے خالق کی بنائی ہوئی کوئی چیز حکمت سے خالی نہ ہے اور ہر چیز کسی نہ کسی حوالہ سے انسانی خدمت پر مامور ہے اس لیے کہ رب کائنات نے اپنے نائب کو اشرف المخلوقات بنا کر حاکمیت عطا کر رکھی ہے۔ علم سیارگان رب تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ یہ خالصتاً قرآنی علم ہے سورہ النحل میں ارشاد رب کریم ہے "اس نے تمہارے لیے رات اور دن سورج اور چاند ستاروں کو اپنے حکم سے تمہارے تابع (کام کرنے کو لگا دیے) بنا دیا ہے اس میں صاحبان عقل و شعور کے لیے بہت سی نشانیاں پوشیدہ ہیں" رب کریم نے واضح ارشاد فرمایا ہے رات، دن سورج چاند اور ستارے انسان کے تابع (کام کرنے کو لگا دیے) کر دیئے گئے ہیں مگر ان سے فائدہ وہی لوگ اٹھائیں گے جو فہم و ادراک اور عقل و شعور رکھتے ہیں اور تحقیقی صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ پھر سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوتا ہے "ہم نے بنائے رات اور دن دو نمونے اور پھر منادیا رات کا نمونہ اور بنا دیا دن کا نمونہ دیکھنے کو تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو یہ سب چیزیں ہم نے کھول کر سنادی ہیں" اس سے بڑی اور وضاحت کیسی ہوگی کہ میرے پروردگار نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ دن اور رات کا جو چکر ہے اس سے تم اپنی منزلوں کا تعین کرو۔ دن، مہینوں اور برسوں کا حساب رکھو اور اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ پرانے وقتوں کا انسان اسی گردش لیل و نهار سے اپنے نظام الاوقات کا تعین کرتا تھا۔ جب دب اکبر (ستاروں کا جھرمٹ) جسے پنجابی زبان میں (ترکسر) کہتے ہیں فلاں جگہ پہنچے گا تو رات کے 3 بج رہے ہوں گے، جب قطب ستارہ فلاں جگہ پہنچے گا تو یہ تہجد کا نائم ہوگا، جب (کھتیاں) (چند چھوٹے ستاروں کا جھرمٹ) قطب ستاروں سے اتنے فاصلوں پر ہوں گی تو رات کا فلاں پہر ہوگا اور اس وقت اتنے بج چکے ہوں گے۔ جب ہم بچے تھے اور دوردارز کے گاؤں میں رہتے تھے تو ان دنوں سکول کے بچوں نے لکڑی کی ایک ڈنڈی زمین میں گاڑ کر اسی کے سائے سے اندازہ لگا رکھا تھا کہ اس وقت اتنے بجے ہیں اور اتنی دیر بعد سکول لگ جائے گا۔ سورہ مبارکہ یونس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے "وہی ہے جس نے بنایا سورج کو چمکتا اور چاند کو روشن اور مقرر رکھیں ان کی منزلیں تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب پہنچا سکو۔"

یہ سب کچھ رب کریم نے یونہی نہیں بنایا مگر تدبیر سے۔ تمہارا رب ظاہر کرتا ہے نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو فکر و تدبر رکھتے ہیں" سورہ الرحمن میں ارشاد ہوتا ہے۔ "چاند اور سورج ایک مکمل حساب کے تابع چل رہے ہیں" مندرجہ بالا آیت قرآنی اور فرمودات ربانی سے یہ امر واضح ہو گیا ہے کہ سورج چاند ستاروں کو یہ چکر یونہی نہیں بلکہ اس میں میرے پروردگار کی حکمتیں پوشیدہ ہیں اور صاحبان عقل و شعور ان حکمتوں سے استفادہ کرتے ہیں اور فضل ربی تلاش کر کے مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ پرانے وقتوں کے لوگ اپنے شعور کے مطابق نظام الاوقات کا تعین کرتے تھے۔ بچے سکول جانے سے قبل ڈنڈی لگا کر اس کے سایہ سے سکول کھلنے کے وقت کا تعین کرتے تھے۔ جبکہ ماہرین علم نجوم

اس متبرک اور پاکیزہ علم سے انسانی زندگیوں کو سنوارتے ہیں۔ ارشاد ربانی کی روشنی میں اپنے رب کا فضل تلاش کرتے ہیں اور اپنے رب کے فضل سے مخلوق خدا کو گمراہی سے باخبر رکھتے ہیں تاکہ حضرت انسان حوادث زمانہ سے بچ کر اپنے لیے بہتر راستے تلاش کر سکیں۔ جس طرح طبیب نبض دیکھ کر اپنے مریض کا مرض معلوم کرتا ہے یا ڈاکٹر سائیکھسکوپ لگا کر مریض کے دل کی دھڑکنوں کی رفتار سے اس کے مرض کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک ماہر علم نجوم سیارگان کی حرکات و سکنات سے محبت و سعادت سے آنے والے واقعات کی نشاندہی کرتا ہے۔ اور اپنے معمول کو حقیقت حال سے آگاہ کرتا ہے۔ سیارگان دوران گردش مختلف بروج میں داخل ہو کر مختلف اثرات قائم کرتے ہیں۔





حضرت موسیٰ کے وقت میں بھی فرعون زمینیں ثانی کے درباری نجومیوں کو اس علم پر دسترس حاصل تھی۔ حضرت یسعی کے پیروں کا روں میں اکثریت ایسے دانشوروں کی تھی جو ماہر علم نجوم تھے وقت مسیح سے قبل اس علم کی نہ صرف پوچا کی جاتی تھی بلکہ اسے مذہب کی ایک خاص شاخ تصور کیا جاتا تھا۔ شہنشاہ گناہ کا بھائی جسماپ خود بہت بڑا نجومی تھا اس نے اس علم پر بہت ساری کتب تحریر کیں موجودہ صدی میں سر رولوت کبلی سرچارج و ہارن لینڈ انگلڈ میں و دیگر کئی ایک نامور لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اس علم پر کتابیں مرتب کیں۔ امریکہ میں اس وقت ماہرین علم نجوم کی تعداد 15-20 ہزار کے لگ بھگ ہے میں نے دیکھا امریکی صبح اخبار خریدنے کے بعد پہلی نظر اس صفحہ پر ڈالتے ہیں جس پر لکھا ہوتا ہے "آج کا دن کیسا رہے گا" آخر میں سورہ مبارکہ الفرقان کی آیت نمبر 61 تا 62 پیش کرتا چلوں "بڑا متبرک ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اس میں ایک چراغ اور ایک بڑا چمکتا چاند روشن کیا وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے اور شکر گزار ہونا چاہے۔" علم سیارگان ایک وسیع و عریض علم ہے جس کا احاطہ کرنا مجھ فقیر کے بس میں کہاں۔ یہ علم صرف صاحبان عقل شعور و صاحبان فہم و ادراک کے لیے ہے ہر کس و نا کس کو اس متبرک علم کی حقیقتوں سے کیا سروکار۔۔۔؟

ارشاد فرمایا ہے۔ "ہم نے بنائے رات اور دن دو نمونے، پھر منادیا رات کا نمونہ اور بنا دی دن کا نمونہ دیکھنے کو تا کہ تم تلاش کرو اپنے رب کا کرم فضل اور برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو" اس طرح صاحبان عقل و شعور ان سیارگان کی حرکات و سکنات سے اپنے رب کا فضل تلاش کرتے ہوئے اپنے کمال فن سے بنی نوع انسان کو فیض یاب کرتے ہیں۔ صاحبان عقل و شعور نے دن رات کی 24 ساعتوں کو بھی مختلف سیارگان سے منسوب کر رکھا ہے۔ اگر ساعت سعد ہے تو کام ہوگا، ورنہ نہیں۔ جس سیارے کی چھٹی ساعت ہوگی ویسا ہی کام ہوگا۔ ایک دفعہ ایک صاحب استاد مکرم کے پاس تشریف لائے اور عرض کی کہ میں نے ایک شخص کو رقم ادھار دی ہوئی ہے رقم لینا ہے میں اسکی طرف جا کر تقاضا کروں یا نہ کروں؟ استاد گرامی نے حساب لگا کر بتایا کہ ابھی نہ جائیں مگر وہ شخص منع کرنے کے باوجود چلا گیا کس طرح بات بڑھی آخر کار سر پھٹوا کر واپس آنا پڑا۔ استاد گرامی فرمایا کہ اگر آپ شام 5 بجے جاتے تو معاملہ خوش اسلوبی سے پیٹ جاتا اور سر پھٹول بھی نہ ہوتی۔ استاد جی نے بتایا جب تم قرض خواہ کے پاس گئے اس وقت زحل کی ناموافق ساعت تھی ایسے میں سوائے جھگڑا فساد کے کیا ہو سکتا تھا جبکہ اسی روز شام 5 بجے مشتری کی سعد ترین ساعت تھی ایک ساعت اچھی تھی دوسرا رقم کالین دین اور ساعت بھی دولت کے بادشاہ مشتری کی ایسے میں ممکن نہ تھا کہ وہ شخص خوش اسلوبی سے پیش نہ آتا۔ آخر میں قارئین کو ایک خوبصورت حقیقت سے آگاہ کرتا چلوں کہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ "ہر عورت اس وقت ماں بننے کی انتہائی موزوں حالت میں ہوتی ہے جب قمر اسی حالت میں شمس کے ساتھ تعلقات قائم کرے۔ جب وقت پیدائش ان دو سیارگان کے مابین تھے یعنی جب عورت کی پیدائش کے وقت شمس و قمر کا درمیانی فاصلہ 120 درجہ ہو۔ جسے تثلیث شمس و قمر بھی کہا جاتا ہے۔ اس وقت عورت ماں بننے کی انتہائی موزوں حالت میں ہوتی ہے اور یہ وقت خوش قسمتی سے ہر ماہ آتا ہے یہ میرے پروردگار کا فضل نہ ہے تو اور کیا ہے کہ علمائے نجوم نے اولاد سے محروم خواتین و حضرات کو ایک ایسا نقطہ عطا کیا ہے جس پر پہنچ کر اولاد کی دولت سے مالا مال ہو سکتے ہیں۔ یہ عظیم معجز علم خالصتاً مسلمان قوم کی میراث ہے مگر غیر مسلموں نے بھی اس پر خاصی تحقیق اور محنت کی ہے اور خاطر خواہ کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ نظام سیارگان پر غور و غرض کرتے ہوئے آج سے کئی ہزار سال قبل بابلی، آشوری اور مصری لوگوں نے اپنے اپنے مذہب کی بنیاد رکھی اور نجومیوں کے بل بوتے پر حکومتیں کیں۔ اسی طرح

## طلسمات زحل

(شخص اکبر زحل کے چار پائے)

صدیوں پرانی کتابوں سے تحقیق کامل کے بعد تیار کردہ

### لوح طلسمات زحل

شخص اکبر ستارہ زحل کے حامل افراد کے لیے تحفہ خداوندی ہے۔ آزمائیں

ان شاء اللہ دعائیں دیں گے۔ **رابطہ** سید ابن مظفر شیرازی

0336-4811952, 0302-2323319

### فالج کا مجرب نسخہ

لہسن کا ایک ٹوکرا پہلے روز، دوسرے روز، تیسرے روز، چوتھے روز، اسی طرح سے ہر روز ایک عدد بڑھائیں۔ کہ چالیسویں روز ہو جائیں۔ اور اسی ترکیب سے پانی سے نکل لیں اس کے بعد گھٹانا شروع کر دیں۔ یعنی اکتالیسویں روز ۳۹ ٹوکرا، پھر ۳۸، پھر ۳۷، یہاں تک کہ ایک ٹوکرا پر آجائیں۔ انشاء اللہ مریض صحت یاب ہو جائے گا۔ (شعب شہستان رضا)

ابن مظفر شیرازی (روحانی مشیر)  
673/3/D-2 گرین ٹاؤن لاہور  
0336-4811952, 0302-2323319


# کینسر یا سرطان کارو روحانی علاج

یہ مضمون 2002 کی امامیہ جنتری میں شائع ہوا تھا۔ قارئین کی فرمائش پر اس کی افادیت کے پیش نظر دوبارہ شائع کیا جا رہا ہے۔ حسب فرمائش سخاوت علی جعفری راولپنڈی 0333-5579006

کسی بھی مرض کے شافی اور یقینی علاج کے لیے حکیم و طبیب و روحانی معالج کے لیے ضروری ہے کہ وہ مرض کی کامل تشخیص کرے۔ اگر تشخیص سو فیصد درست ہوگی تو علاج و شفا بھی سو فیصد ملے گی۔ اس مضمون سے استفادہ حاصل کرنے سے قبل یہ امر ذہن نشین کر لیں کہ کینسر بذات خود کوئی مرض نہ ہے اور نہ ہی اس کی کوئی حقیقت ہے کسی بھی مرض کے بگاڑ، کہنہ پن، ضدی اور ہٹیلٹا ہونا اس مرض کے کینسر میں بگڑنے کا موجب بنتا ہے۔ یعنی جو مرض ضدی اور ہٹیلٹا ہو جاتا ہے پرانا نا ہو کر بگڑ جاتا ہے وہ کینسر بن جاتا ہے۔ اکثر اوقات جسم میں گلٹیاں بن جاتی ہیں بعض اوقات پھوڑا بن جاتا ہے جو تریبوز کے برابر بھی ہو جاتا ہے۔ سرجن کہتا ہے اسے کاٹ کر پھینک دو کیونکہ سرجری کے سوا اس کا کوئی چارہ کار نہیں ہے لیکن بیسیوں شواہد سے پتا چلا ہے کہ کانٹے کے باوجود جراثیم ختم نہیں ہوتے بلکہ آگے سے آگے سفر جاری رکھتے ہیں جس سے موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ کسی بھی مرض کے علاج کے لیے اپنے تخلیق کار سے رجوع کرنا بنیادی شرط ہے کیونکہ شفاء صرف اللہ کے پاس ہے۔ میرے تخلیق کار کا فرمان عالی شان کچھ اس طرح ہے "جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو میں ہی اسے شفا دیتا ہوں" الغرض شفا کا اصل سرچشمہ ذات رب کریم ہے موت و حیات و شفا وہی دیتا ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جانیں ہیں۔ اگر طبیب روحانی کامل ہو علوم روحانیہ پر مکمل دسترس رکھتا ہو، باکردار اور راتوں کو جاگنے والا ہو، حب اہل بیت سے سرشار رہتا ہو، رزق حلال کھانے والا بچ گو ہو تو ہر مرض کا کامل اور مکمل علاج کر سکتا ہے۔ اس کے سامنے کوئی مرض مرض نہیں رہتا کیونکہ اس کے پاس چشمہ فیض روحانی سے شفا حاصل کرنے کے راستے موجود ہوتے ہیں۔ اب میں اصل مقصد کی طرف آتا ہوں۔

کینسر کے علاج کے لیے ایک تازہ صاف ستھرا گول بیٹگن حاصل کریں جسے کیڑا وغیرہ نہ لگا ہو یعنی یہ اندر اور باہر سے درست ہونا لازمی امر ہے۔ بیٹگن درمیانہ سا ہو بعد ازیں ویسی کیکر کے 30 کانٹے حاصل کریں یا دے کہ بیٹگن کی ڈنڈی ساتھ ہونا ضروری ہے۔ اب ایک کانٹا لیں اس پر

7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر دم کریں اس کانٹے کو ڈنڈی کے پاس کر کے بیٹگن کے اندر چھبھو دیں۔ اس طرح یکے بعد دیگرے 30 کے تیس کانٹے ایک قطار میں بیٹگن کے اندر چھبھو دیں۔ اور اس بیٹگن کو مریض کے سونے کی چار پائی کے اوپر رکھا دیں۔ مریض اکثر و بیشتر وقت اس بیٹگن کے سائے میں گزارے۔ دس یوم گزرنے کے بعد بیٹگن کو قبرستان میں دفن کر دیں۔ البتہ دفن کرنے سے پہلے ایک نیا بیٹگن تیار کر لیں تاکہ پرانے بیٹگن کو اتار کے نیا بیٹگن فوراً لٹکا دیا جائے اس طرح 40 یوم یہ عمل کرنا ہے۔ یعنی چار بیٹگن قبرستان میں دفنانے ہیں بعد ازیں ایک بوتل میں صاف پانی ڈالیں اس پر 70 مرتبہ سورۃ حمد صبح اول و آخر 21 مرتبہ درود بر محمد و آل محمد پڑھ کر دم کریں اور روزانہ نہار منہ کلی کرنے کے بعد تین چار گھونٹ پانی مریض کو پلا دیں۔ اگر یہ پانی چشمہ کا ہو یا بارش کا ہو تو زیادہ نتیجہ ملنے کے امکانات ہوں گے۔



اگر اسکے ساتھ "دھماکہ بوٹی" کا عرق بھی پینا شروع کر دیں تو سونے پر سہاگہ کا کام دے گی۔ "دھماکہ بوٹی" ایک عام سی خورد و جڑی بوٹی ہے جو ساون بھادوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ پنساری حضرات کے پاس وافر مقدار میں موجود ہوتی ہے۔ میں اسے "قدرتی اینٹی بائیوٹک" کہا کرتا ہوں آدھا پاؤ بوٹی لیں اسے خشک کر لیں اور ایک برتن میں ڈال کر اچھی طرح پکا نہیں جب ایک پیالی پانی رہ جائے تو پیالی لیں یہ دن میں تین دفعہ پینا ہے۔ صدقہ پنجنن پاک رب کریم مکمل شفا بخشیں گے۔ بالخصوص چھاتی کے کینسر میں جتلا خواتین کے لیے یہ علاج تحفہ خداوندی ہے۔ چھاتی سے گلٹیاں پھوڑا وغیرہ بالکل ختم ہو جاتا ہے آپریشن کی ضرورت نہیں رہتی جب کہ عورت کی قدرتی خوبصورتی بھی برقرار رہتی ہے۔ اگر کوئی بہن بھائی خدا نخواستہ اس مرض میں مبتلا ہے تو اپنا علاج خود کرے۔ وضاحت کے لیے جوابی لٹا فہ ارسال کرنا ضروری ہے۔ دعا گو ابن مظفر شیرازی

سالانہ عید شہاد میلاد برائے خواتین 9 ربیع الاول بمقام ایوان حسین F بلاک اوکاڑہ 3 بجے دوپہر۔ منجانب: عظمیٰ مرتضیٰ 0300-4885554

# جہرازا اسمائے نورانیہ

تحریر و تحقیق  
ایم غلام عباس اعوان  
0300-6011925

محترم قارئین امامیہ جنتری السلام علیکم! اس سال بلا تمہید ایک لاجواب جعفری قاعدہ پیش خدمت ہے۔ اس قاعدہ کی کلید اسمائے نورانیہ سمجھا۔ بصیر و خیر ہیں۔  
اپنا سوال بسط حرفی کر کے لکھیں۔ ہر حرف کے نیچے اس کے اعداد مفردہ لکھیں۔ ان اعداد کے مطابق سوال میں گنتی کر کے حروف اٹھالیں۔  
کثرت حروف خود ناطق ہوگی۔ بقیہ کو نظیرہ ہم رتبہ سے ناطق کر لیں بہتر تفہیم کے لیے پانچ مثالیں پیش ہیں۔

**مثال نمبر 4** یا علیم: سال دو ہزار بیس بیسوی میں پاکستان کے اندر کونسا ایہم واقعہ پیش آئے گا؟

بسط حرفی س ا ل د و ہ ر ا ر ب ی ا س ر ع ی س و ی م ی ن  
ب ا ک س ت ا ن ک ی ا ن د ر ک و ن س آ ا ہ م و ا ق ع ہ آ ی ش  
اسمائے نورانیہ س م ی ع ب ص ی ر خ ب ی ر  
اعداد مفردہ ۲ ۱ ۲ ۶ ۲ ۱ ۹ ۲ ۷ ۱ ۳ ۶  
حروف مستحصلہ ہ ب ی م ن ی ا د ا ہ م ا  
ناطق ہ ب ی ک ن ا ق د س ق م ا م  
بھیانک قدس مقام واللہ اعلم

**مثال نمبر 5** یا علیم: کیا اوس جون دو ہزار انیس کے بعد نوں لیگ پاکستان میں اقتدار حاصل کرے گی؟

بسط حرفی ک ی ا و س ج د ن د و ہ ز ا ر ا ن ی س ک ی ب ع د  
ن و ن ل ی ک ب ا ک س ت ا ن م ی ن ا ق د ا ر ج ا م ل  
ک ر ی ک ی؟

اسمائے نورانیہ س م ی ع ب ص ی ر خ ب ی ر  
اعداد مفردہ ۲ ۱ ۲ ۶ ۲ ۱ ۹ ۲ ۷ ۱ ۳ ۶  
حروف مستحصلہ ج ہ ز ک ب ب ا س ن ق ت ا  
ناطق ج ہ ز ک ب ب ا و ن ق ت س

جز کہہ باب قوت من واللہ اعلم  
**نوٹ** ذاتی نوعیت کا سوال بذریعہ جعفر ہم سے حل کرائیں گے تو  
100 روپے فی سوال فیس ادا کرنا ہوگی۔

**پتہ برائے خط و کتابت** دفتر ہفت روزہ ایکشن عبداللہ  
خالد پلازہ غلہ منڈی جوہر آباد ضلع خوشاب  
دفتری اوقات صبح 10 بجے سے 3 بجے سہ پہر تک

0333-6801653, 0300-6011925

**مثال نمبر 1** یا علیم: پاکستان کے لیے کس ملک سے دوستی رکھنا بہتر ہے؟

بسط حرفی ب ا ک س ا ن ک ی ل ی ی ک س م ل ک  
س ی د و س ت ی ر ک ح ن ا پ ح ت ر ح ی  
اسمائے نورانیہ بسط حرفی س م ی ع ب ص ی ر خ ب ی ر  
اعداد مفردہ ۲ ۱ ۲ ۶ ۲ ۱ ۹ ۲ ۷ ۱ ۳ ۶  
حروف مستحصلہ ا ل ی س د ا ب ت ک ت ا ک  
ناطق ا ل ی و د س ع ت ب ت ا ک  
لا سعودی (عرب) تاب تک

**مثال نمبر 2** یا علیم: کیا پاکستان کی معیشت مستقبل میں مضبوط ہو سکے گی؟

بسط حرفی ک ی ا پ ا ک س ت ا ن ک ی م ع ی ش ت  
م س ت ق م ل م ی ن م ض پ و ط ہ و س ک ی ک ی؟  
اسمائے نورانیہ بسط حرفی س م ی ع ب ص ی ر خ ب ی ر  
اعداد مفردہ ۲ ۱ ۲ ۶ ۲ ۱ ۹ ۲ ۷ ۱ ۳ ۶  
حروف مستحصلہ م ن ک م ت پ و ہ ی ی ا ا  
گن کم بہتری آئے۔ واللہ اعلم

**مثال نمبر 3** یا علیم: حکومت پاکستان معیشت کی بہتری کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کرے؟

بسط حرفی ح ک و م ت پ ا ک س ت ا ن م ع ی ش ت ک ی  
پ ح ت ر ی ک ی ل ی ی ک ی آ ح ک م ت ع م ل ی  
ا ر خ ت ی ا ر ک ر ی؟

اسمائے نورانیہ بسط حرفی س م ی ع ب ص ی ر خ ب ی ر  
اعداد مفردہ ۲ ۱ ۲ ۶ ۲ ۱ ۹ ۲ ۷ ۱ ۳ ۶  
حروف مستحصلہ ب ت ا ک ب ی ک ا م ی ا ت  
ناطق ب ت ا ب ی ر آ ک م ی س و  
بتا برآمدی سے واللہ اعلم الغیب

# جہرا از اسمائے نورانیہ

تحریر و تحقیق  
ایم غلام عباس اعوان  
0300-6011925

محترم قارئین امامیہ جنتری السلام علیکم! اس سال بلا تمہید ایک لاجواب جعفری قاعدہ پیش خدمت ہے۔ اس قاعدہ کی کلید اسمائے نورانیہ سمجھنا۔ بصیر و خیر ہیں۔  
اس اپنا سوال بسط حرفی کر کے لکھیں۔ ہر حرف کے نیچے اس کے اعداد مفردہ لکھیں۔ ان اعداد کے مطابق سوال میں گنتی کر کے حروف اٹھالیں۔  
کثرت حروف خود ناطق ہوگی۔ بقیہ کو نظیرہ ہم رتبہ سے ناطق کر لیں بہتر تفہیم کے لیے پانچ مثالیں پیش ہیں۔

**مثال نمبر 4** یا علیم: سال دو ہزار بیس بیسوی میں پاکستان کے اندر کونسا  
اہم واقعہ پیش آئے گا؟

بسط حرفی: س ا ل د و ہ ر ا ر ب ی ا س ر ع ی س و ی م ی ن  
ب ا ک س ت ا ن ک ی ا ن د ر ک و ن س آ ا ہ م و ا ق ع ہ آ ی ش  
اسمائے نورانیہ: س م ی ع ب ص ی ر خ ب ی ر  
اعداد مفردہ: ۲ ۱ ۲ ۶ ۲ ۱ ۹ ۲ ۷ ۱ ۳ ۶  
حروف مستحصلہ: ہ ب ی م ن ی ا د ا ہ م ا  
ناطق: ہ ب ی ک ن ا ق د س ق م ا م  
بھیانک قدس مقام واللہ اعلم

**مثال نمبر 5** یا علیم: کیا و س جون دو ہزار انیس کے بعد نوں لیگ  
پاکستان میں اقتدار حاصل کرے گی؟

بسط حرفی: ک ی ا و س ج د ن د و ہ ز ا ر ا ن ی س ک ی ب ع د  
ن و ن ل ی ک ب ا ک س ت ا ن م ی ن ا ق د ا ر ج ا م ل  
ک ر ی ک ی؟

اسمائے نورانیہ: س م ی ع ب ص ی ر خ ب ی ر  
اعداد مفردہ: ۲ ۱ ۲ ۶ ۲ ۱ ۹ ۲ ۷ ۱ ۳ ۶  
حروف مستحصلہ: ج ہ ز ک ب ب ا س ن ق ت ا  
ناطق: ج ہ ز ک ب ب ا و ن ق ت س

جز کہہ باب قوت من واللہ اعلم  
**نوٹ** ذراتی نوعیت کا سوال بذریعہ جعفریہ ہم سے حل کرائیں گے تو  
100 روپے فی سوال فیس ادا کرنا ہوگی۔

**پتہ برائے خط و کتابت** دفتر ہفت روزہ ایکشن عبداللہ  
خالد پلازہ غلہ منڈی جوہر آباد ضلع خوشاب  
دفتری اوقات صبح 10 بجے سے 3 بجے سہ پہر تک

0333-6801653, 0300-6011925

**مثال نمبر 1** یا علیم: پاکستان کے لیے کس ملک سے دوستی رکھنا بہتر ہے؟

بسط حرفی: ب ا ک س ا ن ک ی ل ی ی ک س م ل ک  
س ی د و س ت ی ر ک ح ن ا پ ح ت ر ح ی  
اسمائے نورانیہ بسط حرفی: س م ی ع ب ص ی ر خ ب ی ر  
اعداد مفردہ: ۲ ۱ ۲ ۶ ۲ ۱ ۹ ۲ ۷ ۱ ۳ ۶  
حروف مستحصلہ: ا ل ی س د ا ب ت ک ت ا ک  
ناطق: ا ل ی و د س ع ت ب ت ا ک  
لا سعودی (عرب) تاب تک

**مثال نمبر 2** یا علیم: کیا پاکستان کی معیشت مستقبل میں مضبوط ہو سکے گی؟

بسط حرفی: ک ی ا پ ا ک س ت ا ن ک ی م ع ی ش ت  
م س ت ق م ل م ی ن م ض پ و ط ہ و س ک ی ک ی؟  
اسمائے نورانیہ بسط حرفی: س م ی ع ب ص ی ر خ ب ی ر  
اعداد مفردہ: ۲ ۱ ۲ ۶ ۲ ۱ ۹ ۲ ۷ ۱ ۳ ۶  
حروف مستحصلہ: گ ن ک م ت پ و ہ ی ی ا ا  
گن کم بہتری آئے۔ واللہ اعلم

**مثال نمبر 3** یا علیم: حکومت پاکستان معیشت کی بہتری کے لیے کیا  
حکمت عملی اختیار کرے؟

بسط حرفی: ج ک و م ت پ ا ک س ت ا ن م ع ی ش ت ک ی  
پ ح ت ر ی ک ی ل ی ی ک ی آ ج ک م ت ع م ل ی  
ا ر خ ت ی ا ر ک ر ی؟

اسمائے نورانیہ بسط حرفی: س م ی ع ب ص ی ر خ ب ی ر  
اعداد مفردہ: ۲ ۱ ۲ ۶ ۲ ۱ ۹ ۲ ۷ ۱ ۳ ۶  
حروف مستحصلہ: ب ت ا ک ب ی ک ا م ی ا ت  
ب ت ا ب ی ر آ ک م ی س و

بتا برآمدی سے واللہ اعلم الغیب





ان دونوں کی پارٹنرشپ بہت کامیاب ہوگی۔ جب کہ اسی طرح دونوں اعداد ایک دوسرے کی کمپنی کے اچھے ورکر بھی ثابت ہوں گے اور کاروبار بہترین ترقی کرے گا۔

**2+2:** دونوں اعداد معاہدہ کرنے والے، امن پسند اور مصلحت کو پسند ہیں۔ مگر قوت فیصلہ کی کمی کی وجہ سے پارٹنرشپ میں اور ایک دوسرے کی فرم میں زیادہ بہتر نہیں۔

**2+3:** بزنس پارٹنرشپ اور ایک دوسرے کی کمپنی یا فرم میں کامیاب رہیں گے۔

**2+4:** پارٹنرشپ اور ایک دوسرے کی کمپنی کے لیے مفید کارکن ہیں مگر ترقی کی رفتار دیکھی ہوگی۔

**2+5:** بزنس پارٹنرشپ اور ایک دوسرے کی کمپنی کے لیے مفید نہیں ہیں۔

**2+6:** دونوں اعداد بزنس پارٹنرشپ میں ترقی نہیں کر سکتے مگر ایک دوسرے کی کمپنی میں بطور ورکر خوش رہیں گے۔

**2+7:** دونوں اعداد بزنس پارٹنرشپ میں اور بطور ورکر ایک دوسرے کے لیے مفید ہیں۔ اگر مادی معاملات کی بجائے روحانیت پر عمل کر کام کریں تو بہت بہتر ہے۔

**2+8:** دونوں اعداد سانچے کاروبار میں یا ایک دوسرے کی کمپنی کے لیے بہترین ہیں۔

**2+9:** پارٹنرشپ میں اور ایک دوسرے کے کاروبار میں بطور ملازم کامیاب رہیں گے۔

**3+3:** دونوں کی پارٹنرشپ مشروط ہے کہ وہ اپنی خامیوں پر قابو پا کر ایک دوسرے سے تعاون کریں تو خوب ترقی ہوگی ورنہ نقصان ہوگا۔ جبکہ دونوں ایک دوسرے کی ملازمت نہیں کر سکتے۔

**3+4:** دونوں متضاد طبیعتوں کی وجہ سے کپروماز کی صورت میں بہتر بزنس پارٹنرشپ اور ملازم ثابت ہو سکتے ہیں ورنہ دونوں ایک دوسرے کو ڈسٹرب کرتے رہیں گے۔

**3+5:** دونوں اعداد بزنس پارٹنرشپ میں کامیاب رہیں گے۔ دونوں ایک دوسرے کی ملازمت میں یا تو لٹیا ڈھونڈیں گے یا اپنی طاقتور اور بے چین طبیعت پر قابو پا کر بہت مفید ثابت ہوں گے۔

**3+6:** دونوں اعداد سانچے کاروبار میں یا ایک دوسرے کی ملازمت میں بہت مفید ثابت ہوں گے۔

**1+3:** ایک کی لیڈر انہ صفات عدد تین کے تحمل، ذہانت اور کچھ کرنے کی خواہش کے ساتھ مل کر کامیابی سے ہم کنار ہوں گے۔ اس صورت میں عدد تین کو اپنی سستی اور غفلت کو چھوڑنا ہوگا۔ عدد 1 عدد 3 کمپنی کا ورکر ہو تو صرف ایک سیکشن تک محدود رہ سکتا ہے جبکہ عدد 3 عدد 1 کمپنی کے ساتھ اپنی ذہانت، ہمہ گیریت اور جو شیلے پن سے بہت کامیاب ہوگا۔

**1+4:** عدد 1 متحرک اور پرجوش ہے جبکہ عدد 4 محتاط ہے اس صورت میں دونوں کا پارٹنرشپنا مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ عدد 1 عدد 4 کی کمپنی میں کامیاب نہیں ہوگا اور اسی طرح عدد 4 عدد 1 کی کمپنی میں کامیاب نہیں ہوگا۔ بصورت دیگر سمجھوتہ کرنا ہوگا۔

**1+5:** دونوں اعداد آزاد، خود مختار اور جدت پسند ہیں اس لیے دونوں اعداد کو اپنی حاکمانہ اور آزاد طبیعت پر ضبط کر کے ایک دوسرے کی بات سننی ہوگی، اس صورت میں پارٹنرشپ کامیاب ہوگی۔ عدد 1 عدد 5 کی کمپنی میں کامیاب ورکر ثابت ہوگا جبکہ عدد 5 عدد 1 کمپنی میں اپنی آزاد فطرت اور بے چین طبیعت کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوگا۔

**1+6:** عدد 1 اور عدد 6 ایک کامیاب کاروبار چلا سکتے ہیں۔ عدد 6 اپنی نرم اور مقناطیسی طبیعت کی وجہ سے لوگوں کو پیار سے بینڈل کر سکتا ہے۔ عدد 1 کو اپنی حاکمانہ طبیعت کنٹرول میں رکھنی ہوگی۔ عدد 1 عدد 6 کی کمپنی میں کامیاب ثابت ہوگا اور اسی طرح عدد 6 عدد 1 کی کمپنی میں کامیاب ہوگا۔

**1+7:** عدد 1 لیڈر، ورکر اور حقیقت پسند ہے جبکہ عدد 7 تنہائی پسند فلسفیانہ طبیعت اور بہت کم مادیت پسند ہے اس وجہ سے عدد 1 عدد 7 کو بار بار مہینے کرے گا اور یہ بات عدد 7 کی طبع پر ناگوار گزرے گی۔ عملی طور پر زیادہ کام عدد 1 کو سنبھالنا ہوگا۔ پارٹنرشپ میں یہ کم زور تعلق ہوگا۔ عدد 1 کو عدد 7 کی کمپنی میں خاص کامیابی نہیں ہوگی۔ جبکہ عدد 7 عدد 1 کی فرم میں کسی حد تک کامیاب ہو سکتا ہے۔

**1+8:** عدد 1 اور عدد 8 دونوں مہنتی، پرعزم اور حصول مقصد کے لیے جان لڑانے والے ہیں۔ ان دونوں کی پارٹنرشپ سے کاروبار کو بہت فائدہ ہوگا۔ لیکن ان دونوں کو محتاط رہنا ہوگا کیونکہ جھگڑے کی صورت میں نتائج بالکل برعکس ہوں گے اور کاروباری نقصان ہوگا۔ بالکل اسی طرح عدد 1 عدد 8 کی کمپنی میں اور عدد 8 عدد 1 کی کمپنی میں بہت ترقی کریں گے بشرطیکہ صبر سے کام کریں اور آپس میں جھگڑا مت کریں۔

**1+9:** عدد 1 اور عدد 9 دونوں مہنتی، پرعزم اور حوصلہ مند اعداد ہیں۔



**7+7:** دونوں اعداد میں کاروباری صلاحیتیں نہ ہونے کی وجہ سے بزنس پارٹنرشپ اور ایک دوسرے کی ملازمت غیر مفید ہے اور مالی ترقی میں ناکامی ہوگی۔

**7+8:** کاروباری شراکت میں دونوں ایک دوسرے کے لیے مفید ہیں۔ جبکہ عدد 7 عدد 8 کے ماتحت کام کرنے میں ناکام ہوگا جبکہ عدد 8 اس کے برعکس ہے۔

**7+9:** مالی معاملات میں پارٹنرشپ کے دونوں اعداد ناموزوں ہیں جب کہ بطور ملازم بھی مادی معاملات میں ترقی نہیں کر سکتے۔

**8+8:** دونوں اگر اپنی جذباتیت پر قابو پالیں تو بہترین بزنس پارٹنر بن سکتے ہیں۔ ملازمت کی صورت میں بھی ضبط سے کام لیں تو ایک دوسرے کے لیے مفید ہیں۔

**8+9:** بزنس پارٹنرشپ کے لیے دونوں کا تعلق میاں نہ ہے۔ دونوں اپنی خامیوں پر قابو پالیں تو ترقی کر سکتے ہیں۔ جب کہ ملازمت کی صورت میں ایک دوسرے کے لیے قطعاً مفید نہیں۔

**9+9:** بزنس پارٹنرشپ کی صورت میں درمیان درجے تک بہتر ہو سکتے ہیں۔ جب کہ مالی معاملات میں ایک دوسرے کی ملازمت ان کے لیے مالی فوائد کی حامل نہیں۔

**محمد اکمل خان ماہر علوم مخفی**

مدینۃ الروحانیت، جامعہ حسینیہ وارڈ 13، کروڑ محل عین ضلع لیہ۔ پنجاب

**ہر حاجت کے لیے مجرب درود**

(ہر حاجت کے لیے مجرب ہے کثرت سے نماز پڑھنے کے بعد تاوت کریں)

محمد اقبال، بھارانی 0333-4279567, 0346-7596514

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ عَلٰى فِيْ حَرِّ جَاوِيْهِ وَحَسَنٍ فِيْ صِفَايَةِ وَشَهِيْدِيْ فِيْ تَجَلِّيَايَةِ وَزَيْنِ الْعَابِدِيْنَ وَبَاقِرِ عِلْمِ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ وَصَادِقِيْ فِيْ اَقْوَالِهِ وَكَاطِمِ فِيْ جَمِيْعِ اَحْوَالِهِ وَمُتَّبِعِيْنَ فِيْ مَقَامِ الرِّضَا وَالْجَوَادِ الْكُفِّ عِنْدَ الْعَطَاةِ وَهَادِيْ اِلَى سَبِيْلِ النَّجَاةِ وَعَسْكَرِيْ فِيْ الْعَزَابِ وَمَهْدِيْ اِلَى طَرِيْقِ الْيَقِيْنِ وَآلِهِ اَطْيَبِيْنَ الظَّاهِرِيْنَ الْمُغْضُوْمِيْنَ

**3+7:** دونوں بہترین بزنس پارٹنر اور بہترین ملازم ثابت ہوں گے۔

**3+8:** پارٹنرشپ اور ملازمت میں بہترین اور بطور افسر و ماتحت طاقتور لیم ہیں۔

**3+9:** بطور بزنس میں کامیاب نہیں رہیں گے بصورت دیگر ان دونوں کو سختی سے اپنی خامیوں پر قابو پانا ہوگا تب جا کر کامیابی نصیب ہوگی۔ اسی طرح طویل عرصہ کے لیے بطور ملازم بھی مفید نہیں۔

**4+4:** دونوں پارٹنرشپ میں اور ایک دوسرے کی ملازمت میں بہترین ہیں۔

**4+5:** دونوں بطور بزنس پارٹنر بہت خوب ترقی کریں گے اور ملازمت میں ناکام۔

**4+6:** ذاتی، کاروباری لحاظ سے اور بطور ورکر ان دونوں اعداد کا بہترین تعلق ہے۔

**4+7:** پارٹنرشپ کے لیے بہترین مگر 7 عدد 4 عدد کی کمپنی میں زیادہ کامیاب نہیں۔

**4+8:** مشترک کاروبار اور ایک دوسرے کی ملازمت کے لیے بہترین ہیں۔

**4+9:** بزنس پارٹنرشپ یا ایک دوسرے کی ملازمت کے لیے ناموزوں ہیں۔

**5+5:** سانچھا کاروبار ہو یا ایک دوسرے کی ملازمت، بہت اختلاف رہے گا۔

**5+6:** دونوں اعداد اساتجہ داری میں مالی ترقی کر سکتے ہیں اور بطور ملازم بھی۔

**5+7:** اساتجہ داری ہو یا ایک دوسرے کی ملازمت، خراب تعلق رہے گا۔

**5+8:** کاروباری سطح پر اساتجہ داری اور ایک دوسرے کی ملازمت بہت خوب ہے۔

**5+9:** شراکت کی صورت میں فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ ایک دوسرے کی ملازمت کی صورت میں کچھ زیادہ مفید تعلق نہیں ہے۔

**6+6:** دونوں اعداد بزنس پارٹنرشپ میں زیادہ مالی فوائد حاصل نہیں کر سکتے اور نہ ہی ایک دوسرے کی فرم میں قابل ذکر خدمات انجام دے سکتے ہیں۔

**6+7:** دونوں اعداد کے درمیان بالکل مختلف رجحانات ہیں جس کی وجہ سے ذاتی زندگی، پارٹنرشپ یا ملازمت کی صورت میں صرف خرابی کے واضح امکانات ہیں۔

**6+8:** بہترین بزنس پارٹنر ثابت ہوں گے۔ ایک دوسرے کی ملازمت میں بھی خوب فائدہ حاصل کریں گے۔

**6+9:** دونوں میں کامیاب بزنس میں بننے کی صلاحیت طاقتور نہیں اس لیے اساتجہ داری اور ایک دوسرے کی ملازمت میں نمایاں مالی فوائد حاصل نہیں کر سکتے۔

فرح علی

North America

001 306 715 5513

## اصل خوشی کا راز

ہمارے دماغ میں ایک دن میں 55000 سے 65000 یا زیادہ سے زیادہ 80000 تک خیالات آتے ہیں۔ اس لئے اس کو Monkey Mind کہتے ہیں۔ اس میں 80 فیصد خیالات منفی ہوتے ہیں۔ دماغ ایک بچے کی مانند ہوتا ہے جسے سکھانا پڑتا ہے اور بار بار دہرا کر جتاننا پڑتا ہے۔ ہمیں چاہئے کہ ہم اپنا Mindset بدلیں اور اپنی حقیقت کو سمجھیں کہ ہم کون ہیں۔ جب ہمیں کچھ حد تک اپنی پہچان ہو جائے گی تو ہمیں سکون اور خوشیوں کو بھی حاصل کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ کسی چاند کو جب اس کی فطرت سے دور کیا جائے گا تو وہ پریشان ہو جائے گا۔ اسی طرح انسان جسمانی، روحانی، ذہنی اور جذباتی عناصر سے مل کر بنا۔ اور ان چاروں میں سے کسی ایک کا توازن ٹھیک نہ ہو تو زندگی کی گاڑی ٹھیک نہیں چلے گی۔

انسان اپنے آپ کو زیادہ Physical Being سمجھتا ہے جبکہ جسم ایک لباس کی مانند ہے۔ روح یا Spiritual Being کو سمجھنا اور اس پر Mindset کرنا ہمیں بہت سے مسائل سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ روح کبھی مرقی نہیں جبکہ جسم ایک وقت تک زندہ رہتا ہے۔ جب ہم Physical Being کو سمجھتے ہیں تو ہماری Approach باہر کی دنیا کی جانب ہوتی ہے جو کہ ہمیں نیچے لے جاتی ہے یعنی پستی کی طرف۔ مگر جب ہم Spiritual Being کو سمجھتے ہیں تو ہماری Approach اندر کی جانب ہوتی ہے یعنی ہم اپنے ساتھ کام کرتے ہیں۔ روح کی پاکیزگی بلندی کی طرف لے جاتی ہے۔ یعنی روح کے ساتھ کام کرنے سے ہم بلندی کی طرف بڑھتے ہیں۔

**دونوں کا موازنہ:** اصل خوشی کا راز خود کو Spiritual Being سمجھنے میں ہے جس سے ہماری Priorities بدل جائیں گی اور مستقل سکون اور Joy ملے گا۔ Spiritual Being سمجھنے سے Attachments نہیں ہوتیں اور ہم اللہ کی جانب مزید نزدیک ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے علاوہ دوسروں کے مسائل بھی حل کر سکتے ہیں۔ آپ ہلکا پن محسوس کریں گے اور آپ میں قناعت پسندی آئے گی۔ آپ کسی کے لئے بھی Judgmental نہیں ہوں گے۔ آپ اپنے اندر کی آواز کو زیادہ سے زیادہ Practice کے ساتھ سنتے جائیں گے اور ہمیشہ کے لئے زندہ رہیں گے کہ روح کبھی مرقی نہیں۔ ہم Physical Being کو سمجھنے سے مادیت یعنی دنیا سے منسلک ہو جائیں گے۔ یوں ہم مشکل سے اپنی زندگی گزار سکیں گے۔ بھاری پن اور Stress کا شکار ہوں گے۔ ابھی ایک چیز حاصل نہ ہو پائے گی کہ دوسری کی تلاش اور پھر تیسری کی تلاش شروع ہو جائے گی۔ آپ اپنے اندر کی آواز نہیں سن سکیں گے۔ اصل خوشی کا راز Spiritual Being کو سمجھنے میں ہے۔ مستقل سکون اور Joy ملتا ہے جبکہ Physical Being سے صرف عارضی خوشی ملتی ہے۔ اپنی سوچ اور الفاظ پر خاص توجہ دیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہماری خواہشات ہماری سوچ بنتی ہیں، ہماری سوچ ہمارے الفاظ، ہمارے الفاظ ہمارے Actions، ہمارے Actions ہماری عادات (Habits)، ہماری عادات ہمارا کردار (Character) اور ہمارا کردار ہماری قسمت (Destiny) کا تعین کرتا ہے۔ اپنے دماغ کو مثبت سوچوں کی طرف لے کر جائیں اور جب الفاظ ادا کریں تو سوچ سمجھ کر کریں۔ ہر لفظ کی Vibrations اور Energy ہوتی ہے۔ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ اچھی بات منہ سے نکالیں۔ جب سوچ اچھی ہوگی، الفاظ اچھے ہوں گے تو Actions بھی اچھے ہوں گے۔ یہ عوامل آپ کے لئے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔

● اچھی صحبت ● منشیات سے پرہیز ● مراقبہ (جو کہ بہت اچھی ذہنی ورزش ہے) ● ایمانداری کی زندگی ● اچھی باتوں کو ماحول میں بھی پھیلانا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ


اپنے مرحومین مؤمنین کو جہاں کہیں بھی ہوں اس دعا سے یاد رکھیں

دعا برائے مرحومین:

اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِیْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْاَحْبَاءِ مِنْهُمْ وَالْاَقْرَابِ تَابْ غَمَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ بِالْخَيْرَاتِ اِنَّكَ مُجِیْبُ الدَّعْوَاتِ اِنَّكَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِیْرٌ

جو مرگے ہیں انہیں اور ان کو نکلیں میں باہم ملانے سے جب تک تو دعا میں قبول کرنے والا ہے یقیناً تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔






سبب ہے۔ تو یہاں شکل طالع کو چھٹی شکل سے ضرب دی تو جواب قبض القارج آیا ہے جس کا مطلب یہ ہے بیماری آسب کے سبب ہے۔

سوال کیا گیا ہے کہ جس عورت سے نکاح ہوگا وہ کسی سے چار نمبر 3, 10, 13, 16 بتائے گئے؟


اگر شکل اول اور ہضم کو ضرب دیں اور نتیجہ بیاض، نصرة الداعی، قبض الداعی، حجة الداعی، جماعت اور اجتماع حاصل ہو ٹیک



بخت اور مبارک اور باحیاء ہو گی عمر جماعت کی وجہ سے لڑکیاں زیادہ ہوں گی اور اجتماع کی وجہ سے لڑکے زیادہ پیدا ہونگے اور بیاض کی وجہ سے مساوات رہے گی۔ لیجان یا نصرة القارج ہوا تو حکم اور خود پسند ہوگی مگر ٹیک بخت رہے گی۔ اور اگر نتیجہ فرج یا طریق ہو تو بد مزاج اور تسکراڑنے والی فیروں سے عشق رکھنے والی اور اگر نتیجہ مرہقی ہو تو شوہر سے لڑکر اس پر غالب رہے گی اگر قبض القارج اور علقہ ہے تو بد شکل بد تصویر رہے ہر ہوگی اور اگر نتیجہ القارج ہے تو بد کار اور خاندان کی دشمن ہوگی اور اگر آئیس ہے تو دشمن ہوگی لیکن دشمنی ظاہر نہیں ہونے دے گی۔ اس زائچہ میں خاندان اول اور ہضم کو ضرب دی تو حاصل ضرب لیجان نکلا ہے جس کا مطلب حکم اور خود پسند ہے مگر ٹیک بخت ہے۔

سوال کیا گیا حاملہ کے فرزند ہوگا یا دختر چار نمبر 9, 15, 7, 13 بتائے؟


زائچہ کشید کر کے خانہ جنم اور یازدہم میں شکل مذکورہ فرزند پیدا ہوگا اگر شکل موٹ ہوگی تو دختر پیدا ہوگی اگر



ایک شکل زیادہ ایک شکل ماہو ہوگی شکل کوئی سی طاقت رہے گی۔ اس کے موجب پیدا ہوگا یعنی شکل زکی قوی ہوگی تو فرزند پیدا ہوگا شکل ماہو کی قوی ہوگی تو دختر پیدا ہوگی۔ اگر ہر دو شکل برابر

ہوں تو غشی نامہ پیدا ہوگا یا فرزند ایک نر اور ایک ماہو پیدا ہوگا اور شکل عطار کی شکل غشی ہے اور مطلب کی بھی غشی اگر شکل سعد ہوگی پھر اور دختر ٹیک بخت ہوں گے اور توقف سے پیدا ہونگے اگر شکل نمس ہو بد بخت ہو یا ہلاک ہوگا اگر شکل سعد خارج ہو تو آسانی سے پیدا ہونگے اور اگر سعد داخل ہو تو توقف سے پیدا ہونگے اور اگر شکل داخل نمس ہو تو بڑی تکلیف سے پیدا ہونگے اگر شکل خارج مطلب سعد آسانی سے پیدا ہوگی لیکن حاملہ خرف سے لڑے مطلب جس فرزند ہلاک ہو اور جو بہت سعد ہو سکھ داخل سعد ہوگا اگر بہت نمس ہو خطر فرزند اور حاملہ کا ہے ورنہ انہوں میں سے ایک مرے شکل پنجم طریق ہے جو سعد ہے اور نہ کہ ہے اور شکل یازدہم نصرة الداعی ہے جو سعد ہے اور نہ کہ ہے تو ایک لڑکا ہوگا اور ایک لڑکی ہوگی۔ واللہ اعلم بالصواب

میں قبض الداعی نصرة الداعی حجة الداعی ہو اور حکم اول اور سوم اور پنجم اور جنم میں کرے وکیل قیام




روٹی کی ہے۔ ساتھ خیر خرابی کے اور خانہ یازدہم میں لیجان نصرة القارج فرج طریق ہونے۔ روٹی قائم رہے مگر خن اور گتنگو تازہ کی اکثر ہوا کرے لیکن ہلد رنج ہو جائے کرے اگر یازدہم آئیس

ہونے ہمیشہ تازہ رہے مگر عمر یازدہم میں ہو میں اشتداد میں لڑائی بھڑا ہوگا اگر جماعت یا اجتماع ہو تو دوشی حکم اور عطار کی ہوگی۔ خانہ اول لیجان کو خانہ چہارم فرجی سے ضرب دی تو نصرة الداعی اور نصرة ہضم علقہ الداعی کو خانہ دم فرج سے ضرب دی تو قبض القارج بنا ایک سعد داخل ہے اور ایک نمس خارج ہے اور خانہ یازدہم میں آئیس ہے تو روٹی تازہ رہے گی لیکن حکم اور فرساجک و بدل بھی رہے گا۔

سوال کیا گیا کہ قیدی رہا ہوگا یا نہیں چار نمبر 3, 9, 4, 11 بتائے؟

شکل خانہ اول اور یازدہم ہر دو خارج سعد ہوں قیدی خاص ہوگا اگر دونوں میں یہ نشانیوں ہوں قبض




القارج، آئیس، علقہ الداعی اور علقہ جموں قیدی رہے گا اور اگر علقہ خانہ اول میں ہو اور شکل ہضم میں ہو یازدہم اور دو از دہم میں مشکل سے رہا ہوگا ہر دو جموں قیدی رہ جائے گا اگر علقہ ششم میں ہو اور ہضم

اور یازدہم میں مشکل سے رہا ہوگا اور جموں زیادہ عرصہ قید ہوگا۔ اگر خانہ پانزدہم میں شکل داخل نمس ہو تو جموں تمام مقرر رہے گا۔ کیونکہ زائچہ میں خانہ ششم میں علقہ ہے تو جموں مشکل سے ہی نکلے گا۔

اگر شکل کیا جائے کہ فیہ کس سال میں ہے اور آتا پاتا ہے یا نہیں چار نمبر 3, 13, 2, 14 بتائے؟

اگر شکل ہضم سعد داخل ہے تو خوش و خرم ہے اور ارادہ آنے کا رکھتا ہے اور اگر شکل ہضم آئیس ہر دو اور



علقہ ہے تو تکلیف اور غمی میں ہے اور اگر شکل ہضم تو غالب خوش ہے مگر آنے کا ارادہ نہیں رکھا سعد خارج ہے خوش ہے اور آنے کا ارادہ بھی رکھتا ہے اور اگر سعد مطلب

ہے تو غالب راہ میں ہے جس مطلب ہے تو راہ میں ہے مگر پریشان ہے۔ اس زائچہ میں خانہ ہضم میں قبض الداعی ہے جو کہ سعد داخل ہے البتہ فیہ خوش ہے اور آتا پاتا ہے۔

سوال کیا گیا اور چار نمبر 1, 5, 11, 9 بتائے اور بیماری کس سبب سے ہوئی ہے؟

زائچہ کشید کر کے دیکھو خانہ ششم اور شکل طالع سے ضرب کر دو حاصل ضرب کو خانہ ششم میں دیکھو اگر شکل قبض القارج، علقہ اور آئیس ہو تو بیماری آسب کے سبب ہے اور اگر بیاض اور نصرة القارج ہو تو آسب ہے اور یہ شکل نصرة القارج اور قبض الداعی ہو تو جاہد کے

بیت حضرت عباس علیہ السلام اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہما + 0333-4704756 سن 25/9/2020

ڈاکٹر سید مسرور حسین رضوی

0345-2372669

masroorizvi63@yahoo.com

# جادو

جادو اور زبان کا معروف لفظ ہے۔ عربی میں اس کے لیے سحر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے لغوی معنی ہیں دھوکا دینا، حیلہ کرنا، فریفتہ کرنا، حقیقت سے پھرتا، باطل کو حق کی صورت میں ظاہر کرنا، کسی چیز کو ایسی طبع سازی کر کے پیش کرنا کہ دیکھنے والے حیران و ششدر رہ جائیں۔ اس میں مہارت اور تجربہ لازمی شے ہے۔ درحقیقت یہ باطل علم ہے مسلمانوں کے لئے اس کا سیکھنا اور سکھانا اور عمل کرنا کفر ہے ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو جادو جانتے ہیں لیکن جادو کا نام لے کر فراڈ کرنے والے اور نادانوں کو دھوکا دینے والے بہت ہیں اور دنیا کے ہر ملک اور قوم میں پائے جاتے ہیں درحقیقت یہ لوگ ابلیس کے نائب اور پیلے ہوتے ہیں اور انتہائی شاطر، مفاد پرست اور مکار ہوتے ہیں۔ وہ جنات و شیاطین کی تسخیر کرتے ہیں گندگی اور غلاظت کھاتے ہیں۔ ان کے دلوں میں انسانیت کی رشت بالکل بھی باقی نہیں رہتی اس لئے ان کا حشر بڑا عبرت ناک ہوتا ہے۔ یہ لوگ اکثر و بیشتر علاقوں میں موجود ہوتے ہیں۔ جاہل مرد اور عورتیں جن کا دین سے ذرا بھی تعلق نہیں ہوتا ان شیاطین کا شکار ہوتے ہیں اور اپنی زندگی کا سرمایہ جو بڑی محنت و اورنگ و دو کے بعد کمایا ہوتا ہے ان کی نذر کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات اپنی عزت اور جان عزیز بھی نثار کر دیتے ہیں۔ جادو کی آٹھ اقسام ہیں۔ جادو انسان کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ اگر کسی کو گولی مار دی جائے تو وہ اسی وقت مر جاتا ہے لیکن اگر کسی پر جادو کر دیا جائے تو وہ بلک بلک کر سسک سسک کر مرتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس لئے ہمارے مذہب میں جادو کرنا اور کروانا دونوں حرام ہیں۔ یہودیوں نے جناب رسول ﷺ پر جادو کر دیا تھا۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے نزول کی یہی وجہ ہے۔ ہمیں چاہئے کہ ہم دینی علم اتنا ضرور حاصل کر لیں جو ہمیں بنیادی باتوں سے آگاہ کر سکے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر اثر ہے۔ جب تک بدبو بالکل ختم نہ ہو جائے یہ عمل جاری رکھا جائے۔

**دوسرا طریقہ:** رات کی پہلی ہوئی تمیض یا بنیان لیں اس کو اونچی ٹیپ یا فیتے سے تاپ لیں۔ اس کے بعد اس پر سورۃ الفلق سورۃ الناس سورۃ اخلاص سورۃ الکافرون اور آیت الکرسی ایک ایک مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں۔ اب تمیض یا بنیان کو پھرنا نہیں۔ اگر تمیض یا بنیان کی لمبائی بڑھ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر جنات یا آسیب کا اثر ہے۔ اگر گھٹ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس پر جادو ہوا ہے اور اگر برابر رہے تو جسمانی بیماری ہے۔

**سحر و شوق:** اگر کسی نے جادو کر کے کوئی چیز گھر میں چھپا دی ہو یا دفن کر دی ہو اور اس کا پتہ چلانا ہو تو یہ عمل کیا جائے۔ تو تھوڑے سے پانی پر سورۃ الفطار پارہ ۳۰، تین مرتبہ پڑھ کر دم کی جائے۔ اس کے بعد اس پڑھے ہوئے پانی سے گھر کی دیواروں پر پھینٹے مار دیے جائیں یہ عمل مسلسل تین دن کیا جائے دعا کی جائے کہ یا رب العالمین اگر کسی نے جادو کروا کر کوئی شے چھپا دی ہے یا دبا دی ہے تو وہ نظر آ جائے، معلوم ہو جائے۔ انشاء اللہ وہ چیز ضرور نظر آئے گی اگر کوئی مشکوک چیز نظر آئے تو اس کو لکڑی سے ایک طرف کر کے تھوڑا سا پانی اس پر ڈال دیں اس طرح اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ ہاتھ سے بالکل نہ پکڑیں۔

عقائد ہوں یا معاملات عبادات ہوں یا اخلاق یا معاشرت ہم کو ہر بات کا بنیادی علم حاصل کرنا ضروری ہے اور فرض ہے تاکہ ہم اسلامی معاشرے کے اچھے فرد کی حیثیت سے اپنے فرائض کی ادائیگی پوری طرح کر سکیں۔ ہمیں چاہئے کہ ہم ہر وقت ظاہری اور باطنی طور پر پاک صاف رہیں۔ صبح و شام وہ دعائیں پڑھیں جن کی تاکید احادیث میں آئی ہے جن کے پڑھنے کے بعد دنیا کی کوئی طاقت ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تھوڑی سی فکر اور توجہ سے ہمارا ہر لمحہ حق تعالیٰ کی عبادت بن جائے گا۔ بس تھوڑی سی فکر توجہ اور اہمیت کی ضرورت ہے۔

**جادو شیاطین جنات کا اثر معلوم کرنے کا طریقہ:** مریض کے سر سے ہیر تک، پیشانی سے پاؤں کے انگوٹھے تک نیلے رنگ کے دھاگے کے گیارہ تار لے کر اکٹھا کر لیں۔ اب اس ڈورے کے تار سے مریض کا قدناپیں یعنی پیشانی سے انگوٹھے تک۔ اس کے بعد ڈورے کے ان گیارہ تاروں کی چار تہہ کر لیں اس کے بعد دھاگے کے ایک سرے پر ڈھیلی گرہ لگائیں سورۃ الفلق ایک مرتبہ پڑھیں اور گرہ پر پھونک مار کر کس دیں گرہ بند کر دیں اسی طرح گیارہ گرہیں لگائی جائیں اور پھونک مار کر بند کر دی جائیں۔ اب دھاگے کو جلتے ہوئے کونکوں پر ڈال دیں۔ دھاگہ جب جلتے گا تو اس میں سے بدبو آئے گی۔

# علم جفر کے گہر شات حرف ن

ڈاکٹر خالد شفیق السمع کلینک نزد ریلوے اسٹیشن بکھر

0334-6965512

## ن والقلم وما یسطرون

ن حروف مقطعات یا روحانی حروف سے اس کا تعلق ہے ن کے اعداد قمری 50 جن کا مفرد عدد 5 بنتا ہے اور ملقوی لون کے اعداد 106 ہیں جن کا مفرد عدد 7 ہے اور جدول ابجد شمسی میں ن کے مفرد عدد 7 ہیں اور لون = ن ون کے مفرد عدد 7 ہیں یہ روحانیت میں با کمال عدد ہے حرف ن کی منزل سماک اور اس کا موکل ثولائل ہے ن کا عنصر ہادی اور سمت اسکی مغرب ہے وہ اسما جن کے حروف ن آتا ہے وہ اپنے اندر مقناطیسی کشش رکھتے ہیں جو کہ ہر قسم کی بندشیں، رکاوٹیں ختم کر کے زندگی کی کامیابی کی راہیں کھول دیتے ہیں اور یہ لوح بندتالوں کی چابی ہے روحانی جسمانی تکالیف گھریلو ناچاقی روزگار کا نہ ملنا شادی میں رکاوٹ جو کہ ایک مرتبہ رشتہ دیکھنے آتے ہیں دوبارہ پلٹ کر نہیں آتے ناکامیوں کے بعد کامیابیوں کا آغاز اور خوشگوار زندگی پیام مسرت اور قسمت کا عروج میں ہونا اس لوح ن میں پوشیدہ ہے۔

**طریقہ** اپنا مکمل نام و مقصد کے حروف اور نقاط گن کر پھر ان اسماء کے نام کے حروف اور نقاط گن لیں پھر ان دونوں کو جمع کر کے 21 عدد نئی کر کے خانہ نمبر 13 تا 16 تک لوح کو اعداد میں تبدیل کر کے حروف میں پڑ کر لیں مثال عرفان رضا کے کاروبار میں ترقی ہو۔

حروف 26 نقاط  $10 + 26 = 36$  یا حنان یا منان یا سبحان یا دیان یا سلطان یا حسن یا حسین کے حروف و نقاط 43 ہوئے دونوں کو جمع کیا  $36 + 43 = 79$  نفی 21 عدد ہوئے بقا یا 58 کو حروف بنا کر لکھیں۔

علم جفر کے قاعدے کے مطابق

مثال اعداد 58 59 60 61  
حروف میں ح ن ط ن س اس

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ		اللّٰهُ صلی علی محمد و آل محمد	
1	ا	14	ط ن
2	ب	7	ز
3	ح	9	ح ا
4	د	4	د
5	ه	5	ه
6	و	16	س
7	ز	2	ب
8	ح	11	ه
9	ط ن	14	ا
10	س	15	و
11	ه	5	ح
12	ب	7	ز
13	ح	9	ح ا
14	د	4	د
15	و	16	س
16	ز	2	ب
17	ح	11	ه
18	ط ن	14	ا
19	س	15	و
20	ه	5	ح
21	ب	7	ز
22	ح	9	ح ا
23	د	4	د
24	و	16	س
25	ز	2	ب
26	ح	11	ه

ن والقلم وما یسطرون یا حنان یا منان یا سبحان یا سلطان یا حسن یا حسین عرفان رضا کے کاروبار میں ترقی ہو ن ن ن ن ن ن

## جادو کرنے والے کا پتہ چلانا

گیارہ دن کا عمل ہے۔ جمعرات سے شروع کیا جائے گا۔ عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر درود شریف گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھیں اس کے درمیان ۱۰۰ مرتبہ پڑھیں۔  
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ سُبْحٰنَكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا انتَ یٰ اَرَبُّ کُلِّ شَیْءٍ وَ مَا کَرِیْمٌ۔

## دوسرا عمل

سوتے وقت وضو کر لیں۔ دائیں کروٹ لیٹ جائیں۔ درود شریف گیارہ مرتبہ پڑھیں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نام بلا گنتی پڑھتے سو جائیں۔ دل میں خیال رکھیں کہ جس نے بھی کچھ کیا ہو نظر آ جائے۔ جب بھی سونے لگیں یہ عمل کریں انشاء اللہ خواب میں نظر آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام۔

## یا نور۔ یا باسط۔ یا ظاہر

پڑھے جائیں گے۔ جادو سے متعلق جو سوالات انسانی ذہن میں پیدا ہوتے ہیں وہ یہ جادو کس نے کیا؟

جادو کس طرح کیا گیا؟ جادو کروانے والا کوئی مرد ہے یا عورت یا مشرکہ طور پر کروایا گیا؟ جادو کروانے والا کوئی قرہبی عزیز ہے یا کوئی خونخو رشتہ رکھنے والے نے کروایا؟

ان تمام سوالات کے جوابات علم رمل کے ذریعے سے حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ جو کہ انبیائی علم ہے جو انگریزی زبان میں (GEOMANCY) کہلاتا ہے۔ جس کے سے مکمل معلومات کسی ماہر رمل کے ذریعے سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔

تحریر و تحقیق: ڈاکٹر سید مسرور حسین رضوی (کراچی)  
رابطہ: 0345-2372669-0311-6869786  
Whatsapp: 0345-2372669-0311-6869786  
Google Search: Syed Masroor Hussain Rizvi  
Web: talasheilm.blogspot.com

## مناجات امیر المومنین حضرت علی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
اللّٰہی کفنی فی عوٰا ان اکتون لک عبدًا و کفنی فی فخر ان تکون لی ربًا انت کما احب فاجعلنی کما احب  
**ترجمہ** میرے معبود میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں اور میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے تو ایسا ہے جیسا کہ میں چاہتا ہوں جس جیسے ویسا ہی بنا دے جیسا کہ تو چاہتا ہے (مفاتیح الجنان)

سعید شاعر اہلبیت  
خضر عباس پیاسی  
0346-7328884  
0333-6431553

# لوح فتوحات عظیمہ

خداوند تعالیٰ مسبب الاسباب ہے اس پر آشوب دور میں سچے دل سے خداوند قدوس کو ہی چارہ ساز بناؤ۔ وہی رحم کرے تو سب کچھ ہے ہر شخص آرام کی زندگی بسر کرنے کا خواہش مند ہے مگر قدرت کی طرف سے غیب سے امداد ہو تو سب مسائل حل ہوں گے اللہ تعالیٰ کے خزانے بھر پور ہیں وہی مدد فرمائے تو کام بنے گا۔ اگر ہم خداوند قدوس کے حضور عاجزی و انکساری سے درخواست کریں تو اس ذات بابرکت کے لیے ذرا بھر بھی مشکل نہیں ہے کہ غیب کے خزانے اور فتوحات کے تمام دروازے کھول دے۔ قرآن پاک کی عظیم سورہ مبارکہ سورہ کا نصر میں حضرت محمد ﷺ کی فتوحات عظیمہ کی بشارت دی گئی ہے۔ اس عظیم سورہ مبارکہ اور مقدس دعا سے **لوح فتوحات عظیمہ** تیار کرنے کا مجرب و لاٹھانی طریقہ تحریر کر رہا ہوں۔

امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالبؓ کے علم کا ادنیٰ سا کرشمہ ہے کہ اثرات و برکات اس لوح میں پنہاں ہیں۔ خدائے بزرگ و برتر کے حضور گڑگڑا کر دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ اس لوح کی برکت سے آپ کو ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔

یہ لوح ایک چلتا جاوے جس کے طلسماتی اثرات بہت قلیل مدت میں حامل لوح پر ظاہر ہوتے ہیں۔ جو مومن بھائی اس لوح کو تیار کر کے اپنے پاس رکھیں گے اس لوح کے فیض و برکات سے بہرہ ور ہوں گے اور اس کی قدر و قیمت ان پر ظاہر ہوگی۔

ضرب دیں۔ مثلاً  $4 \times 1291 = 5164$  یہ میزان دوم ہوئی۔ اب میزان اول سے میزان دوم کے اعداد تفریق کریں۔ میزان اول 9265 تفریق میزان دوم 5164 باقی اعداد 4092۔ ان باقی اعداد کو لوح کے خانہ اول میں تحریر کریں اب ہر خانہ میں اعداد طالب 1291 کا اضافہ کرتے ہوئے لوح کے تمام خانے پر کریں۔ مثلاً خانہ اول کے اعداد 4092 ہوں گے اب خانہ دوم میں  $4092 + 1291 = 5383$  تحریر کریں۔ اب خانہ سوم میں خانہ دوم کے اعداد میں اعداد طالب جمع کر کے تحریر کریں۔ اسی طرح ہر خانہ میں اعداد طالب کا اضافہ کرتے ہوئے تمام خانے پر کریں۔ مثالی لوح ظہیر احمد بن بلقیس کے لیے یہ تیار ہوئی۔

**طریقہ تیسری لوح** لوح تیار کرنے کا تفصیلاً طریقہ ایک مثال سے سمجھاتا ہوں تاکہ ہر مومن بہن بھائی اسے تیار کر کے فائدہ عظیم حاصل کر سکے۔ اول بسم اللہ کے اعداد قمری نکالیں۔ دوم حروف کی تعداد سوم نقاط کی تعداد تحریر کریں۔ تینوں تعدادوں کو جمع کریں اور مجموعہ کو یاد رکھیں اب اول اس دعائے مقدسہ کے اعداد قمری نکالیں دوم حروف کی تعداد، سوم نقاط کی تعداد تحریر کریں اور جمع کر کے مجموعہ کو یاد رکھیں۔

اعداد بسم اللہ	786	اعداد حروف	19	تعداد نقاط	4
مجموع اول	809	اعداد سورہ نصر	6124	اعداد حروف	80
تعداد نقاط	36	مجموع دوم	6240		

دعائے فتوحات **اللَّهُمَّ يَا فَتَّاحُ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَتْحِكَ يَا فَتَّاحُ**  
**ترجمہ** اے اللہ اے کھولنے والے، میرے لیے فتوحات کے دروازے کھول دے، اے فتح دینے والے

اعداد دعائے فتوحات = 2155  
تعداد حروف = 32  
تعداد نقاط = 20  
مجموع سوم = 2207  
اب تینوں مجموعوں کو جمع کر کے یاد رکھیں۔ مجموعہ اول = 809

مجموعہ دوم = 6240  
مجموعہ سوم = 2207  
میزان اول = 9256  
اب نام طالب معد والدہ کے اعداد قمری نکال لیں۔ مثلاً ظہیر احمد بن بلقیس کے لیے لوح فتوحات تیار کرنی ہے ظہیر احمد بن بلقیس کے اعداد 1270  
تعداد حروف 13  
تعداد نقاط 8  
مجموعہ 1291  
اب اس مجموعہ کو 4 سے

۷۸۶

۱۳۱۲۹	۱۷۰۰۲	۲۰۸۷۵	۲۰۹۲
۱۹۵۸۳	۵۳۸۳	۱۱۸۳۸	۱۸۲۹۳
۶۶۷۲	۲۳۳۵۷	۱۲۲۲۰	۱۰۵۳۷
۱۵۷۱۱	۹۲۵۶	۷۹۶۵	۲۲۱۶۶

اپنے نام کے حروف اول سے اپنا ستارہ معلوم کریں بس اپنے ستارہ کے متعلقہ دن اسی دن اسی ستارہ کی ساعت میں سفید کاغذ پر زعفرانی روشنائی جو مالورد سے تیار کی گئی ہو لوح تحریر کر کے قبہ کر لیں اور اپنے ستارہ کے منسوبی رنگ کے کاغذ یا ریشمی کپڑا میں لپیٹ کے خوشبو لگا کر اپنے پاس رکھیں ہر

Imamia Jantri Official By Iftikhar Book Depot . Download from Googleplay-IOsplaystore

## کرامات جعفر لوح تسمیر خاص

محمد اسد اللہ سلیمانی ماہر عملیات و تعویذات 0300-6501194  
ادارہ روحانی علاج محلہ گوہر شاہ مین بازار نزد عمر نیازی سنٹر جھنگ

قارئین امامیہ جنتری السلام علیکم! ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی اپنا خاص الخاص عمل لوح تسمیر خاص لیکر حاضر خدمت ہوں۔ جو بھی آزمائے گا ان شاء اللہ ضرور فیض اٹھائے گا۔ اگر آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہوں مثلاً ✨ تسمیر خلائق و محبوب ✨ میاں بیوی کی لڑائی جھگڑا ✨ کاروبار نہ چلنا ✨ نحوست سیارگان کی وجہ سے نقصانات کا ہونا ✨ سحر و جادو ٹونہ کی بندش کا شکار ہوں ✨ شادی کی پریشانی ✨ بیماری یا دشمنوں سے تحفظ وغیرہ کی وجہ سے اگر پریشان ہوں۔

**طریقہ عمل** نوچندی جمعرات کو علیحدہ کمرے میں داخل ہو جائیں پھر ساعت مشتری، شمس زہرہ یا قمر میں مشک و زعفران و عرق گلاب سے لوح تسمیر سفید یا گولڈن کاغذ پر تیار کر لیں۔ پھر درج ذیل آیت قرآنی 313 مرتبہ پڑھ کر لوح مبارکہ پر دم کر دیں اور نیاز بچتیں پاک کی دلا کر بچوں میں تقسیم کر دیں پھر لوح مبارکہ اپنے پاس رکھ لیں اور روزانہ وقت مقررہ پر وظیفہ 313 مرتبہ 21 روز تک پڑھتے رہیں۔ اور لوح مبارکہ پر دم کرتے رہیں۔ ان شاء اللہ 21 تا 41 روز میں اثرات آنا شروع ہو جائیں گے اور چہارہ معصومین جہنم کے طفیل زندگی میں خوشحالی آجائے گی۔ لوح مبارکہ کو چاندی کے خول میں بند کر کے پاس رکھنا ہے اور وظیفہ روزانہ 101 مرتبہ پڑھتے رہیں۔ وظیفہ یہ ہے۔

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (سورۃ التوبہ آیت 129-128)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ			
والشمس	۱۳۳	۱۵۵۲	والقمر
۱۵۵۱	۲۷۷	۲۳۶	۱۳۳
۳۷۵	۱۵۵۰	۱۳۵	۲۳۹
والنجوم	۲۳۸	۳۷۶	مسحرات ہمارہ

دن طلوع آفتاب سے ایک گھنٹہ بعد اسی ستارہ کی ساعت ہوتی ہے۔ اب روزانہ نماز فجر کے بعد صرف ایک تسبیح دعائے لتوحات پڑھ کر خدائے بزرگ و برتر کے حضور عجز و انکساری سے گڑگڑاتے ہوئے دعا کریں۔ ان شاء اللہ صدقہ معصومین بہت جلد اپنے مقصد کو پائیں گے۔ دعا پڑھتے ہوئے ترجمہ کو ذہن میں رکھیں۔ اپنے نام سے ستارہ معلوم کرنے کی جدول یہ ہے۔ میں نے ہر بات وضاحت سے تحریر کر دی ہے۔ **جدول**

انام	کواکب	سرنام حروف	منسوبی رنگ
ہفتہ	زحل	اب ج د	سیاہ
جمعرات	مشتری	ہ و ز ح	سبز
منگل	مرخ	ط ی ک ل	سرخ
اتوار	شمس	م ن س ع	طلابی
جمعۃ المبارک	زہرہ	ف ص ق ر	نیلا و سبز
بدھ	عطارد	ش ت ث خ	فیروزہ
سوموار	قمر	ذ ض ظ ط	سفید

شکر اللہ التماس سورہ فاتحہ شکر مولا سادات وغیر سادات مؤمنین و مومنات مرحومین

**انگوٹھی آغوش ابوطالب برکاتی انگوٹھی**  
ہر جائز کام میں فتح کے لیے مجرب الجرب ہے  
ان شاء اللہ تمام الواح سے زیادہ پر اثر ہے۔  
ہر 786 روپے مولا حسینؑ کی نیاز پاک کر خود بچوں میں تقسیم کر لیں اور اپنے مقصد میں کامیابی کی بچوں سے دعا کریں اور انگوٹھی دائیں ہاتھ میں تاکن لیں نام بمعہ والدہ ہمراہ رجسٹری جوابی لٹافہ ارسال کریں اور اپنا ایڈریس صاف جوابی لٹافہ پر لکھیں۔

## تضائے حاجات

نہایت مجرب عمل ہے شب کے آخری حصہ میں پادھو ہو کر قبلہ خلوت کی جگہ بیٹھ کر ایک ہزار مرتبہ یہ پڑھے  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ نَسْتَعِينُكَ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ  
ہر 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد کہے (اللَّهُمَّ اكْفِنِي حَاجَتِي) یہاں حاجت کا ذکر کرنے کے بعد کہے (أَنْتَ عَلَيَّ كَلْبِي وَقَدِيمِي) 33 رات متواتر عمل کرے



علامہ رضا عسکری اعوان  
0300-3210024  
0333-7014915

# روزگار شادی اور اولاد

السلام و علیکم و یا علی مدد! قارئین امامیہ جنتری! آغاز حمد و ثناء کے ساتھ اُس خدائے بزرگ و برتر کی جس نے انسان کو شعور و کبریا شرف بنایا۔ اور علم و آگہی سے آشنا کیا۔ اور علم سے دنیا کو مسخر کرنے کا ہنر دیا۔ کائنات کا کُل علم احسان ہے مولائے کائنات کا اور محمد و آل محمد کا جنکے وسیلہ سے آج دنیا علم سے آگاہ ہے۔ 2019 کے مضمون سے بہت سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا کئی بچیوں کے گھر آباد ہوئے اور کئی ایک کے گھر یلو ازدواجی مسائل اللہ کے کرم اور مولا کے فضل سے حل ہوئے۔ ایک شکوہ امامیہ جنتری کے قارئین اور دیگر ایسے لوگوں سے ہے۔

جو علم اور توکل و توسل میں تمیز نہیں رکھتے یا جانتے ہی نہیں کہ علم کیا ہے توکل کیا ہے اور توسل کیا۔ توسل آل محمد سے ہے توکل بر خدا ہے اور علم رکھتے ہوئے توکل کرنا اپنی حجت تمام کرنا ہوتا ہے۔ علم یا توسل آل محمد ہی ہم سب کو ملتا۔ علم اور توسل کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ توکل یہ کام کرتے ہیں آگے مقدر یا نصیب۔ علم نے آج انسان کو اتنا بلند کیا کہ انسان اپنے قدم کی اونچائی پا کر مغرور ہو جاتا ہے۔ خدا را عا جزئی انکساری رکھیں اور کسی سے حسد نہ کریں اور حسد کی بنیاد پر کسی کو کمتر بنانے اور خود کو مرتہ بنانے کی کوشش نہ کریں جان لیں حسد انسان کو قبر تک پہنچا دیتا ہے اور اسے وہ جہنمی بناتا ہے۔

[www.humaliwalayazar.com](http://www.humaliwalayazar.com)

**مرد کے زانچہ** میں زہرہ عورت اور عیش و نشاط کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اگر درج ذیل علامات لڑکے کے اور لڑکی کے زانچہ میں ہوں تو شادی اچھی ہوگی عورت بھاگوان مقدر والی ہوگی۔

**اگر لڑکی** کے زانچہ میں زہرہ پہلے دوسرے گھر میں سعد ہو تو لڑکی کے مقدر سے دولت مرد کو میسر آتی ہے حسین اور پرکشش ہوگی۔

**اگر لڑکے** کے زانچہ میں پہلے دوسرے گھر میں زہرہ نحس ہو تو مرد عیش و عشرت شراب نوشی اور فواحشات میں ملوث ہوگا۔ 2۔ زہرہ کا لڑکی کے زانچہ میں نویں دسویں گیارہویں گھر سعد ہونا لڑکی کے اولاد ہونے، اچھی شہرت اور عقل و دانش رکھنے اور گھر کو ستوارنے والی لڑکی ہوگی نویں کا زہرہ بیرون ملک سفرات اور دوہری شہریت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ یہی علامات مرد کے زانچہ میں بھی ہیں اگر زہرہ انہی گھروں میں نحس ہو تو مرد وزن کی شہرت اچھی نہیں ہوگی دین سے دور اور معاشرتی برائیوں کا شکار ہو سکتے ہیں

**اگر چھٹے گھر زہرہ** نحس ہو تو مرد وزن نحسی امراض کا شکار اور غلط تعلقات کا شکار ہو سکتے ہیں اسکے ساتھ ہی مادہ تولید کی کمی یا بیماریوں کی وجہ سے بانجھ پن کا شکار ہو سکتے ہیں۔

**اگر سعد** ہو تو اچھے ازدواجی تعلقات اور جلد شادی کے ساتھ جلد اولاد ہونے کے امکانات ہو سکتے ہیں۔ چھٹا گھر سرکاری ملازمت کا بھی ہوتا ہے ممکن ہے کہ مرد سرکاری ملازم ہو۔

**آٹھویں گھر زہرہ** کی موجودگی بچیوں کا ہو کر مر جانا۔ پٹھوں اور

ایک مثال ہمارے معاشرے میں زبان زد عام ہے کہ اولاد مرد کے نصیب سے اور رزق عورت کے نصیب سے ہوتا ہے۔ اکثر افراد اسکی حقیقت سے آشنا ہی نہیں ہیں۔ مولائے کائنات کا عقد سیدۃ النساء العالمین جناب فاطمہ سے ہوا۔ زمین و آسمانوں کا رزق جناب سیدہ کو حق مہر میں ملا اور رزق کی تقسیم مولا علی کرتے ہیں۔ آدم اول سے آدم آخر تک جو رزق ملتا رہا اور آنے والوں کو ملتا رہے گا یہ سارا تمک پانی سیدہ کا ہے۔ اسی بنیاد پر رزق عورت کے مقدر سے منسوب کیا جاتا ہے۔ مین اسی بنیاد پر یہ مضمون قارئین کی نظر کر رہا ہوں۔

علم نجوم کی وسعت بہت ہے اور صرف علم نجوم ہی نہیں ہر علم اپنی جگہ وسیع و عریض ہے۔ اگر علم الابدان میں مثال لے لیں تو بدن کے اکثر اعضاء کے اسپیشلسٹ الگ الگ ملیں گے۔ انسان کے بنائے ہوئے بندے کے اعضاء اتنے پیچیدہ اور اہم ہیں کہ ہر عضو کا ایک مخصوص ڈاکٹر ہوتا ہے۔ اور میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ایک عامل پر ایک وقت اعداد جعفریہ قیافہ نجوم اور عملیات کا ماہر کیسے ہو سکتا ہے مجھے تو آج بیس سالوں میں نجوم پر جب جب تحقیق کی تھی ابواب روشن ہوئے۔

**شادی اور روزگار:** نجوم میں زہرہ کو دولت کا کارک یعنی دولت کا باعث بننے والا ستارہ کہا جاتا ہے۔ اور نجوم میں ہی عورت کو زہرہ سے منسوب کیا جاتا ہے۔ جب کہ مشتری کو گرو کہا جاتا ہے عورت کے زانچہ میں مشتری کی موجودگی عورت کے دین پرست اور ایمان کو ظاہر کرتی ہے

ہو تو رزق حلال سے آسودہ حال ہوگا۔ مشتری چھٹے بار ہویں گھروں میں نحس ہو تو شریک حیات بیمار یا صحت کی خرابیاں ہوتی ہیں روپیہ پیشہ ناچائز طریقہ سے کمائے اور دولت پرست کنجوس ہوگا۔ اگر سعد ہو تو مشتری انہی گھروں میں اچھے ثمرات دیتا ہے۔

**ہم مزاج** ہونا قمر کی منزل سے دیکھا جاتا ہے اگر شوہر کی کمائی اچھی ہو اور میاں بیوی میں مزاج آشنائی نا ہو تو ایسے میں عورت مرد کی دولت کو بے جا اصراف میں خرچ کرتی زندگی کی آسائشوں اور دیگر غلط طریقوں سے دولت لٹانے کا باعث تو بنتی ہی ہے لیکن گھر کا ماحول اچھا نہیں ہوتا میاں بیوی کے زانچوں میں مزاج آشنائی اور ہم مزاج ہونا گھر کو جنت بنا دیتا ہے۔ آج کل کے دور میں طلاق کی بڑی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ ہم مزاج نا ہونا ہے پرانے وقتوں میں لڑکیاں اپنا نصیب سمجھ کر خاموش ہو جاتی تھیں مگر آج کل ایسا نہیں ہوتا۔ مولا علی کا قول ہے رشتہ داری ہمیشہ اپنے برابر یا اپنے سے کمتر لوگوں میں کرو۔ ایسا کرنے سے ایک جیسا ماحول لڑکی کو میسر آتا ہے۔ لیکن انیسویں آج کل والدین دولت اور امیر رشتوں کو ترجیحی تو دیتے ہیں شرافت کو ترجیحی نہیں دیتے جسکی وجہ سے معاملات طلاق تک پہنچتے ہیں۔

**وقت نکاح** میں ستاروں کی نشست کے اثرات ازدواجی زندگی پر کس قدر مرتب ہوتے اس کا ادراک نجوم جاننے والا نکاح کا زانچہ بنا کر دیکھ لیتا اور بتا دیتا ہے۔ قارئین جب نکاح کے وقت سے آپکے حالات کشیدہ کئے جاسکتے ہیں تو اچھے وقت کا انتخاب کرنا لڑکے لڑکی کے لئے نہایت مناسب ہوگا۔ **قول معصوم** ہے کہ منگل کے دن کسی نئے کام کی ابتدا نا کر و منگل کا دن مریخ سے منسوب ہے۔ مریخ کی سماعتوں میں ابتدا کئے گئے کام اکثر برائی پر منتج ہوتے ہیں۔ نکاح کے اوقات میں منگل کا دن مسلم معاشرے میں نہیں رکھا جاتا جبکہ ہندو معاشرے میں اکثر شادیاں منگل کے دن رکھی جاتی ہیں اسکی علمی توجیح آج قارئین کی نظر کرتا ہوں منگل کے دن نکاح کرنے سے مرد عورت پر حاوی رہتا ہے اور عورت ساری زندگی مرد کی حاکمیت میں چلی جاتی ہے۔ نکاح جمعہ کے دن مسلم معاشرے میں نیک سمجھا جاتا ہے اسکی علمی وجہ بھی یہ ہے کہ جمعہ کا دن زہرہ یعنی عورت سے منسوب ہے۔ زہرہ محبت کا ستارہ بھی ہے۔

قارئین آپ کو یہ علمی معاملات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی زندگی میں علم سے استفادہ کریں اور آسائیاں پیدا کریں بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے لیکن علم آپکو مشکلات اور تکالیف سے بچاتا ہے۔ اپنے بچوں کی

رگوں کی تکالیف کا رونما ہونا بوا سیر کی تکالیف شریک حیات کو ہو سکتی ہیں لڑکی کے زانچہ میں نحس ہو تو کردار کی خرابی کو ظاہر کرتا ہے۔ غلط ذرائع سے دولت کا حصول بناتا ہے۔ بارہویں گھر زہرہ خفیہ تعلقات کی نشاندہی کرتا ہے۔ خواہ مرد و زن کا زانچہ ہو اگر زہرہ چھٹے آٹھویں کا مالک ہو تو ایسا ہوتا ہے۔ **اولاد کا نا ہونا** زہرہ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے زہرہ مادہ تولید پر حکمران ہے اگر مرد یا عورت کے زانچہ میں زہرہ نحوست کا شکار ہو تو مادہ تولید کی کمزوریاں مرد و زن کو اولاد سے محروم کر سکتی ہیں اسکے ساتھ قمر کا تعلق قرار حمل سے ہے اگر قمر اور زہرہ نکاح کے زانچہ میں اچھے ہوں تو اولاد کی نوید شادی کے ابتدائی دو سے تین ماہ میں مل جاتی۔ قمر مادہ تولید میں پائے جاتے والے نطفے سے تعلق رکھتا ہے لہذا اگر قمر نحس ہو تو مادہ تولید میں کر دھوسوم جو کہ نطفہ بننے کا باعث بنتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں جسکی وجہ سے اولاد میں تاخیر یا نچھ پن ہو سکتا ہے اسکے ساتھ ہی مردوں میں جریاں اور مادہ تولید کی کمی ہونے کے ساتھ عورتوں میں زنانہ مسائل یا لیکوریا کا باعث بھی بنتا ہے۔ اگر زانچہ ولادت میں اس قسم کی کمی پائی جائے تو وقت نکاح کے زانچہ میں ان ستاروں کو مثبت رکھ کر وقت نکاح تجویز کرنے سے علاج معالجہ سے معاملات میں بہتری کے قومی امکانات ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں سرطان، عقرب اور حوت بار آور یا FERTAIL بروج ہیں ان بروج میں یا تو طالع برج رکھا جائے یا ان بروج میں سے کسی بھی برج کو پانچویں گھر میں اسطرچ رکھا جائے کہ کوئی سعد ستارہ ان بروج میں موجود ہو تو وقت نکاح میں اولاد نہ ہونے کے معاملات حل کئے جاسکتے ہیں۔

**مشتری کی زانچہ** میں موجودگی شادی بیاہ کے زانچہ میں دیکھنا لازمی ہوگا اگر لڑکی کے زانچہ میں مشتری پہلے دوسرے چوتھے ساتویں دسویں گیارہویں گھروں میں سعد ہو تو ایسی لڑکی بھاگوان ہوگی مرد کے رزق روزی میں اضافہ اور اولاد کی بہترین تربیت کا باعث بنتی ہے۔ اگر انہی گھروں میں لڑکی کے زانچہ میں اعلیٰ نظرات شرف اوج یا اپنے گھروں کا مالک مشتری بیٹھا ہو اور یوگ بنا رہا ہو تو مرد کے کاروبار، روزگار ملازمت میں ترقی اور گھر کو جنت بنانے کا باعث بنتی ہے۔ یہی نظرات نحس ہوں تو مرد کی مالی کاروباری حیثیت رو بہ زوال ہو جاتی ہے اور آمدنی و دولت کا حصول مشکل اور نقصانات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مرد کے زانچہ میں یہی نظرات سعد ہوں تو مالی آسودگی اور اچھی زندگی گزارنے کے ساتھ دین دار ہوگا خصوصاً اگر مشتری پہلے دوسرے نویں گھروں میں سعد

مولانا  
گلفام علی حسینی  
0321-4534910  
0300-4534910

## لوح نادعلی

لوح نادعلی کو نو چندی جمعرات کے دن زعفران و مشک و عرق گلاب سے سفید کاغذ تحریر کریں۔ اور دھونی صندل سرخ اور لوہان کی دیکر اپنے پاس رکھیں۔ ان شاء اللہ سب مشکلات سہل و آسان ہونگی۔ دشمنوں پر غلبہ ہوگا۔ سحر و جادو و بد اثرات سے کامل حفاظت ہوگی۔ نماز کی پابندی کریں ہر نماز کے بعد اٹھارہ مرتبہ نادعلی ضرور پڑھ کر دعا کریں۔ مولا کریم رحمہ ربمائے گا۔ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو رابطہ کریں۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تَدْرِ عَلِيًّا	مَظْهَرِ	الْعَجَابِ	تَجِدُهُ	عَوْنًا لَكَ	فِي	النُّوَابِ
مَظْهَرِ	الْعَجَابِ	تَجِدُهُ	عَوْنًا لَكَ	فِي	النُّوَابِ	كُلِّ
الْعَجَابِ	تَجِدُهُ	عَوْنًا لَكَ	فِي	النُّوَابِ	كُلِّ	هَجْرٍ
تَجِدُهُ	عَوْنًا لَكَ	فِي	النُّوَابِ	كُلِّ	هَجْرٍ	وَ
عَوْنًا لَكَ	فِي	النُّوَابِ	كُلِّ	هَجْرٍ	وَ	عَجْرٍ
فِي	النُّوَابِ	كُلِّ	هَجْرٍ	وَ	عَجْرٍ	سَيَنْتَجِبُ
النُّوَابِ	كُلِّ	هَجْرٍ	وَ	عَجْرٍ	سَيَنْتَجِبُ	بِعَلَى

### اسرار حروف و اعداد و عملیات جاننے کے لیے

فیض حسینی میں داخلہ لینا ہوگا۔ اپنا نام والد اور والدہ کا نام، تاریخ پیدائش مکمل پتے کے جوابی لفاظی ارسال کریں۔  
گلفام علی حسینی  
0321-4534910, 0300-4534910

### تحفہ عظیم حرز دار فہماریت

نہایت اہتمام کے ساتھ موم جامہ کیا گیا ہے۔ اس تعویذ مبارک میں جوشن کبیر کے علاوہ سورہ یسین، آیت الکرسی، چہار نقل، سورہ مزمل اور نادعلی شامل ہیں۔

30/- ہار و بندہ 20/- ہار

Ph: 042 37223686

کے وقت زانچہ ملانا اور درست وقت نکاح کا انتخاب آپ کے بچوں کے مستقبل کے لئے بہتر ہوگا۔

دعا کیجئے گا اللہ و مولا مجھے آپ کو ہم سب کو حسد سے بچائے۔ باتیاں امامیہ جنزری آغا ثار احمد مرحوم اور میرے والدین کے لئے ایک سورہ فاتحہ کی درخواست کے ساتھ دعا گو ہوں مولا امام زمانہ آغا ثار صاحب کو صحت سلامتی دے اور انکی توفیقات میں اضافہ کریں۔



آسان اردو میں مکمل

ویب سائٹ وزٹ کریں

ماہانہ رسالہ نہ زاپے، ستاروں کی نحوست و سعادت اور ترقی و ترقی کے ساتھ جانیں مسائل کا حل۔ نوروز و عالمی حالات، نجوم سیکھنے والوں کے لیے اسباق، اعداد و دست شناسی پر مکمل مضامین اور ریل پر سیر حاصل مضامین، نجوم و جنرل سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈنگ اور تحقیقی مواد کیساتھ سیکھنے، نقوش اور عملیات کا فن، نجوم و جنرل اعداد کے شائقین آن لائن علوم بخفیہ سیکھیں

ماہانہ میگزین جنرل صفحہ کا آن لائن مطالعہ کریں

[www.accuastro.com](http://www.accuastro.com)

Accuastro@skype.com Accuastro@facebook.com

نام رضا اسکری ایمون، نواب شاہ، کراچی پاکستان  
0092-300-3210024, 0092-333-7014915

[www.accuastrology.com](http://www.accuastrology.com)



Natal Horoscope Match Making Mahurat  
Election Astrology Yearly Predictions and  
much moor . Clicik for our services

[www.accuastrology.com](http://www.accuastrology.com)

Email info@accuastrology.com

Raza Askri . Ph0092-3003210024- 0333-7014915

ماہ نور فاطمہ

ڈینس نیرا لاہور

0307-2102288

0333-4194017

# محبت فاتح عالم

محبت کے لیے  
خاص عملیات

کہ سفید حریر کے کپڑے پر 35 مرتبہ (اَلْوَدُوْدُ) لکھ کر اپنے پاس رکھے تو لوگوں کے دلوں میں محبوب ہو جائے گا۔

**میاں بیوی کی محبت کے لیے** میاں بیوی کی محبت کے لیے مندرجہ ذیل آیت کریمہ کے اعداد نکال کر چاندی کی تختی پر یا کاغذ پر زعفران و کستوری سے نقش مثلث ترتیب سے پڑھیں اور اس نقش کے ارد گرد آیت مذکورہ لکھیں اور نیچے طالب و مطلوب (شوہر اور بیوی) کے نام مع والدہ تحریر کریں اور دھو کر خاوند اپنی بیوی یا بیوی اپنے شوہر کو پلا دے تو نہ ختم ہونے والی محبت پیدا ہوگی اور دونوں میاں بیوی کی اچھی محبت ہوگی آزمودہ ہے اور آیت یہ ہے۔ اس آیت کے کل اعداد 3834 ہیں بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ عَسَى اللّٰهُ اَنْ یَّجْعَلَ بَیْنَكُمْ وَبَیْنَ الذِّیْنَ عَادَیْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً ط وَاللّٰهُ قَدِیْرٌ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ (ممتہ 7)

۱۰۰۲	۱۰۹۷	۱۰۰۲
۱۰۰۳	۱۱	۱۰۹۹
۱۰۹۸	۱۰۱۵	۱۱۰۰

اسے اردو میں پکھراج اور انگریزی میں ٹوپاز کہتے ہیں۔ اسکا شمار قیمتی جواہرات میں ہوتا ہے اسکے نایاب رنگوں میں گلابی، زرد، پیلا، پیازی، اور سفید بھی ہیں۔ **مقام پیدائش** دنیا کے کئی ممالک میں اسکی کانیں دستیاب ہیں۔ مثلاً سیلون، برازیل، روس، جاپان، آسٹریلیا، سماٹریا، شمالی تائیچریا اور جنوبی افریقہ وغیرہ۔ دنیا کا بہترین گلابی پکھراج کالنگ (مردان) سے نکلتا ہے۔ **نوٹ** ہمیری لیکن نیلم قدرت کے سات رنگوں میں دستیاب ہے۔ بعض نہیں اکثر لوگ yellow Sapphiri کو بھی زرد پکھراج کہتے ہیں "مگر یہ غلط ہے" **پکھراج کے سحری خواص** اس کا انگوٹھی میں پہننا دم و نفس کو دور کرتا ہے اس کے پہننے سے جسم کی قوت، طاقت، عقل اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے، قوت ارادی بلند ہوتی ہے۔ کاروباری الجھنیں دور ہوتی ہیں۔ پکھراج کو پہننے سے انسان خوشی محسوس کرتا ہے اور خوش گوار عادات کا عادی ہو جاتا ہے۔ محبوب کے سامنے پہن کر جانے سے محبت بڑھتی ہے۔ **پکھراج کے طبی خواص** پکھراج کا ذائقہ ترش اور مزاج سرد ہوتا ہے۔ جلدی امراض میں پکھراج کا استعمال مرہم کی حیثیت رکھتا ہے پکھراج کا استعمال ہر قسم کے ورم کو تحلیل کرنے میں اکثر کاردرجہ رکھتا ہے۔ خون کے سرطان میں طبی طریق سے اسکا کشتہ انتہائی مفید ہے۔

تاریخیں کرام السلام علیکم! تاریخیں اس سال محبت و الفت اور محبت میں ناکامی کے لیے اپنے خاص اور آزمودہ عملیات لیکر حاضر ہوں اور پر امید ہوں کہ آپ اس سے بھرپور رہنمائی حاصل کریں گے اور مجھ ناچیز اور آغا افتخار حسین صاحب کے حق میں دعا فرمائیں گے۔ عملیات اور ان کا طریقہ کار واضح اور صاف صاف لکھ دیا ہے پھر بھی اگر کسی لفظ یا جزو کی سمجھ نہ آئے تو کال کر کے پوچھ لیں۔ کوئی بھی عمل شروع کرنے سے پہلے اجازت شرط ہے۔ خواتین اپنے ہر قسم کے مسائل کے حل کے لیے رابطہ کریں۔

**افسر مہربان ہو** اگر کوئی ملازم اپنے افسر سے تنگ ہو تو اسے چاہیے کہ 7 روز تک بلا نافرمانی بعد نماز عشاء (مغربین) ہر روز اس دعا کو 203 مرتبہ پڑھے اور اول و آخر پانچ مرتبہ درود شریف پڑھے بفضل خدا افسر طبع ہو گا وہ دعا یہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِیْمُ الْکَرِیْمُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَمَانَ الْخَائِفِیْنَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ **لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو** اگر کسی شخص کو لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنا مقصود ہو تو اسے چاہیے

## نگینہ پکھراج کے خواص (TOPAZ)

تحریر حکیم مظفر علی رضوی المعروف جوہرے 0300-4519796

سفید اور پیازی پکھراج گلگت اور افغانستان میں دستیاب ہے۔ **نوٹ** ہمیری لیکن نیلم قدرت کے سات رنگوں میں دستیاب ہے۔ بعض نہیں اکثر لوگ yellow Sapphiri کو بھی زرد پکھراج کہتے ہیں "مگر یہ غلط ہے" **پکھراج کے سحری خواص** اس کا انگوٹھی میں پہننا دم و نفس کو دور کرتا ہے اس کے پہننے سے جسم کی قوت، طاقت، عقل اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے، قوت ارادی بلند ہوتی ہے۔ کاروباری الجھنیں دور ہوتی ہیں۔ پکھراج کو پہننے سے انسان خوشی محسوس کرتا ہے اور خوش گوار عادات کا عادی ہو جاتا ہے۔ محبوب کے سامنے پہن کر جانے سے محبت بڑھتی ہے۔ **پکھراج کے طبی خواص** پکھراج کا ذائقہ ترش اور مزاج سرد ہوتا ہے۔ جلدی امراض میں پکھراج کا استعمال مرہم کی حیثیت رکھتا ہے پکھراج کا استعمال ہر قسم کے ورم کو تحلیل کرنے میں اکثر کاردرجہ رکھتا ہے۔ خون کے سرطان میں طبی طریق سے اسکا کشتہ انتہائی مفید ہے۔

سید محمد اجمل

H.NO 260 STREET 116  
I-10/4 ISLAMABAD  
0335-5555150

## دُعا اور شفا یابی

السلام علیکم ویا علی مدد! امامیہ جنتری گذشتہ کئی سالوں سے مطالعہ میں ہے۔ روحانی مخفی اور اسلامی علوم کے لحاظ سے ایک جامع جنتری ہے۔ سوچا اپنی تحقیق کو بھی عوام الناس تک پہنچانے کی ایک ادنیٰ سی کوشش کروں۔

قارئین دعا کا حکم قرآن اور سنت نبوی و معصومین میں موجود ہے۔ ایک شخص جب امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آ کر گویا ہوا مولا دعائیں قبول نہیں ہوتیں کیا کروں مولانا نے کہا اول و آخر محمد و آل محمد پر درود بھیج کر دعا مانگو بارگاہ تعالیٰ میں دعا رد نہیں ہوگی۔

جدید روحانی علوم میں ہیملنگ HEALING نے گذشتہ تین سے چار عشرون میں کافی ترقی کی ہے۔ HEALING کے بنیادی معنی شفا یابی کے ہیں۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت اور دعا سے بیماریوں کے علاج کی خصوصیات سے نوازا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بڑھیا کا شفا یاب ہونا لعاب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم سے روز خیبر مولا علی کا آشوب چشم دور ہونا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوڑھیوں کو شفا یاب کرنا تاہنا کو پینا دینا دعا انبیاء کی وجہ سے ہی تھا۔ ہیملنگ میں کئی علوم اس وقت دنیا میں رائج ہیں جس میں ریکی رنگ دروشنی سے علاج اور ٹیلی پتھی پناؤم ہیملنگ کی چند اقسام ہیں۔ جدید دنیا میں PENDULUM HEALING شفا یابی کے مختلف امراض جسمانی و روحانی میں مستعمل ہے۔ پنڈولم ہیملنگ کیا ہے کچھ وضاحت قارئین کی آسانی کے لئے کر دوں۔

NICOLA TESLA جس نے بجلی ایجاد کی اس کا فارمولا تھا  $E=MC^2$  اس فارمولا کی بنیاد پر ایٹم بم بنا لیا گیا۔ یہی فارمولا کسی بھی روحانی عمل میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں E سے مراد انرجی یا قوت ہے یہ قوت عمل کرنے والے عامل کی ہوتی ہے۔ M سے مراد موٹن یا تحریک ہے عامل کی قوت روحانی سے تحریک پیدا ہوتی ہے۔ اور C سے مراد فریکوئنسی ہے۔ یعنی عامل کی روحانی قوت کی وسعت اور طاقت کتنی ہے یعنی عامل کی روحانی قوت جتنی متحرک ہوگی اور جتنی قوت بخش ہوگی کیا گیا عمل اتنا ہی پراثر اور پائیدار ہوگا۔ پنڈولم ہیملنگ میں کوئی تعویذ دھاگہ نہیں کیا جاتا۔ بلکہ روحانی قوت سے کام لیا جاتا ہے اور سائل کو تشخیص کے بعد مخفی قوت سے پاک کیا جاتا ہے جس سے سائل کو شفا یابی ہوتی ہے۔

**علامہ شاد گیلانی مرحوم** رٹل اور جنر کے ماہر ہونے کے ساتھ ہومیو پتھک ڈاکٹر بھی تھے۔ مرض کی تشخیص کے بعد مختلف ادویات کو تجویز کرتے اور پھر پنڈولم سے سب سے زیادہ شفا بخش دوا کا انتخاب کرتے اور مریض کو استعمال کرواتے تھے (کتاب ارتکا توجہ سے اقتباس) **پنڈولم** کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔ پنڈولم دھات یا شیشہ کا بنا ہوا ایک گولہ یا ٹونما آلہ ہوتا ہے۔ بعض ماہرین وقت ضرورت ایک سکہ میں دھاگہ یا تار باندھ کر پنڈولم بنا لیتے ہیں۔ اول پنڈولم کو عامل اپنی روحانی قوت سے منسلک کرتا ہے اور پنڈولم کو سوالات جو ابات کا پابند کرتا ہے۔

پنڈولم کی بنیاد ہیملنگ نے گذشتہ تین سے چار عشرون میں کافی ترقی کی ہے۔ HEALING کے بنیادی معنی شفا یابی کے ہیں۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت اور دعا سے بیماریوں کے علاج کی خصوصیات سے نوازا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بڑھیا کا شفا یاب ہونا لعاب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم سے روز خیبر مولا علی کا آشوب چشم دور ہونا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوڑھیوں کو شفا یاب کرنا تاہنا کو پینا دینا دعا انبیاء کی وجہ سے ہی تھا۔ ہیملنگ میں کئی علوم اس وقت دنیا میں رائج ہیں جس میں ریکی رنگ دروشنی سے علاج اور ٹیلی پتھی پناؤم ہیملنگ کی چند اقسام ہیں۔ جدید دنیا میں PENDULUM HEALING شفا یابی کے مختلف امراض جسمانی و روحانی میں مستعمل ہے۔ پنڈولم ہیملنگ کیا ہے کچھ وضاحت قارئین کی آسانی کے لئے کر دوں۔

1602 عیسوی میں Galileo Galilei نے پنڈولم کی سائیکسی ایجاد کی اور 1658 میں پہلا پنڈولم کلاک ایجاد کیا گیا جس سے وقت کی درست پیمائش دنیا میں سامنے آئی۔ قدیم زمانے میں اور آج کل بھی دیہاتوں میں زیر زمین پانی کی تلاش کے لئے ایک چھتری استعمال کی جاتی ہے جسے DEVINE ROD کہا جاتا ہے۔ زیر زمین تیل کی تلاش کرنے والی کمپنیاں بھی یہ طریقہ آج تک استعمال کرتی ہیں

پنڈولم کی بنیادی طور پر تین قسمیں ہوتی ہیں جن کے نام ۱۔ کارنگ پنڈولم کی شکل گولی نما ہوتی ہے اس کا تعلق سبز رنگ سے ہوتا ہے۔ عمومی طور پر شیشہ کا بلور یا چاندی کی ایک گولی بنا کر اس میں ڈوری لگا کر بنایا جاسکتا ہے۔ ۲۔ ۱۔ سیس پنڈولم کی شکل گول پیلن نما ہوتی ہے جسکے آخر میں پھیپہ نما گول کٹائی کی جاتی ہے۔ یہ بنیادی طور پر سفید روشنی سے منسلک ہوتا ہے۔ ۱۳۔ اوسیرس پنڈولم۔ یہ پنڈولم بھی پیلن نما گول ہوتا ہے لیکن اس پنڈولم

خدمت میں پیش ہے۔ ایک سائل کو آپ کامیابی کی جانب لے جاننا چاہتے ہیں تو سائل کی تصویر مع نام و والدہ کے لیکر پاس رکھیں۔ پنڈولم سے منفی اثرات کی تشخیص کریں اور مثبت روحانی طریقوں سے پہلے سائل کی منفی قوتوں کا ازالہ کریں۔

**اگر ہمت و حوصلہ کی کمی ہے تو مریخ کی مثبت قوتوں سے پنڈولم کو منسلک کریں اور کہیں مریخ کی شجاعت ہمت حوصلہ کی مثبت قوتوں سے منسلک ہو جائے۔ پنڈولم منسلک ہو کر رک جائے گا اب پنڈولم کو حکم دیں مریخ کی مثبت قوتوں سے قلاں بن قلاں کو ہمت حوصلہ اور شجاعت سے ہمکنار کر دو**


**حصول دولت کے لئے سائل کی تصویر نام مع والدہ کے لیکر پہلے منفی قوتوں سے پاک کریں۔ اگر آپ کے پاس صلاحیت ہے تو براہ راست پنڈولم کو ستارے کی مثبت قوتوں سے منسلک کریں یا ایک اعلیٰ مشتری کا شرف پاس رکھیں اور پنڈولم کو مشتری کی روحانی قوتوں سے منسلک کریں اور انہی قوتوں کو سائل کی جانب ٹرانسفر کر دیں**

**روحانی طور پر اگر آپ کسی خاص اسم اعظم کی چلہ کشی کر چکے ہیں جیسے یاودود یا باسط یا رحمن یا رحیم یا کوئی اور اسم اعظم تو آپ اپنے حاصل شدہ روحانی قوتوں کو پنڈولم کے ذریعہ سے دعائیہ کلمات ادا کرتے ہوئے کسی بھی سائل کو تقویٰ بخش کر سکتے ہیں۔ روحانی اذکار کی قوت پنڈولم کے ذریعہ سے مریض کو نفع کی جاتی ہے۔ جس سے سائل کو شفاء ملتی ہے۔**

پنڈولم کا استعمال روحانی اور آسمانی اثرات میں کمال کے نتائج دیتا ہے چونکہ آسمانی امراض نفسیاتی طور پر متاثر کرتے ہیں لہذا مریض کی نفسیات کا کامیاب علاج پنڈولم سے ممکن ہوتا ہے۔ ہیلتھ کا دورانیہ مریض کی نوعیت اور شدت کے حساب سے طویل یا مختصر ہوتا ہے۔ میں نے پنڈولم

ہیلتھ کا طریقہ امریکہ کے مشہور ہیلتھ ERICH HUNTER سے سیکھا اور اپنے اطراف میں آزمائش کے بعد امامیہ جنتری کے قارئین کی نظر کر رہا ہوں۔ پنڈولم ہیلتھ سے متعلق کوئی سوال یا کوئی فرد سیکھنا چاہے یا کسی مسئلہ کا شکار ہو تو میں حاضر ہوں۔ بانیاں امامیہ جنتری کے لئے خصوصی دعا گو ہوں مولانا نہیں علم کی ترویج کا ذریعہ بنائے رکھے۔

پنڈولم کی اقسام



ایک بات کا خاص خیال رہے کہ پنڈولم سے سوالات جو ابات لیتے ہوئے اور ہیلتھ کرتے ہوئے آپ اپنے ذہن کو خالی رکھیں اور خود سے کسی جانب کی توقع اگر آپ اپنے ذہن میں رکھ کر سوال کریں گے تو جواب مشکوک آسکتا ہے۔ جب پنڈولم کو حرکت دی جاتی ہے تو اول پنڈولم آگے پیچھے حرکت کرتا ہے اور اور چند لمحوں میں گول دائرہ نما گھومنا شروع کر دیتا ہے۔ پنڈولم کے گھومنے ہوئے دائرے کی وسعت سے پنڈولم کی انرجی کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ یہاں ایک وضاحت یہ بھی ضروری ہے کہ عمومی پنڈولم کلاک دائرہ حرکت کرتے ہیں۔ تاہم پنڈولم کو اپنی روحانی قوت سے منسلک کرتے ہوئے پنڈولم کے گھومنے کی سمت کو منفی یا مثبت کا پابند بنایا جاسکتا ہے۔ دوم پنڈولم سے چند سوالات کر کے پنڈولم کے درست جوابات کا معائنہ کیا جاتا ہے۔ پنڈولم کو جنبش دے کر کہیں۔ اپنی مثبت قوت کا اظہار بتاؤ۔ اب پنڈولم دائیں یا بائیں گول حرکت کر کے اپنی مثبت قوت کا اظہار کرے گا۔ اسی طرح منفی قوت مثبت کے الٹ مانی جائے گی۔ (اگر سوال کا جواب مثبت ہو تو جواب کیسے ہوگا) پنڈولم کی حرکت آپ کے سوال کا جواب دائیں یا بائیں گھوم کر جواب دے گا اسی طرح دیگر سوالات جو ابات کا پابند پنڈولم کو بنایا جاتا ہے۔

**تشخیص مرض** اگر آپ رنگوں روشنی سے علاج کرتے ہیں تو ایک رنگوں کا چارٹ سامنے رکھیں اور پنڈولم سے اس طرح سوال کریں۔

زید بن بکر کے ساتھ کیا مسئلہ سے اور کس رنگ کی وجہ سے صحت خراب ہے۔ اب پنڈولم کو حرکت دیں پنڈولم گھومنا شروع ہوگا اور کسی ایک رنگ پر آکر رک جائے گا۔ اگر سرخ رنگ پر رک جائے تو یا قوت کا پتھر سرخ صدقات اور سرخ پھلوں کا استعمال مریض کے لئے شفاء بخش ہوگا۔

اگر آپ **نجوم کے ماہر** ہیں اور سائل کو تاریخ ولادت یا دانا ہو تو آپ اس طرح سوال کریں۔ زید بن بکر کے ساتھ کس ستارے کی نحوست یا کمزوری ہے۔ اب آپ ایک گول دائرہ میں سات ستاروں کی اشکال یا نام لکھ کر پنڈولم کو جنبش دیں پنڈولم حرکت کرتا ہوگا کسی ایک ستارے پر رک جائے گا اس ستارے سے منسوب علاج کریں صدقات دیں تو سائل کو آفاقہ ہوگا۔

اگر سائل کے ساتھ **جادو** یا سبب کی تشخیص کرنی ہو۔ مریض کے ساتھ معاملہ کیا ہے اور مریض کس قسم کی منفی قوت کی وجہ سے مرض کا شکار ہوا ہے۔ جادو اثرات ستاروں کی نحوست یا کوئی آسمانی اثر ہے اس بات کا تعین کرنے لئے پنڈولم کے ذریعہ سے بار بار تشخیص کی جاتی ہے۔

**حصول دولت اور کامیابی کے لئے ایک راز قارئین کی**

تنویر عسمری، ایم اے

راولپنڈی

0333-5398050

# علم الاعداد کا مجرب ترین فالنامہ

تخلیق کائنات سے لے کر آج تک انسان نے تو حید خداوندی کی معرفت اس طریقے سے حاصل نہیں کی جس طرح خالق نے اپنے رہبروں کے ذریعے کروانے کی کوشش کی۔ لیکن انسان نے اپنی انا کی سرکشی کو مسئلہ بنا کر شیطان کی پیروی میں ایک نظام ہر دور میں برقرار رکھا۔ دنیاوی ترقی کے لیے تجسس کا فطری ہونا ناگزیر تھا۔ اسی سبب دنیاوی ترقی نے کائنات کی تسخیر پر فخر و مہابت کرنا شروع کر دیا۔ آنے والے کل کی جستجو میں انسان نے جس تجسس سے کام لیا اس کا لازماً یہ تھا کہ زندگی کے ہر شعبے میں آنے والے کل کی فکر میں انسان سرگرداں پھرنے لگا اور مستقبل کے بارے میں معلومات حاصل کرنا اس کی فطرت ثانیہ بن گئی۔ اس سبب قرون اولیٰ سے آج تک ہر دور میں مستقبل کی معلومات یا سوالات کے جوابات کے حصول کے لیے ہر دور میں ہر علم کے ماہرین نے فحشی کہ روحانی علوم نے جنم لیا۔ یہ طریقے ہر علم کے ماہرین کے تجربات کی کسوٹی کے سبب آج تک جاری و ساری ہیں اور ہر عالم و جاہل اپنے تجربات کی روشنی میں اپنی فحشی زندگی کے سوالات

علم کے ماہرین سے رابطے میں رہتے ہیں اور توسط سے سائلوں کے سوالوں کے جوابات دے سے شگون و جوابات حاصل کرنا قدیم ترین ترقی اور علوم کی دریافت یا آسمانی کتب کے نزول میں اس عقیدہ کو مزید تقویت پہنچائی اور یہ طریقے اعتبار سے بھی اور دنیاوی علوم کے اعتبار سے بھی۔ کیونکہ علم الاعداد کا علم کتب آسمانی کے نزول سے ترقی کرتے ہوئے فکر کی انتہا قرآن کریم پر ہوئی۔ قرآن کریم نے اور علوم کی باریکیوں پر غور کی جانب توجہ دیتے ہوئے علم الاعداد کے مخفی رموز پر تہہ بر کی جگہ جگہ دعوت دی۔ اس سبب اپنے قارئین کو ایک تحفہ نایاب پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ نتیجے کا خداوند کریم پر یقین رکھتے ہوئے ظاہری کاوشوں کے نتائج اس فالنامے سے حاصل کئے جاسکتے ہیں۔ مگر اس کو بچوں کا کھیل سمجھ کر معمولی معمولی باتوں کے جوابات سے گریز کرنا چاہیے ورنہ مایوسی ہوگی۔ ایک سوال کا جواب حاصل کرنے کے بعد کم سے کم 15 دن تک دوبارہ اس مقصد کے شگون لینا درست نہیں۔ فالنامہ نہایت آسان ہے۔ فجر یا عشاء کی نماز کے بعد با وضو ہو کر ان مثلث کے 7 اعداد کو کاغذ کے علیحدہ علیحدہ پرزوں پر تحریر کر کے ایسے بند کر دیں تاکہ مکس ہو جائیں اور کوئی پہچان باقی نہ رہے۔ پھر ان کو ایک پیالی میں ڈال کر مزید مکس کرنے کے لیے ہلائیں اور پھر کسی بچے سے یا آنکھیں بند کر کے 11 مرتبہ بسم اللہ، 3 مرتبہ سورۃ الحمد اور 4 مرتبہ سورۃ القدر پڑھ کر ایک پرچی اٹھا کر اسے کھول کر ان اعداد کو جوابات کی فہرست میں تلاش کریں اور اس کے مطابق عمل کی کوشش کریں ان شاء اللہ اپنے مطلب میں سرخرو ہوں گے۔ پرچیاں بناتے ہوئے یہ خیال رکھیں کہ اعداد کو دائیں جانب سے لکھنا ہے۔ مثلاً ۱۷۳ یعنی پہلے چار پھر سات اور پھر ایک۔

۱۷۳	۷۷۲	۱۱۹۶
۳۳۹	۸۷۱	۲۹۷
*	۶۲۳	*

۱۷۳ ابھی کامیابی کا وقت نہیں آیا جس کا تم ارادہ کر رہے ہو اس پر ابھی عمل کرنے سے نقصان ہے۔ چند روز صبر کرو وقت مناسب نہیں ہے۔ بعد میں عمل کرنے سے فائدہ ہے۔

۷۷۲ حسب ارادہ مقصد میں کامیابی نہ ہوگی، اس لئے کہ کامیابی اوسط درجہ کی ہے، عمل و کام کرنے میں نقصان نہیں ہے کہ کامیابی ہوگی۔

۱۱۹۶ یہ کام نہ کرو کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے۔ تمہارا منصوبہ صحیح نہیں ہے۔ اس خیال کو ترک کرو تو اچھا ہے۔

۳۳۹ ہشیاری امانت و کوشش و احتیاط چاہیے اس کام کے بننے اور بگڑنے کی بنیاد آپ کی کوشش و احتیاط پر ہے۔ کوشش سے کامیابی غیر محتاطی سے ناکامی ہے۔

۸۷۱ ابتدائی مشکلات سے نہ گھبرا ئیں نتیجہ بہر حال آپ کے حسب منشاء ہوگا پہلے پہل کچھ مشکلات ضرور درپیش آئیں گی مگر آخر میں آپ کامیاب ہو گئے۔

۲۹۷ وقت اور خیال و ارادہ آپ کا اچھا ہے خدا کا نام لیکر کام شروع کرو کوئی فکر و وسوسہ دل میں نہ کرو آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔

۶۲۳ امداد نہیں آپ کی انتظار میں ہے اور کامیابی کا گویا علم غیب سے ہو چکا ہے۔ اس میں کوئی دیر اور کاٹ نہیں ہے۔ صبح شام کامیابی ہونے والی ہے۔

## اعداد و خواص اعداد

۱۷۳	ابھی کامیابی کا وقت نہیں آیا جس کا تم ارادہ کر رہے ہو اس پر ابھی عمل کرنے سے نقصان ہے۔ چند روز صبر کرو وقت مناسب نہیں ہے۔ بعد میں عمل کرنے سے فائدہ ہے۔
۷۷۲	حسب ارادہ مقصد میں کامیابی نہ ہوگی، اس لئے کہ کامیابی اوسط درجہ کی ہے، عمل و کام کرنے میں نقصان نہیں ہے کہ کامیابی ہوگی۔
۱۱۹۶	یہ کام نہ کرو کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے۔ تمہارا منصوبہ صحیح نہیں ہے۔ اس خیال کو ترک کرو تو اچھا ہے۔
۳۳۹	ہشیاری امانت و کوشش و احتیاط چاہیے اس کام کے بننے اور بگڑنے کی بنیاد آپ کی کوشش و احتیاط پر ہے۔ کوشش سے کامیابی غیر محتاطی سے ناکامی ہے۔
۸۷۱	ابتدائی مشکلات سے نہ گھبرا ئیں نتیجہ بہر حال آپ کے حسب منشاء ہوگا پہلے پہل کچھ مشکلات ضرور درپیش آئیں گی مگر آخر میں آپ کامیاب ہو گئے۔
۲۹۷	وقت اور خیال و ارادہ آپ کا اچھا ہے خدا کا نام لیکر کام شروع کرو کوئی فکر و وسوسہ دل میں نہ کرو آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔
۶۲۳	امداد نہیں آپ کی انتظار میں ہے اور کامیابی کا گویا علم غیب سے ہو چکا ہے۔ اس میں کوئی دیر اور کاٹ نہیں ہے۔ صبح شام کامیابی ہونے والی ہے۔

سیدنا عباس نقوی (مردم)

# شادیاں ناگام کیوں ہوتی ہیں؟

(علم الاعداد کی روشنی میں)

شادی میں ناگامی کے کئی اسباب ہیں۔ ذہن ذلہا کے ناموں کے اعداد میں ہم آہنگی نہ ہونا۔ بروج و سیارگان کا مختلف ہونا۔ ناموں کے حروف کی طبع کا نہ ملنا۔ ایام محرم الحرام و صفر میں ہوئی شادیاں اکثر خانہ بربادی کا سبب بنتی ہیں کیونکہ ان ایام میں نواسرے رسول کی شہادت اور اہل بیت اطہار کا مصائب میں اٹلا ہے۔ مومنین کو چاہئے کہ وہ محرم، صفر تا 8 ربیع الاول میں شادی وغیرہ نہ کریں۔ شادی کے وقت قمر در عقرب بھی نہ ہو۔

قارئین امامیہ جنتری کی فرمائش پر چوتھی مرتبہ شامل اشاعت ہے۔ ہم یہاں برسوں سے آزمودہ علم الاعداد کی روشنی میں ایک قاعدہ قارئین جنتری امامیہ کیلئے پیش کر رہے ہیں۔ اعداد لیتے وقت مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔

- (1) - لڑکی اور لڑکے کے اصلی نام کے ابجد قمری کے حساب سے اعداد نکالیں۔ (2) - والدہ کے نام کے عدد لینے کی ضرورت نہیں ہے۔
- (3) - سید، زیدی، نقوی، بخاری، کاکھی، جعفری، چوہدری، خان، ملک، بیٹ، ڈار، گوندل وغیرہ کے اعداد بالکل نہیں لینے۔ (4) - موسیٰ، عیسیٰ، مصطفیٰ، وغیرہ میں صرف "ی" کے اعداد لینے ہیں "ی" کے اوپر "الف" وغیرہ کے اعداد نہیں چلیں گے۔ (5) - لڑکی کے ساتھ باپ کا نام یا لڑکے کے ساتھ باپ کا نام لکھا ہوا ہو تو اس کے اعداد بھی نہیں لینے ہیں۔ (6) - حمزہ "ہ" بعض مقام پر الف کے اعداد کا قضا کرتا ہے بعض مقامات پر "ہ" کے اعداد "ی" کے لئے جاتے ہیں مثلاً صائمہ، فائزہ، شائستہ، پائندہ وغیرہ۔ یہاں "ہ" کے اعداد "ی" کے اعداد لئے جائیں گے۔ (7) - لڑکی کے اعداد کو بھی 9 پر تقسیم کیا جائے گا اور لڑکے کے اعداد کو بھی 9 پر تقسیم کیا جائے گا جو حاصل قسمت ہوگا جدول سے دیکھا جائے گا جسکی مثالیں آخر پر واضح کر دی گئی ہیں۔ (8) - اگر اعداد پورے پورے تقسیم ہو جاتے ہیں تو پھر جس عدد کے ساتھ تقسیم کیا گیا ہے یعنی 9 عدد اس کو حاصل قسمت سمجھا جائے گا۔

## ابجد قمری

حروف	ا	ب	پ	ج	چ	د	ڈ	و	ز	ح	ط	ی	ے	ک	م	ن
قیمت	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	20	30	40	50		
حروف	س	ع	ف	ص	ق	ر	ش	ت	ث	خ	ذ	ض	ظ	غ		
قیمت	60	70	80	90	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000		

اگر دونوں کا "ا" اور "ا" باقی بچ جائیں تو ان شاء اللہ یہ جوڑا نہایت سعد ثابت ہوگا۔ اور اگر

۱ اور ۲	بادشاہی زندگی گزارنے کی ناصحت ہے۔	۲ اور ۶	ایک دوسرے پر الزام لگانے والے ہوتے ہیں۔	۳ اور ۵	انجام جدائی طلاق ہوگا۔
۱ اور ۳	نا اتفاقی وفات جنگی، اجتناب ضروری ہے۔	۲ اور ۷	اجنبی اور خوب ہوتے ہیں۔	۳ اور ۶	یہ جوڑا کبھی بہت عمدہ رہتا ہے۔
۱ اور ۴	دائمی جدائی انجام طلاق ہوگا۔	۳ اور ۸	خوب ہے جن پر دوسرے سے بدگمانی ہوتی ہے۔	۴ اور ۷	اچھی زندگی بسر کرتے ہیں۔
۱ اور ۵	مستقل، دولتوں ایک دوسرے سے تعاون کریں گے۔	۲ اور ۹	خوب اجنبی رہتے ہیں۔	۳ اور ۸	خوب رہتے ہیں۔
۱ اور ۶	نہایت عمدہ زندگی بسر ہوگی۔	۳ اور ۳	شادی نہایت کی ہوگی انجام بے وفائی۔	۳ اور ۹	جنگ جدال، الزام تراشی کرنے والے۔
۱ اور ۷	ایسے لوگ اولاد کا غم دیکھتے رہتے ہیں۔	۳ اور ۳	طلاق دائمی جدائی۔	۵ اور ۵	انجام جدائی طلاق ہوگا۔
۱ اور ۸	غربت فلسفی رنج و غم میں گزارے گی۔	۳ اور ۵	طلاق اور جدائی۔	۵ اور ۶	مواقت رہے گی۔
۱ اور ۹	انجام بہتر ہوگا مستقل رہے گی۔	۳ اور ۶	طلاق جدائی فراق۔	۵ اور ۷	عمدہ زندگی گزارے گی۔
۲ اور ۳	بہت اچھی عمر زندگی بسر کرتے ہیں۔	۳ اور ۷	ایک دوسرے پر جان بچھا کر کرنے والے ہوتے۔	۵ اور ۸	دونوں میں پیار محبت بہت ہوگا۔
۲ اور ۳	انجام طلاق۔	۳ اور ۸	یہ عمدہ رہیں گے۔	۵ اور ۹	دونوں مستقل رہتے ہیں۔
۲ اور ۳	فتیان نہایت لڑائی جھگڑا، طلاق نہ ہوگی۔	۳ اور ۹	مستقل، بڑھ کر ایک دوسرے کی بات مان لیتے۔	۶ اور ۶	خوب رہتے ہیں۔

Imamia Jantri Official By Ifikhar Book Depot . Download from Googleplay-IOsplaystore



عام کی علامتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اپنی باتوں پر ایشاد کرتا ہے اور اقسام نظر کی حقیقتوں پر آگاہی رکھتا ہے (امام حسین علیہ السلام) 2020

مثال نمبر 1: لڑکے کا نام:	مثال نمبر 2: لڑکی کا نام:	مثال نمبر 3: لڑکی کا نام: ڈیانا	مثال نمبر 4: لڑکے کا نام: چارلس
شوکت حسین رضوی	نور جہاں	ڈیانا	چارلس
ش 300	ن 50	ڈ 04	چ 03
ا 6	ر 6	ی 10	ا 01
ک 20	ر 200	ا 01	ر 200
ت 400	ج 3	ن 50	ل 30
حسین 128	ح 5	ا 01	س 60
ر 200	ا 1	باقی 3 بچے	باقی 6 بچے
ض 800	ن 50	$\frac{9}{66}$	$\frac{9}{294}$
ی 6	9/215	7-3	32-6
10	30		
9/1870	شوکت حسین رضوی کے 7 عدد		
207-7	اور نور جہاں کے 5 یا عدد 9		
	9 اور 7 کو دیکھا: نتیجہ: مختلف مزاج۔ جدائی		

- 3 اور 3: انجام طلاق ہوگا۔
- 5 اور 2: سکون حاصل نہیں ہوگا۔
- 6 اور 6: دونوں معتدل رہتے ہیں۔
- 8 اور 2: انہی زندگی گزارتی ہے۔
- 6 اور 6: دونوں معتدل رہتے ہیں۔
- 6 اور 6: انہی زندگی گزارتی ہے۔
- 8 اور 8: ابتدا میں ٹھیک ہوتی۔ بعد میں انہی زندگی بسر ہوتی ہے۔
- 9 اور 9: مزاج میں اختلاف۔ پسند و ناپسند کی بدولت ہوتی ہے۔
- 8 اور 8: شادی مبارک ہوتی ہے۔
- 8 اور 8: خوشیاں بھری شادی ہوتی ہے۔
- 9 اور 9: بچہ نکلا اور کتے رہے ہیں ایسی شادی نہیں کرنا چاہئے۔

نوٹ: نام کا صحیح ہونا لازمی ہے۔ اگر 9 پر پورا تقسیم ہو جائے تو 9 عدد ہی تصور ہوگا۔ نام جب تک مکمل طور پر درست نہیں ہوگا نتیجہ صحیح نہیں نکل سکتا۔

### دعاے قربانی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهَیْ لِلذِّکْرِ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ حَنِیْفًا مُّسْلِْمًا وَمَا اِنَّمَا مِنَ الْمَشْرِکِیْنِ اِنْ صَلَوٰتِیْ وَنَسْکِیْ وَمَخْتَلَایْ وَمَمَّا لَیْ اِلٰہِ الْعَالَمِیْنَ لَا شَرِکَ لَہٗ وَبِذٰلِکَ اٰمَنْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِْمِیْنَ اَللّٰهُمَّ مِثْکَ وَاَلِکَ بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰہُ اَکْبَرُ

اس کے بعد جانور کو ذبح کرنا شروع کرے اگر خود اکیلا قربانی دے رہا ہو تو یہ الفاظ کہے **اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّیْ** اور اگر چند آدمیوں سے مل کر قربانی کی ہو تو **اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنَّا** کہے۔ ہمہ اگر کسی دوسرے شخص کی طرف سے ہو تو **اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْہٗ** کہے اگر کئی دوسرے افراد کی طرف سے ہو تو **اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْہُمْ** کہے بہتر ہے کہ **مِنِّیْ - مِنَّا - مِنْہٗ - مِنْہُمْ** کی جگہ ان لوگوں کا نام لیا جائے۔ (بکریہ نوائے صالحین)

### حقیقہ سے شفاء

- ☆ حقیقہ سنت منوکدہ ہے ساتویں دن بہتر ہے یہ تا حد بلوغت باپ پر ملت ہے بعد میں خود کرے۔
- ☆ بچے کے بال منڈوا کر ان بالوں کے برابر چاندی یا چاندی کی رقم صدقہ کرے
- ☆ حقیقہ کے جانور میں قربانی کے جانور کی شرائط کا ہونا مستحب ہے۔
- ☆ گوشت کم از کم 10 مومنوں کو کھلائیں یا کچا تقسیم کر دیں۔
- ☆ والدین اور گھر کے وہ افراد جو والد کی کفالت میں ہوں حقیقہ کا گوشت نہ کھائیں
- ☆ سری پائے اور کھال صدقہ کرنے قصائی کو اجرت میں دینا جائز نہیں۔
- ☆ بوقت ذبح درج ذیل دعا پڑھے (کبیر سے اور ۱۰۰ صیغہ لڑکے کیلئے اور بچے والوں کی کیلئے ہے)

بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰہُ اَکْبَرُ اَللّٰهُمَّ عَقِیْقَةُ حَسَنٌ (۱۰۰ بار) اَللّٰہُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ بِسْمِ اللّٰهِ وَرَحْمَہٖ وَبَرَکَہٖ اِنَّہٗ لَمِنْ اَعْمَالِکَ اَللّٰہُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ بِسْمِ اللّٰهِ وَرَحْمَہٖ وَبَرَکَہٖ اِنَّہٗ لَمِنْ اَعْمَالِکَ اَللّٰہُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ بِسْمِ اللّٰهِ وَرَحْمَہٖ وَبَرَکَہٖ اِنَّہٗ لَمِنْ اَعْمَالِکَ اَللّٰہُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ بِسْمِ اللّٰهِ وَرَحْمَہٖ وَبَرَکَہٖ اِنَّہٗ لَمِنْ اَعْمَالِکَ

### برائے اصلاح اولاد

ہر نماز کے بعد درج ذیل آیات 3 مرتبہ پڑھیں **وَاصْلِحْ لِیْ ذُرِّیَّتِیْ اِنَّہٗ لَمِنْ اَعْمَالِکَ اَللّٰہُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ بِسْمِ اللّٰهِ وَرَحْمَہٖ وَبَرَکَہٖ اِنَّہٗ لَمِنْ اَعْمَالِکَ**

### برائے حصول علم

عدۃ الذّٰعی میں مذکور ہے کہ اگر بچہ کا دل علم کے حصول میں نہ لگتا ہو تو یہ درج ذیل آیات لکھ کر اسکے گلے میں ڈالیں اور پانی پر پڑھ کر پلائیں تو ذہن و عقل کی تیزی کے لیے مجرب ہے۔ (سورۃ اعلق ۱۰: ۵۳)

اِقْرَا بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِیْ سَخَقَ ۝ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَاقٍ ۝ اِقْرَا وَرَبُّکَ الْاَکْرَمُ ۝ الَّذِیْ عَلَّمَہٗ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ ۝

Imamia Jantri Official By Iftikhar Book Depot . Download from Googleplay-IOsplaystore



# شیخ زوار رضا جاوا Sheikh Zavar Raza Jawa

www.humaliwalayazar.com

”وحرکم الیل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات“

پامره ان فی ذالک لایت القیوم المثلون



## زائچہ / Birth Chart

اپنے مسائل کی تشخیص اور ان کے حل کے لیے آئمہ طاہرین کے پاک و پاکیزہ علم، علم جعفر و نجوم سے مدد حاصل کیجئے۔ جس میں زندگی کے تقریباً تمام اہم شعبہ جات پر مفصل روشنی ڈالی جائے گی۔ مثلاً شخصیت، مالی پوزیشن، عزیزو اقارب سے تعلقات، اندرون ملک سفر، سماجی حیثیت، پراپرٹی، خاندان اور ان جیسے دیگر امور اور مسائل پر روشنی اور ساتھ ساتھ انکا حل بھی بتایا جا رہا ہے۔

## Match Making/Compatibility

شادی سے قبل یہ ضرور دیکھ لیں کہ لڑکے اور لڑکی کے مابین تعلقات کیسے رہیں اس طرح آپ شادی کے بعد کی بہت سی قباحتوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ شادی کب کرنا بہتر نتائج کا حامل ہوگا یا شادی میں روکاوٹ کی وجوہات کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے۔

## صدائے کو اکب / Youtube

دیکھیے نیچے Youtube چینل

(Sheikh Zavar Raza Jawa شیخ زوار رضا جاوا)

(Raza Jawa رضا جاوا)

ہفتہ وار / ماہانہ زائچے اور دیگر موضوعات پر ویڈیوز

## الواح / Alwah

تمام سیارگان شمس، قمر، مشتری، زہرہ، عطارد، مریخ، زحل کے اوج و شرفات کی الواح (لوح رد نجومست سیارگان، بحیرہ انگشتریاں، عدد ۹ والی انگلی، حرز والی انگلی، حرز جان، حروف مقطعات، لوح فتح نامہ، لوح تسخیر خلایق، لوح سات سلام، بخور خاص بھی دستیاب ہے)

## Gems Lab

نگینہ نام اور تاریخ پیدائش کے حساب سے تجویز کیا جاتا ہے۔ قسمت اور حالات میں بہتری، ستاروں کی نجومست رفع کرنے، بیماری اور سحر جادو، آسیب کے اثرات کو روکنے کے لیے بہترین نگینہ تشخیص کروائیں۔

## ویب سائٹ (Website)

اب کھر بیٹھے اپنی پسند کے جواہرات گھینے منگوانے کے لیے ہماری ویب سائٹ "Jawa Gem" اور فیس بک پیج Jawa Gems بروڈت کریں۔

Website: www.jawagems.com  
Youtube: Sheikh Zavar Raza Jawa, Jawa Gems  
Instagram: zavarrazajawa  
Twitter: @sheikhzavarraza  
Facebook: Sheikh Zavar Raza Jawa, Raza Jawa



یقینی تحفظ بے خوف زندگی

CABLES



www.humaliwalayazar.com



کیا آپ اب بھی آگ سے کھیل رہے ہیں؟

**زرا سوچیئے !!**

**آگ کا سب سے بڑا سبب شارٹ سرکٹ**

PVC انولیشن کیبل نہ صرف آگ نکلنے کا سبب بنتی ہے بلکہ جلنے کے بعد اس کا زہریلا دھواں دم گھٹنے کا باعث بھی بنتا ہے۔ امریکہ، یورپ اور مشرق وسطیٰ کے بعد **فائبریز سٹنڈٹ پولیمر** سے تیار کردہ **FR Cables** اب پاکستان میں پہلی بار۔

Ⓜ 950°C تک حرارت برداشت کرنے کی قوت Ⓜ آگ اور شارٹ سرکٹ سے محفوظ Ⓜ زہریلے دھواں سے محفوظ  
Ⓜ زیر وینچن میٹریل Ⓜ 99.99% فلٹیج خالص کارپ Ⓜ بجلی کے تیل میں یقینی بچت Ⓜ مصدقہ اداروں سے تصدیق شدہ

Pakistan's First Fire Resistant Cables

**Spell Petrochemicals (Pvt) Ltd.**

88-E-1, Model Town Lahore, Pakistan.

UAN: 042-111-177-355 Fax: 042-35884854

E-mail: frcables@spellgroup.com

Web: www.frcables.com



قیامت کے دن علماء کی روشنائی کو شہید کے خون سے تولا جائے گا اس وقت علماء کے قلم کی روشنائی کا وزن شہید کے خون سے زیادہ ہوگا۔ منہج القیام 2020

**شیخ زوار رضا جاوا**

(ماہر فلکیات)

148 شماران 1 جیل روڈ لاہور

0321-9477284

0300-0891363

Www.enlighteningspirits.com

E-Mail: jawa1215@gmail.com

**یک سالہ زائچے 2020**  
کے فلکی اثرات



نوٹ: مندرجہ ذیل دعا 9 مرتبہ روزانہ مقرر وقت پر مع اول و آخر 9 مرتبہ روز پڑھ کر دم کریں۔ مشکلات آسان ہوں گی۔

Plaaase Subscribe Our Youtube Channale [www.youtube.com/SheikhZavarRazaJawa](http://www.youtube.com/SheikhZavarRazaJawa)

**دعا در خواست سیارگان**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ يَا عَجِّي يَا قَيُّوْمُ يَا رَحِيْمُ يَا عَلِيُّ يَا عَظِيْمُ  
يَا كَلْبِي يَا عَجِي يَا مَالِكِ يَا قُدُّوْسُ يَا كَبِيْرُ يَا مُتَعَالِ يَا فَتَّاحُ يَا رَزَّاقُ يَا اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ اِحْفَظْنِيْ مِنْ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ  
نُحُوْسَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالْعَطَارِدِ وَالزُّهْرَةِ وَالْبُرُوجِ وَالْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَالرُّبْحِ وَالرَّيْحِ وَالرَّيْبِ وَالرَّيْحِ وَالرَّيْبِ وَالرَّيْحِ وَالرَّيْبِ  
وَعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَعَلِيَّ ابْنِ الْحُسَيْنِ وَمُحَمَّدَ ابْنِ عَلِيٍّ وَجَعْفَرَ ابْنَ مُحَمَّدٍ وَمُؤْمِنِي ابْنِ جَعْفَرٍ وَعَلِيَّ ابْنَ مُؤْمِنِيٍّ وَ مُحَمَّدِيَّ  
ابْنِ عَلِيٍّ وَعَلِيَّ ابْنَ مُحَمَّدِيٍّ وَحَسَنِيَّ ابْنِ عَلِيٍّ وَالْحُجَّةَ ابْنَ الْحَسَنِ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

جنوری فروری شمس کی دسویں موجودگی آپکو زحل کی سعادتوں سے محروم کر دے گی۔ زحل گیارہویں گھر آخرا برج میں خوش بختی کے گھر میں داخل ہوگا مگر مئی تا ستمبر زحل کی رجعت آپکو سعادتوں سے محروم رکھے گی۔ انشاء اللہ نومبر دسمبر حالات بہتر ہونگے دوسری جانب شمس اپریل میں طالع میں شرف یاب ہوگا اور جون میں مریخ کی طالع میں آمد آپکو معاملات سنبھالنے میں معاونت فراہم کرے گی عزت وقار میں اضافہ ہوگا۔

**صحت، جاب، ملازمین** آپکے بیت الصحت کا حاکم سیارہ ایک تیز رفتار سیارہ ہونے کی وجہ سے ہر سال آپکی صحت پر اچھے برے دونوں طرح کے اثرات مرتب کرتا رہتا ہے 3 فروری تا 11 اپریل، 28 اپریل تا 12 مئی تا 27 ستمبر آپکو اپنی صحت پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہوگی یہی وہ دورانیہ ہے جب آپکی صحت کیساتھ ساتھ آپکی جاب بھی خطرے میں ہوگی ان ایام میں ان دونوں معاملات پر خاص توجہ دیں اور جاب چھوڑنے کی غلطی ہرگز نہ کریں۔

**منگنی اولاد انعامی بانڈز** ابتدائے سال تا 20 مارچ نسبت طے ہونے کے امکانات انتہائی کم ہونگے اگر کوئی بات بنے گی بھی تو دیر پاند ہوگی۔ 20 مارچ تا 22 اگست حالات آپکے حق میں ہونگے اور نسبت یا منگنی طے پاسکتی ہے تاہم 22 اگست تا 23 اکتوبر حالات میں تبدیلی مشکلات لاسکتی ہے۔ 24 اکتوبر تا 21 دسمبر قدرت ایک بار پھر آپ پر مہربان ہوگی اس دوران انعامی اسکیموں سے انعام لگنے یا بانڈز میں انعام لگنے کے ساتھ اولاد کے خواہشمند افراد کی امیدیں بھی برآئیں گی۔ جنوری تا 20 مارچ اور 23 اگست تا 23 اکتوبر بچوں کے ساتھ معاملات کشیدہ ہو سکتے ہیں از حد محتاط رہیں۔

**برج: حمل** **سیارہ: مریخ** **ARIES**

رنگ:	گلابی، لہو، سیاہ
منکر:	آتش
جواہر:	مرجان، یاقوت، اُدھ، جہنم، یخنی
بہترین شریک حیات:	اسد، قوس
ناموافق ساتھی:	مراوان، میزان، جدی

بیماریاں: جین بخار، امصابی کا، السر، شہرہ، مزاج، ذیابیطہ

دن: منگل 9: 21 Mar to 20 Apr

**اہم نکات** سال 2020 برج حمل والوں کے لئے تبدیلیوں کا سال ہے۔ اس سال دونوں بڑے سیارے مشتری اور زحل برج حمل میں تہدیل کریں گے۔ جو کسی بھی برج کے لوگوں کے لئے خاص اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اور برج حمل والوں کے کیریئر خوش بختی اور روزگار پر کیا اثرات مرتب ہونگے یہ آئندہ طور میں ملاحظہ کریں جبکہ ذاتی ستارہ مریخ کا پانچویں گھر شرف اور شمس کا طالع میں شرف، ترہرہ عطارد کے شرف و مہبوط آپکے معاملات زندگی پر خاصے گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں اس سال 4 تقری اور 2 شمس گریہن زائچے کے اہم ترین گھروں کو متاثر کر رہے ہیں۔

**آپکی شخصیت اور شخصی وقار** برج حمل سے وابستہ کاروباری حضرات کو اس سال زیادہ احتیاط کرنا ہوگی کیریئر کے گھر گذشتہ دسمبر سے مشتری حالت وبال آجانے سے آپکی کاروباری ساکھ داؤ پر ہوگی۔ مشتری تمام سال دسویں قیام پذیر رہتے ہوئے آپکی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں اتارے گا۔ دوسری جانب دسویں کا حاکم زحل مارچ تک دسویں سے گالیگن

حالات موافق نہ ہونگے کاموں میں التوا درستی امور میں تاخیر اور عدالتی فیصلے آپ کے خلاف ہونے کے امکانات ہونگے محتاط رہیں۔

**حج و زیارات، بیرون ملک سفر اعلیٰ تعلیم** 2 دسمبر 2019 سے درج بالا معاملات کا حاکم مشتری ایک سال تک ہیوٹ میں چلے جانے سے معاملات میں رکاوٹیں پیدا ہونگی۔ ویزہ کے حصول میں رکاوٹ آپ کے سفرات میں التوالاے گی جبکہ روحانی معاملات میں از حد محتاط رہیں ورنہ آپ اپنی روحانی تسکین کیلئے غلط راستہ اختیار کر سکتے ہیں کسی بھی معاملہ میں اندھا اعتماد آپکو نقصان پہنچا سکتا ہے جبکہ حج زیارات کے خواہش مند حضرات کو خاص صدقات اور وردا غنائف کی ضرورت ہوگی۔

**معیشت کیرنیر روزگار** معیشت روزگار کے حوالہ سے آپکو از حد محتاط رہنا ہوگا مشتری گذشتہ دسمبر سے 13 ماہ کیلئے دسویں کیرنیر کے گھر میں آچکا ہے اور اسکے ہیوٹ زدہ ہونے کی وجہ سے آپ مشتری کی سعادتوں سے محروم ہیں دوسری جانب زحل 23 مارچ کو تیار ہویں چلے جانے سے آپکے کیرنیر روزگار معیشت پر گہرے اور سدا اثرات مرتب ہونگے مگر 11 مئی تا 29 ستمبر رجعت کی وجہ سے کاموں میں التوالاے گا۔ جاری منصوبوں میں التوا کے ساتھ ملازم پیشہ افراد کو اپنے سینئرز سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو آپکی ترقی میں رکاوٹ کا باعث بن سکتا ہے سال کا باقی عرصہ قدرے بہتر رہے گا (ان شاء اللہ)

**دوست احباب خواہشات کاروباری فوائد** آپکے گیارہویں گھر کا مالک ستارہ زحل ابتدائی تین ماہ تک دسویں گھر رہتے ہوئے خوش بختی کے معاملات میں بہتری لائے گا مگر اسی دوران شمس کی 20 جنوری تا 19 فروری گیارہویں وبال کی حالت میں موجودگی امیدوں خواہشات کی تکمیل میں التوالا سکتی ہے 21 مارچ زحل کا داخلہ گیارہویں اپنے ہی گھر ہونے سے معاملات میں تیزی سے مثبت تبدیلی آئے گی 11 مئی تا 29 ستمبر زحل کی رجعت کاموں ست روی اور التوالا سکتی ہے۔ دوست احباب کے ساتھ تعلقات کشیدہ اور بننے کاموں میں بگاڑ آ سکتا ہے اور باقی دورانیہ سال کا اچھا گذرے گا یہ سال انشاء اللہ آپکی امیدوں خواہشات کی تکمیل کا سال ہوگا۔

**بیرون ملک قیام امیگریشن خفیہ معاملات** 19 دسمبر تک مشتری ہیوٹ میں رہنے کی وجہ سے امیگریشن سے متعلق حالات منافی نہ ہونگے، 14 مئی تا 13 ستمبر مشتری کی رجعت بیرون ملک مقیم افراد کو بھی واپسی کی راہ دکھا سکتی ہے بیرون ملک مقیم افراد کا کیرنیر روزگار راہ پر لگ سکتا ایسے افراد کو روحانی تدارک کی اشد ضرورت ہوگی۔ مشتری کا ہیوٹ جہاں تکالیف اور پریشانیوں لارہا سے وہیں آپکے خلاف ہونے والی خفیہ سازشوں کو

**شادی شراکتی ازدواجی تعلقات شادی کے حوالہ سے** ابتدائے سال سے ہی حالات آپکے موافق ہونگے۔ مگر درست وقت کا انتخاب آپکی ازدواجی زندگی میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ 23 جنوری تا 7 فروری 5 مارچ تا 13 اکتوبر اور 28 اکتوبر تا 21 نومبر کا دورانیہ نکاح یا شادی کے لئے مناسب ہوگا۔ اس دوران ایام عزاء کو ملحوظ خاطر رکھیں اسی دوران آپکو شراکت داری کی آفر بھی مل سکتی ہے شریک کار یا شریک حیات کے ساتھ آپکے تعلقات اچھے رہیں گے تاہم 8 فروری تا 5 مارچ 3 تا 27 اکتوبر 21 نومبر تا آخر سال حالات موافق نہ ہونگے حالات کشیدہ ہو سکتے ہیں جنکے زائچہ پیدائش میں سیارے مطابقت نہیں رکھتے اسکے مابین علیحدگی ہو سکتی ہے یہ دورانیہ نئی شادی یا کاروباری شراکت کے لئے بھی مناسب نہ ہوگا۔

**گھر خاندان پر اپرٹی** آپکے خانگی امور کا سیارہ قمر چونکہ ایک تیز رفتار سیارہ ہے اسلئے ہر ماہ گھریلو حالات تیزی سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں اگر آپ شہتے ہیں کہ گھریلو سکون قائم و دائم رہے تو ہر ماہ ہونے والے قمر در عقرب کا خاص خیال رکھا کریں۔ ہیوٹ قمر کے دنوں میں چاول آٹا یا دودھ دھو دھو صدقہ دینا اپنا معمول بنالیں۔ آپکے گھریلو سکون کو پروردگار محفوظ رکھے گا اسی طرح ہر قمر کا شرف گھریلو ماحول میں سکون بھی لیکر آتا ہے ان دنوں میں اہم گھریلو فیصلے کرنا سود مند ہوتے ہیں۔ اس سال 21 جون تا 7 جولائی شمس کا چوتھے گھر اوج اور 7 اگست تا 6 ستمبر کا دورانیہ گھر کی تبدیلی یا پر اپرٹی لین دین کے حوالہ سے نیک ثابت ہوگا اس وقت کو نوٹ کر لیں اس وقت میں خریدی گئی ایشیا یا پر اپرٹی انشاء اللہ منافع بخش ثابت ہوگی۔

**ابتدائی تعلیم نزدیکی سفرات تحریری معاہدے سماجی تعلقات** گذشتہ سال کی طرح اس سال بھی آپکو کئی ایک نزدیکی سفرات کا موقع ملے گا تیسرے کا حاکم ستارہ عطارد اوائل تا 2 فروری 11 تا 27 اپریل 12 مئی تا 6 ستمبر اور 27 ستمبر تا 2 دسمبر بہترین حالت میں رہنے ہوئے درج بالا معاملات میں بہتری لائیگا، اس عرصہ میں نزدیکی سفرات سماجی تعلقات اور کاموں میں اور تحریری معاملات میں بہتری لائے گا۔ سال کا باقی دورانیہ آپکو محتاط روش اختیار کرنا ہوگی اور سفر سے قبل صدقہ ضرور ادا کریں۔

**قرضہ وراثت اور مشترکہ مالی معاملات** 31 مارچ تا 28 جون 9 ستمبر تا 14 نومبر آپکے وراثتی معاملات حل ہونے کے قومی امکانات ہونگے اسکے ساتھ مالی منافع کا حصول ممکن ہوگا جبکہ قرض لینے کی کوششیں کامیاب ہو سکیں گی۔ 10 ستمبر تا 14 نومبر تک حالات ملے چلے رہیں گے اور کاموں میں قدرے رکاوٹوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ 31 مارچ تا 27 جون

بھی دبا دے گا پروردگار عالم آپ سب کو اپنی امان میں رکھے۔

**شمسی و قمری گزرن** اس سال چار قمری اور دو شمسی گرہن لگیں گے جو کہ زائچہ حمل افراد کے خانگی معاملات بچوں عزیز واقارب کیریئر اور بیرون ملک سفرت اور عزیز واقارب کے ساتھ سسرالی معاملات کو متاثر کر سکتے ہیں۔ گرہن کی تواریخ جنٹری ہذا سے نوٹ کر لیں ان تواریخ میں صدقات اور نماز کسوف و خسوف ضرور ادا کریں۔ اس بارے مزید مکمل تفصیلات آپ میرے youtube چینل Sheikh Zawar Raza Jawa پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ **صدقہ** 31 مارچ تا 28 جون ہر منگھل 900 گرام وال مسور یا مرغی کی ٹلیجی کسی مستحق کو دیں یا پرندوں کو ڈال دیں اور تمام سال ہر جمعرات کم از کم 300 گرام یا 3 پاؤنڈ بڑا گوشت کسی مستحق کو دیں یا جانوروں کو ڈال دیں۔ **نوٹ** صدقہ کسی بھی راہگور میں ہرگز نہ ڈالیں **ورد خاص** روزانہ بعد از فجر سورۃ شوریٰ آیت نمبر 19 ایک تسبیح ورد کریں بعد ازل و آخر 16-16 مرتبہ درود پاک دوران ورد گفتگو سے پرہیز کریں۔

**برج: ثور** **سیارہ: زہرہ** **TAURUS**

رنگ: گھرائیلا  
 عنصر: خاکی  
 جواہر: الماس، فیروزہ  
 بہترین شریک حیات: شہد، جدی  
 ناموافق ساتھی: اسد، عقرب، درو

بیماریاں: ملق اور کالوں کے امراض، پھوڑے، پھیپھیاں، قولیوی مسائل

دن: جمعہ، شنبہ، 1  
 21 Apr to 21 May **حروف: ب، و**

**اہم نکات** سال 2020 برج ثور والوں کے لئے تہلیلوں کا سال ثابت ہوگا کیریئر کا حاکم زحل کا اپنے ہی گھر آنا اور وسط مئی تا آخر ستمبر رجعت کے دوران کاروباری معاملات پر اہم اثرات مرتب کرے گا۔ جبکہ مشتری دسویں ہبوط کے گھر میں گذشتہ سال دسمبر سے آپکا ہے جو کہ 14 مئی تا 23 ستمبر رجعت میں ریکر خواہشات کی تکمیل پر منفی اثرات مرتب کرے گا ساتویں بارہویں کا حاکم مریخ جہاں شرف میں رہتے ہوئے سعد اثرات مرتب کرے گا وہیں حنیض کے اوقات میں ازدوجی معاملات اور بیرون ملک سفرت قیام اور تعلقات کو بری طرح متاثر بھی کرے گا۔

**شخصی وقار** آپکا ذاتی ستارہ زہرہ اس سال 8 فروری تا 5 مارچ، 3 اکتوبر تا 28 اکتوبر اور تا 21 نومبر انتہائی مثبت پوزیشن میں ہوتے ہوئے آپکی شخصیت پر نہایت سعد اثرات مرتب کرے گا مگر اسکے ساتھ ساتھ آپکو دیگر عوامل پر بھی توجہ دینا ہوگا اور اپنے معاملات کو تحمل اور بردباری سے حل کرنا ہو

31 مارچ تا 28 جون اور 10 ستمبر تا 14 نومبر آپکو شرکتی و ازدواجی معاملات پر خاص توجہ دینا ہوگی معاملات کو بڑے حوصلہ سے حل کرنا ہوگا ورنہ آپکی شخصیت متاثر ہو سکتی ہے۔

**مالی پوزیشن** آپکے مالی امور کا سیارہ عطارد ایک تیز رفتار سیارہ ہے اس لیے آپکے مالی معاملات تیزی سے تبدیلی کا شکار ہوتے ہیں۔ 3 فروری تا 11 اپریل، 28 اپریل تا 12 مئی اور 6 تا 27 ستمبر اور 2 تا 21 دسمبر آپکو بہت محتاط رہنا ہوگا، مالی معاملات تحریری معاہدے یا لین دین سے گریز کریں 31 مارچ تا 13 مئی کیریئر کے گھر مریخ کی موجودگی آپکے کاروباری معاملات کے لئے کسی طور پر بھی سود مند نا ہوگی از حد محتاط رہنا ہوگا اس دوران کیریئر یا کاروباری معاملات میں کوئی بڑا فیصلہ نہ کریں ورنہ آپ مالی بحران کا شکار ہو سکتے ہیں۔

**عزیز واقارب، ابتدائی تعلیم، نزدیکی سفرت** آپکے بیت الاقرباء کا حاکم ستارہ قمر 28 دن میں میر افلاک کرتا ہوا ایک بار پھر وہیں پہنچ جاتا ہے جہاں سے چلا تھا اسکی بنیادی وجہ نئے چاند کا طلوع ہوتا ہے۔ اسی دوران قمر اوج حنیض شرف طرح طرح کی منازل طے کرتا ہوا آپکے تعلقات پر اچھے برے ہر طرح کے اثرات مرتب کرتا ہے اسی طرح جہاں شرف قمر ہر ماہ آپکے عزیز واقارب سفرت ابتدائی تعلیم پر سعد اثرات مرتب کرتا ہے وہیں ہر ماہ ہونے والا قمر در عقرب آپکے تعلقات میں بگاڑ بھی پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ درج معاملات کو بہتر طریقہ سے چلانے کے لئے قمر کی حالت کے اوقات کو جنٹری سے نوٹ کریں اور اسکے علاوہ ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل کو فالو کریں تاکہ آپکو بروقت اطلاع مل سکے ہر ماہ قمر در عقرب میں دو کونونا چاول کا صدقہ دینا خود پر لازم کر لیں۔

**گھر خاندان، پراپرٹی** آپکے زائچہ کا چوتھا گھر آپکے گھریلو حالات آرام سکون اور خانگی معاملات کے بارے میں آگاہی دیتا ہے آپکے گھریلو معاملات کا حاکم ستارہ شمس ہے جو کہ آغاز سال تا 19 فروری 20 مئی تا 20 جون 22 ستمبر تا 23 اکتوبر اور 21 دسمبر تا آخر سال شمس سعد نا ہوگا یہ وہ دوران ہے جب آپکے خانگی معاملات سر اٹھائیں گے اس دوران گھر کی تبدیلی یا پراپرٹی کا لین دین بہتر نا ہوگی۔ جبکہ 22 ستمبر تا 23 اکتوبر کا دوران یہ اس حوالہ سے شمس ترین دوران ہے ہوگا۔ 20 مارچ تا 19 مئی اور 21 ستمبر تا 24 اکتوبر تا 20 دسمبر کا دوران یہ بالعموم اور 7/8 مارچ اور 11/12 جولائی بالخصوص وہ ایام ہونگے جب گھر کی تبدیلی یا خرید و فروخت کے لئے حالات آپکے حق میں ہونگے اور آپکو گھریلو سکون میسر ہو سکے گا۔

**اولاد، انعامی بانڈز لائری** 2020 اس حوالہ سے ملا جلا سال

Imamia Jantri Official By Iftikhar Book Depot . Download from Googleplay-IOSplaystore

منافع کا حصول آپ کے لئے مشکل ہوگا اگر آپ پہلے سے شراکت داری کر رہے ہیں تو اس حوالہ سے کوئی روحانی تدارک کرنا از حد ضروری ہوگا۔

### روحانیت، بیرون ملک سفرات حج و زیارات آپ کے

نویں گھر کا حاکم زحل گذشتہ دو سالوں سے آپ کے زائچہ کے نویں گھر رہتے ہوئے بیرون ملک سفرات کی راہیں ہموار کرتا رہا ہے۔ اسی طرح اکثر ثور افراد نے روحانی مدارج بھی طے کئے اور انکا تعلق اپنے خالق حقیقی سے زیادہ مضبوط ہوا ہے۔ اس سال آپ کے قدرے طے طے اثرات کا سامنا رہے گا مشتری نویں گھر بیہوش میں رہتے ہوئے آپ کو امتحان سے دوچار رکھے گا۔ دوسری طرف زحل اپنے برج میں دسویں گھر مارچ میں چلے جانے سے مشتری کے اثرات کو دبا دے گا البتہ 11 مئی تا 29 ستمبر زحل کی رجعت آپ کے بیرون ملک سفرات میں رکاوٹ کا باعث ہوگی ان دنوں میں ویزہ اپلائی کرنے سے اجتناب کریں یہ بعد از امتحان اگلی کلاس میں منتقلی کا سال ہوگا۔

### معیشت، کیرئیر، روزگار ترقی و تنزلی

2020 معیشت کیرئیر کے لحاظ سے ایک مالا جلا سال نظر آ رہا ہے گوکہ بہتری زیادہ ہے تاہم کچھ دورانیہ احتیاط طلب ہوگا۔ 20 جنوری تا 21 فروری کیرئیر کے گھر شمس کا وبال آپ کے کاموں میں رکاوٹ کا باعث بنے گا۔ 19 فروری تا 31 مارچ تک حالات قدرے بہتر ہوں گے۔ 31 مارچ کو مریخ دسویں بحالت حسیض دسویں گھر آجائیگا اور 13 مئی تک یہیں قیام پذیر رہتے ہوئے کاروبار کیرئیر روزگار کو متاثر کرنے کا باعث بن سکتا ہے بالخصوص وہ افراد جو کسی طور پر مشتری کاروبار سے منسلک ہیں انکے لئے یہ وقت کسی طور بہتر نہ ہوگا۔ سال کا باقی دورانیہ حالات انشاء اللہ موافق رہیں گے تاہم آپ کو تیز رفتار اور کم مدت کے منصوبوں سے گریز کرنا ہوگا زحل ہمیشہ طویل دورانیہ کے کاموں میں معاون ہوتا ہے زحل یہاں کیرئیر کے گھر میں اڑھائی سال تک قیام پذیر رہے گا۔

### دوست احباب، خواہشات کاروباری فوائد جیسا کہ

پچھلی سطور میں بتایا گیا ہے کہ مشتری اس سال بیہوش میں رہے گا مشتری جو آپ کے گیارہویں خواہشات کے گھر کا حاکم ہے قوت سے محروم ہونے کی وجہ سے آپ کو مطلوبہ نتائج دینے سے قاصر ہوگا اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھیں دوست احباب سے واسطہ تو تعلقات بھی شاید پورا نہ ہو سکیں جتنی آپ امید رکھتے ہیں اس سال اٹھائے گئے کاروباری اقدامات کا ثمر اس سال کم جبکہ آئندہ سال بھر پور ثمر طے گا البتہ جن افراد نے مشتری کی نحوست سے بچاؤ کا کوئی روحانی تدارک کر لیا وہ انشاء اللہ مطلوبہ نتائج کا حصول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔

### بیرون ملک قیام امیگریشن اس حوالہ سے آپ کو اس سال

ہوگا۔ یکم تا 2 فروری 11 تا 28 اپریل اور 12 مئی تا 6 ستمبر، 2 تا 21 دسمبر آخر سال آپ کو بچوں کے ساتھ وقت صرف کرنے کے بہتر مواقع میسر آئیں گے آپ خود کو خاصہ پر سکون محسوس کریں گے۔ بے اولاد حضرات کو 12 مئی تا 8 ستمبر خصوصی طور پر اولاد کے حوالہ سے خوش خبری مل سکتی ہے۔ انعامی اسکیموں کے حوالہ سے 12 مئی تا 5 ستمبر اور 27 ستمبر تا 2 دسمبر کا دورانیہ ایسی اسکیموں میں انوسٹمنٹ کے لحاظ سے بہتر ہوگا۔ ثور افراد کو 3 فروری تا 10 اپریل اور 6 ستمبر تا 27 ستمبر بچوں پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہوگی آپ کے تعلقات بچوں سے کشیدہ ہو سکتے ہیں۔

### صحت، ملازمت، ملازمین آغاز سال 13 جنوری سے ہی

ملازمت کے حوالہ سے ماحول مناسب ملنا شروع ہوگا۔ 13 جنوری تا 8 فروری 5 مارچ تا 3 اکتوبر اور 28 اکتوبر تا 15 دسمبر آپ کو صحت اور ملازمت دونوں جانب سے حالات انتہائی سازگار ملیں گے بہتر جاب کا حصول اور جاب کا سونچ کر ناممکن ہوگا۔ اس دوران ملازمین رکھنا چاہئیں تو بہتر اور با اعتماد ملازمین مل سکیں گے۔ جبکہ 8 فروری تا 4 مارچ اور 3 تا 27 اکتوبر 15 تا 31 دسمبر آپ کو از حد محتاط رہنا ہوگا جاب چھوڑنے کی قطعی غلطی نا کریں ورنہ دوبارہ جاب کا حصول مشکل ہو سکتا ہے 6 تا 27 ستمبر صحت کا خاص خیال رکھیں آپکی صحت بوجہ چاند و مہر متاثر ہو سکتی ہے۔

### شادی، ازدواجی تعلقات، شراکت داری آپ کے بیت

الذوج کا حاکم سیارہ مریخ آغاز سال 30 مارچ بہترین حالت میں رہتے ہوئے آپکی ازدواجی و شراکتی معاملات پر اچھے اثرات مرتب کر رہا ہے بالخصوص 16 فروری تا 30 مارچ کا دورانیہ انتہائی آپ کو خوشیوں سے ہمکنار رکھے گا انشاء اللہ۔ آپکی شادی طے پانے کے قوی امکانات ہونگے شادی شدہ جوڑوں میں انتہائی جذباتی نوعیت کے عمدہ تعلقات بڑھیں گے اور آپکو نئی شراکت داری کی آفر مل سکتی ہے۔ 31 مارچ تا 28 جون مریخ کی پہلے برج ولو میں حسیض کی حالت اور پھر برج حوت میں بحالت طرح رہنے سے آپ کے مابین کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے آپ کو از حد محتاط رہنا ہوگا۔ 28 جون کو مریخ برج حمل آجانے سے آپ کو اپنے تعلقات بحال کرنے کا موقع ملے گا۔ 10 ستمبر تا 14 نومبر مریخ کی رجعت ایک بار پھر آپ کے بنے بنائے کاموں میں بگاڑ پیدا کر سکتی ہے اس دوران آپکی طے شدہ شادی بھی خدا نخواستہ ترک سکتی ہے۔

### وراثت، مشترکہ مالی معاملات اور قرضہ اس حوالہ

سے سیارگان موافق نظر نہیں آ رہے اس سال آپ کو بوجہ بیہوش مشتری وراثتی اور مالی معاملات میں رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر اس حوالہ سے آپ کے کیسز عدالتی سطح پر ہیں تو فیصلہ آپ کے خلاف آ سکتا ہے۔ اس سال شراکت داری سے




**برج: جوزا** **GEMINI** **سیارہ: عطارد**

رنگ: \_\_\_\_\_  
 عنصر: \_\_\_\_\_  
 جواہر: \_\_\_\_\_  
 بہترین شریک حیات: \_\_\_\_\_  
 ناموافق ساتھی: \_\_\_\_\_

بیماریاں: \_\_\_\_\_

دن: \_\_\_\_\_ وقت: \_\_\_\_\_

22 May to 21 Jun



طے جلے اثرات کا سامنا رہے گا۔ جہاں کچھ مسائل آئیں گے وہیں کچھ سیارگان امداد دینی بن کر آپ کی محافظت کا کام بھی سرانجام دیں گے۔ آغاز سال تا 16 فروری بالعموم اور 16 فروری تا 30 مارچ بالخصوص آپ کے بارہویں کا حاکم مریخ شرف میں رہتے ہوئے آپ کے امیگریشن سے منسلک مسائل حل کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ ادھر 31 مارچ مریخ تخصیص میں آجانے سے بیرون ملک قیام میں رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں تو 20 مارچ تا 19 اپریل شمس آپ کے بارہویں شرفی گھر میں قیام کرتے ہوئے مریخ کی نحوستوں کو کاٹ بھی رہا ہے البتہ 19 اپریل تا 28 جون مریخ کی منفی حالت اور 10 ستمبر تا 14 نومبر مریخ کی رجعت آپ کی مشکلات میں اضافہ کا باعث بن سکتی ہے۔ اس سلسلہ میں کوئی روحانی تدارک کرنا از حد ضروری ہوگا۔

**شمسی و قمری گرہن** امسال گرہن کثرت سے لگ رہے ہیں جس میں چاند قمری اور دو شمسی گرہن لگ رہے ہیں یہ گرہن آپ کی مالی پوزیشن سماجی تعلقات، نزدیکی سفرات، تحریر و تقریر اور مشترکہ مالی اور وراثتی معاملات کے ساتھ ازدواجی معاملات میں کشیدگی کا باعث بن سکتے ہیں بروقت صدقات اور نماز کسوف و خسوف کی ادائیگی سے آپ نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ گرہن کی تواریخ امامیہ جنمتری میں الگ صفحات پر دی گئی ہیں نوٹ کر لیں اسکے علاوہ دیگر تفصیلات یوٹیوب چینل شیخ زوار رضا جاو پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔

**صدقہ** ہر جمعرات کم از کم 300 گرام یا تین پاؤ بڑا گوشت اور تین چمچ ہلدی کسی غریب مستحق کو دیں یا پرندوں کو ڈالیں۔ **ورد خاص** روزانہ ایک تسبیح سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 درود پاک نو مرتباً اول آخر کے ساتھ ورد کریں

## مجرب ترین نسخہ برائے شوگر

درج ذیل 16 اشیاء ہم وزن لیکر سفوف بنا کر آدھا چمچ چائے والا یا حسب ضرورت منہ نہا پچھا تک کر پانی پی لیا کرے چند دنوں کے اندر اندر شوگر کا خاتمہ ہو جائے گا۔ (از علامہ ظفر عباس اسدی)

**نوٹ** نسخہ استعمال سے پہلے شوگر کا پوائنٹ چیک کر لیں بہت زیادہ کم ہونے پر دوائی کا استعمال کم کریں۔

- 1) کلونجی 2) شعلی جامن 3) گڑ مار بوٹی 4) خام گریلہ 5) بیج مرث 6) تنبیہ
- 7) گوند کیکر 8) تخم آم 9) زیری سیاہ 10) تخم نیم 11) ماجو 12) کچور
- 13) رسونت 14) ہرڑ سبز 15) کالے پنے 16) فسطین۔

برائے کشفہ: درج ذیل آیت مع دعا چند مرتبہ کھرا کریں تو کشفہ چیزیں جائیں  
 اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ ﴿۱﴾ یَا مُعِیْنُ ﴿۲﴾ اَللّٰہُمَّ کَشِّفْ عَنِّیْ (کشفہ کا نام لیں)

**اہم نکات 2020** آپ کے لئے اہم اور تبدیلیوں سے بھرپور سال ہے امسال زحل اور مشتری دونوں ہی اپنے گھر تبدیل کر رہے ہیں زحل آٹھویں سے نویں اپنے ہی ذیلی گھر برج دلو میں داخل ہو جانے سے آپ کے روحانی سفر کا آغاز ہو جائے گا گذشتہ اذھائی سال سے زحل جو کہ آپ کے آٹھویں گھر میں تھا جن مشکلات سے آپ دوچار رہے ہیں ان مشکلات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مگر ابھی امتحان قائم نہیں ہوا مشتری گذشتہ 2 دسمبر سے آپ کے زائچہ کے آٹھویں برج جدی ہبوط کے گھر میں آچکا ہے اب آپ کے شرکاتی ازدواجی اور بالخصوص کاروباری مسائل آپ کی مشکلات میں اضافہ کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس حوالہ سے خصوصی طور پر کوئی روحانی تدارک کر لینا مناسب ہوگا۔ چھپے گیارہویں کا حاکم مریخ شرف یا ب ہو کر آپ کی صحت اور ملازمت پر اتنے سے سعادت اثرات مرتب کر رہا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ اپریل تا جون مریخ کی نحوست آپ کے کیریئر روزگار اور بیرون ملک سفرات کو بھی متاثر کر رہا ہے

**شخصی وقار** اس سال دو چیزیں اس حوالہ سے آپ کے لئے اہم ہونگی ایک عطارد جو آپ کا اپنا ستارہ ہے 3 فروری تا گیارہ اپریل، 28 اپریل تا بارہ مئی، اور 6 تا 27 ستمبر، 21 تا 2 دسمبر منفی ہوگا یہ اوقات آپ کے شخصی وقار کے حوالہ سے مشکل ثابت ہو سکتے ہیں۔ حضرت علی کا فرمانِ ذیشان ہے کہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اسکی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں علم نجوم میں سیارہ عطارد آپ کی زبان اور سوچ پر حکومت کرتا ہے تو اس دورانیے میں آپ کو تحریر و تقریر پر خصوصی توجہ دینا ہوگی دوسری اہم بات سیارہ مشتری کی آٹھویں ہبوط کے گھر موجودگی ہے آپ کے ذہنی دباؤ میں اضافہ کا باعث بن سکتی ہے آپ کے شرکاتی ازدواجی و کاروباری معاملات لوگوں میں آپ کی شہرت کو متاثر کر سکتے ہیں۔

**مالی پوزیشن** آپ کے مالی معاملات کا حاکم ستارہ قمر ایک ماہ میں اتنے برے ہر طرح کے حالات سے گذرتے ہوئے آپ کے مالی معاملات پر خاصے گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر جو افراد کبھی کفایت شعار نظر آتے ہیں تو کبھی نہایت ہی فضول خرچ نظر آتے ہیں۔ اگر آپ اپنے مالی

معاملات کو بہتر اور کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو ہر بیج کو دو کلو ٹونا چاول یا دو سو کا صدقہ دینا معمول بنالیں اور ہر قمر در معرب (قمر در معرب کی تواریخ جنتری میں دی گئی ہیں) پر دیا کریں۔ اسکے علاوہ ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر بھی اپ ڈیٹ لے سکتے ہیں۔ اس سال کیرنیر روزگار کا ستارہ مشتری ہیولہ میں ہوگا جسکی وجہ سے آپکے مالی معاملات متاثر ہو گئے چونکہ یہ ایک طویل مدت (13 ماہ) تک ٹھوس رہے گی لہذا اس کا روحانی تدارک لازمی کریں

**عزیز و اقارب، نزدیکی سفرات، اور ابتدائی**

جو افراد یوں بھی خاصے سوشل واقع ہوتے ہیں اس سال آپکو عزیز و اقرباء کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے اور بھی زیادہ مواقع ملیں گے۔ چونکہ لٹریچر پڑھنا اور لکھنا آپکو زیادہ پسند ہے لہذا آپکے تعلیمی میدان میں بھی آپ خاصے کامیاب نظر آتے ہیں ماسوائے ان افراد کے جنکا عطار و وقت و لاوت غروب کی حالت یا شخص حالت میں ہو۔ اسی طرح آپکو کئی سفرات آپکی بادی طبع کے مطابق میسر آئیں گے۔ 20 مارچ تا 19 مئی، 21 جون تا 21 ستمبر، 23 اکتوبر تا 21 دسمبر کا دورانیہ آپکے لئے نہایت بہترین ثابت ہوگا سال کے دیگر اوقات میں آپ کو نہایت محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی۔

**گھر خاندان پر اپرٹی آپکے گھر سکون کا دار و مدار پر در دگار کے بعد**

آپ کے موز پر ہوتا ہے اس سال آغاز سال تا 2 فروری، 11 تا 27 اپریل، 12 مئی تا 5 ستمبر، 27 ستمبر تا یکم دسمبر اور آخر سال تک کا دورانیہ انشاء اللہ بہتر رہے گا۔ اہل خانہ و خاندان کے افراد کے ساتھ تعلقات بہتر ہو گئے جبکہ پراپرٹی جائیداد کے لین یا تبدیلی کی صورت میں موافق حالات ہو گئے۔ سال کا باقی دورانیہ بہتر نا ہوگا محتاط رہیں اس دوران گھر کی تبدیلی یا پراپرٹی کے لین دین سے گریز کریں۔

**اولاد انعامی بانڈ زلاٹری بچوں کے حوالہ سے اس سال آپکو**

قدرے ملے جملے حالات کا سامنا رہے گا۔ 13 جنوری تا 7 فروری اور 5 مارچ تا 2 اکتوبر، اور 28 اکتوبر تا بیس نومبر بچوں کے ساتھ آپکے تعلقات انشاء اللہ تعالیٰ بہتر رہیں گے۔ جبکہ بے اولاد جوڑوں کو بفضل تعالیٰ اولاد کی خوشیاں نصیب ہوگی یہی وہ دورانیہ ہوگا جب آپکو کوئی بڑا انعام لگ سکتا ہے اس دوران حسب ضرورت کوشش کر سکتے ہیں۔ دیگر اوقات میں 8 فروری تا 4 مارچ، 3 تا 27 اکتوبر، اور 21 نومبر تا آخر سال آپکو بچوں کی جانب سے پریشانیاں لاحق ہو سکتی ہیں، بالخصوص حاملہ خواتین کو ان اوقات میں نہایت احتیاط کی ضرورت ہوگی جبکہ اس دوران آپکو بچوں کی جانب خصوصی توجہ اور بچوں سے تعلقات بڑھانے کی کوشش کرنا ہوگی۔

**صحت ملازمت اور ملازمین** اس سال آپکو صحت اور ملازمت پر خصوصی توجہ دینا ہوگی آغاز سال تا 30 مارچ آپکو موافق حالات ملیں گے جبکہ آپکو نئی ملازمت کی آفر ملنے کی امید ہے اور صحت بہتر رہے گی۔ مگر 31 مارچ تا 27 جون آپکو صحت اور ملازمت دونوں پر توجہ دینا ہوگی اس دوران آپکو خدا نخواستہ سہ جری سے بھی واسطہ پڑ سکتا ہے پروردگار آپکو اپنی امان میں رکھیں۔ 28 جون سے حالات میں بہتری آئے گی مگر 10 ستمبر تا 14 نومبر بوجہ رجعت مشتری آپ کو ایک بار پھر مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔

**شادی ازدواجی زندگی شراکت داری 2020 آپکی**

شادی اور ازدواجی زندگی دونوں کے حوالہ سے بہتر سال نا ہوگا۔ آپکے بیت الزوج کا حاکم ستارہ مشتری سارا سال ہیولہ میں رہتے ہوئے آپکی ازدواجی زندگی کو متاثر کر رہا ہے گا بالخصوص 14 مئی تا 13 ستمبر کا دورانیہ کسی امتحان سے کم نا ہوگا اگر معاملات کو تحمل اور برداشت کی روش پر نا سلجھایا تو آپکی علیحدگی بھی ہو سکتی ہے۔ اس سال نئی شادی کے حوالہ سے گریز کریں تو بہتر ہوگا ورنہ اس سال کی گئی شادیاں اچھے انجام کو نا پہنچ سکیں گی اسی طرح یہ سال شراکت داری کے لحاظ سے بھی اچھا نا ہوگا۔

**وراثت، مشترکہ مالی معاملات، قرضہ** اس سال مشترکہ

مالی امور شراکتی اور وراثتی مسائل بوجہ ہیولہ مشتری آپکی پریشانیوں کا باعث بن سکتے ہیں نئے عدالتی کیسز داخل کرنے سے گریز کریں جبکہ گذشتہ جاری کیسز کا فیصلہ بھی آپکے خلاف آنے کی توقعات ہوگی۔ باہمی طور پر اندرون خانہ معاملات حل کرنے کی کوشش کریں اس سال ٹیکوں کی جانب سے سہولیات ملنے کی خاص امید نا ہے اور نا ہی قرضہ ملنے کا کوئی امکان ہوگا۔

**روحانیت، بیرون ملک سفرات، حج و زیارات**

آپ کے نویں گھر کا حاکم ستارہ 21 مارچ کو نویں گھر داخل ہو جانے سے آپ کے بیرون ملک سفرات جانے کی راہیں کھل جائیں گی۔ آپکے حج یا زیارات کے سفر کی خواہشات بفضل تعالیٰ پوری ہوگی۔ زحل جیسے معلم ستارے کا نویں گھر میں آنا آپکو روحانی علوم کے حصول میں انتہائی معاونت فراہم کرے گا مگر یہ علوم صرف وہ افراد حاصل کر سکیں گے جو توکل کریں گے۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند افراد کو بھی انشاء اللہ کامیابیاں نصیب ہوگی 11 مئی تا 29 ستمبر زحل کی رجعت قدرے رکاوٹ کا باعث ہوگی۔

**معیشت کیریئر روزگاترقی تنزلی** جیسا آپ پچھلی سطور

میں پڑھ چکے ہیں کہ مشتری اس سال ہیولہ میں رہے گا۔ مشتری آپکے کیریئر روزگار کا ستارہ بھی ہے مشتری کا یہ ہیولہ اس سال آغاز سال تا 19 دسمبر جاری رہے

**سرطان: سرطان** **CANCER** **سیارہ: قمر**

رنگ: سفید و زرد  
 عنصر: آبی  
 جواہر: بھران، ہونی، زہر و شبنم  
 بہترین شریک حیات: عقرب، موت  
 ناموافق ساتھی: حمل، ہڈی، مہرمان

بیماریاں: بھیڑوں اور سانس کی تکلیف، جلد، گردوں اور پیٹاب کی تکلیف

دن: جمعہ ۲ 22 June to 23 July ۲۰۲۰ ہجرت: ۱۴۴۱



گا اس سال نئے منصوبوں کی بنیاد رکھنے یا نئی سرمایہ کاری کرنے سے گریز کرنا ہوگا پوری توجہ گذشتہ چارہ کاموں کو بخیر و خوبی انجام تک پہنچانے میں لگانی ہوگی تاکہ کسی بھی قسم کے نقصان سے بچا جاسکے، اسکے علاوہ ملازمت پیشہ افراد کو بھی ترقی ملنا مشکل ہوگی اس سال اپنے کیریئر روزگار کو بچانے کے لئے لازمی ہوگا کہ روحانی تدارک از قسم صدقہ ورد و خائف کی صورت میں ضرور کریں تاکہ مشکلات سے بچا جاسکے۔

**دوست احباب خواہشات کاروباری فوائد** سال کا آغاز ہی آپکی خواہشات کی تکمیل سے ہو رہا ہے۔ آپکی خوش بختی عروج پر ہوگی گیارہویں کا مالک مریخ آپکی خواہشات کی تکمیل میں معاون ثابت ہوگا اور دوست احباب کا بھرپور تعاون میسر رہے گا۔ 31 مارچ تا 28 جون مریخ کے پہلے طرح اور پھر حقیقت میں رہنے کی وجہ سے خواہشات کی تکمیل میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی اٹھائیس جون کے بعد حالات ایک بار پھر آپکے حق میں ہونگے اور کے ہوئے کام بننا شروع ہو جائیں گے جبکہ مریخ کی رجعت 10 ستمبر تا 14 نومبر رہتے ہوئے ایک بار پھر آپکی مشکلات میں اضافہ ہوگا دوست احباب سے بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے اور تعلقات کشیدہ ہو سکتے ہیں۔

**بیرون ملک قیام امیگریشن خفیہ سازشیں** آپکے زانچہ کا بارہواں گھر بیرون ملک قیام سفرات اور امیگریشن سے منسوب ہے اسکا حاکم سیارہ زہرہ آغاز سال تا 8 فروری انتہائی سعد حالت میں رہے گا بیرون ملک قیام کی کوششیں کامیاب ہونگی اس دوران ویزہ اپلائی کرنا نہایت سود مند ہوگا۔ 5 مارچ تا 28 اکتوبر تا 28 اکتوبر تا اکیس نومبر امیگریشن اپلائی کرنے کے حوالہ سے نہایت مفید اوقات ہونگے۔ سال کے باقی دورانیہ میں ایسے اقدامات سے گریز کریں۔ اللہ کے نظام کائنات میں جہاں کسی کام کے فوائد ہوتے ہیں وہی کسی جگہ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں جس دوران امیگریشن کے لئے حالات سازگار ہونگے اسی دوران خفیہ سازشوں کا میدان بھی آپکے خلاف سرگرم ہوگا آپکا زور محتاط رہنا ہوگا۔

**شمسی و قمری گرہن** اس سال ہونے والے چار قمری اور دو شمسی گرہن بالخصوص ازدواجی شراکتی سماجی تعلقات مالی پوزیشن اور ورثاتی و مشترکہ مالی مفادات کو متاثر کرنے کا باعث بن سکتے ہیں۔ گرہن کی تواریخ آپ جنتری سے دیکھ سکتے ہیں جو کہ الگ شائع کئے جاتے ہیں۔

**ورد خاص** روزانہ ایک تسبیح اول آخر بارہ بارہ مرتبہ ورد پاک سورۃ طلاق کی آیت نمبر دو اور تین کا ورد کریں (و من یتق اللہ تالا یتحسب) صدقہ ہر جمعرات کم از کم 300 گرام بڑا گوشت اور 3 چمچے ہلدی کسی مستحق کو دیں یا جانوروں کو ڈال دیں۔

سال 2020 یوں تو تمام بروج میں تبدیلیوں کا سال ہوگا تاہم برج سرطان کے لئے یہ تبدیلیاں زندگی کے اہم امور میں اہم نوعیت کی ہونگی۔ مارچ میں زحل اس سال ساتویں برج جدی سے نکل کر آٹھویں گھر میں داخل ہوگا۔ جبکہ چھٹے گھر موجود مشتری ساتویں گھر بیوط میں داخل ہو کر ازدواجی شراکتی سماجی معاملات، صحت جاب اور بیرون ملک سفرات روحانیت اور سسرالی عزیز واقارب کو متاثر کرے گا۔

**شخصی وقار** آپکا ذاتی ستارہ قمر ایک ماہ میں چار مثبت اور چار منفی حالات سے گذرتے ہوئے آپ کی شخصیت پر اچھے برے دونوں طرح کے اثرات مرتب کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے شخصی وقار کو منظور بنانا چاہتے ہیں تو جنتری سے قمر کی مثبت اور منفی حالات کو نوٹ کریں اور ہر منفی حالت میں رد و کلوٹو نا چاول دودھ یا آنا کسی مستحق کو دینا معمول بنالیں۔ 21 جون تا 23 جولائی شمس کا طالع میں اوج میں آنا اور 7 اگست تا 6 ستمبر زہرہ کی طالع میں موجودگی آپکی شخصیت وقار میں اضافہ اور مضبوطی کا باعث بنیں گے۔ البتہ اس سال آپکو شراکتی ازدواجی و سماجی معاملات پر خاص توجہ دینا ہوگی آپکے منسوبہ معاملات میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔

**مالی پوزیشن** آپکے مالی امور سے منسوب سیارہ شمس جنوری تا 20 مارچ، 20 مارچ تا 21 جون، اور 22 ستمبر تا 21 اکتوبر، اور 21 دسمبر تا آخر سال اچھی پوزیشن میں ہوگا۔ ان اوقات کو کر لیں اور ان ایام میں کسی لین دین اور مالی معاملات سے گریز کریں وگرنہ آپ مالی بحران کا شکار ہو سکتے ہیں جبکہ 21 مارچ تا 19 مئی، اور 21 ستمبر تا 23 اکتوبر تا 20 دسمبر کا دورانیہ آپکی مالی پوزیشن زیادہ مستحکم رہے گی بالخصوص 21 جون تا 22 اگست کا دورانیہ آپکی مالی پوزیشن بہتر بنانے کے لئے کئی ایک مواقع لے کر رہا ہے۔

**عزیز واقارب، نزدیکی سفرات، و ابتدائی تعلیم** آپکے بیت الاقرباء کا حاکم ستارہ عطارد یک جنوری تا 3 فروری، 11 تا 28 اپریل، اور 21 مئی تا 6 ستمبر اور 27 ستمبر تا 2 دسمبر بہتر پوزیشن میں رہے گا آپکی ابتدائی تعلیم پر مثبت اثرات مرتب کرے گا اس دوران کئی ایک نزدیکی سفرات آپ کو درپیش ہونگے۔ بہن بھائیوں اور قریبی اقرباء کے ساتھ آپکے

Imamia Jantri Official By Ifikhar Book Depot. Download from Googleplay-IO5playstore

ازدواجی معاملات کا حاکم ستارہ اپنے ہی گھر رہتے ہوئے سال گذشتہ سے آپ کے لئے بہت آسانیاں پیدا کرتا رہا ہے اس سال بھی 22 مارچ تک زحل کی اپنے ہی گھر میں موجودگی حالات کو موافق رکھے گی۔ دوسری جانب آغاز سال سے ہی مشتری ساتویں ہیوط کی حالت میں موجود ہے۔ زحل کے اگلے گھر چلے جاتے سے اس کے منفی اثرات میں اضافہ ہو جائے گا۔ آپ کو ہر قدم محتاط ہو کر رکھنا ہوگا۔ 14 مئی تا 13 ستمبر مشتری رجعت جلتی پرتیل کا کام کرے گی اور آپ کے تعلقات کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ سرطان افراد کی طے شدہ شادیاں التوا کا شکار ہو سکتی ہیں جبکہ حالات انتہائی کشیدہ علیحدگی کی حد تک جا سکتے ہیں۔ یہ سلسلہ 19 دسمبر تک جاری رہے گا سرطان افراد کا اس سال شادی نہ کرنا بہتر ہوگا۔

**وراثت، مشترکہ مالی معاملات، قرضہ 20 جنوری تا 19 فروری** خمس کی آٹھویں گھر موجودی وراثتی معاملات کے لحاظ سے اچھی نہ ہوگی۔ 22 مارچ زحل کی آٹھویں گھر آمد سے معاملات بہتر ہونا شروع جائیں گے۔ آپ کے روکے ہوئے وراثتی معاملات بننا شروع ہو جائیں گے آپ کے روکے ہوئے پیسے کی واپسی ممکن ہوگی جبکہ کسی نیک شخص سے قرض لینا چاہیں تو مل سکتا ہے۔ 11 مئی تا 29 ستمبر زحل کی رجعت کے دوران کاموں میں رکاوٹ اور التوا کا سامنا ہوگا مگر کام انشاء اللہ بنتے رہیں گے۔

**روحانیت اعلیٰ تعلیم بیرون ملک سفارت حج و زیارات** نویں گھر کا حاکم مشتری آغاز سال تا 19 دسمبر ساتویں ہیوط کے گھر میں رہتے ہوئے منسوبی کاموں میں التوا اور ناکامی کا سامنا لا سکتا ہے جبکہ اس سال ویزہ وغیرہ پلائی کرنے سے قبل کوئی روحانی تدارک کروانا از حد ضروری ہوگا۔ روحانی معاملات میں آپ کو محتاط روش اختیار کرنا ہوگی۔ کوئی بھی عقیدہ تحقیق کی بنیاد پر بنانا بہتر ہوگا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے افراد کے لئے ماحول سازگار نا ہوگا۔ 3 تین فروری تا 11 اپریل تک کا دورانیہ خاصہ مشکل ثابت ہو سکتا ہے۔

**معیشت کیرنر روزگار ترقی تنزلی** کیرنر روزگار کے حوالہ سے آپ کو طے طے حالات کا سامنا رہے گا۔ 3 جنوری تا 16 فروری کا دورانیہ بہتر گذرے گا اس دوران ملازمت پیشہ افراد کو بہتر ملازمت کا حصول ممکن ہوگا۔ 16 فروری تا 31 مارچ مریخ کی شرف کے گھر موجودگی ملازم پیشہ افراد کو ترقی مل سکتی ہے اسکے ساتھ ہی اپنا کاروبار کرنے والے افراد کے لئے بھی حالات انتہائی سازگار ہونگے۔ 31 مارچ تا 28 جون مریخ کی حسیض اور طرح کی حالت میں موجودگی آپ کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرے گی اس دوران ملازمت تبدیل کرنے کی حماقت نہ کریں 28 جون کے بعد حالات ایک بار پھر آپ کے حق میں بہتر ہونگے۔ 10 ستمبر تا 14 نومبر مریخ کی رجعت آپ کی ترقی کی رفتار کم کر دے گی۔

تعلقات بہتر رہیں گے جبکہ 3 فروری تا 11 اپریل کا دورانیہ اور 6 تا 26 ستمبر تا دورانیہ محتاط روش کا متقاضی ہوگا بہن بھائیوں سے بھی اختلافات ہو سکتے ہیں اس دوران سفر میں اپنے سامان اور کاغذات وغیرہ کا خاص خیال رکھیں۔

**گھر خاندان پر اپریشی** اس سال آپ کے گھر یلو حالات طے طے رہنے کا امکان ہے 1 تا 13 جنوری اور 8 فروری تا پانچ 5 مارچ 3 تا 27 اکتوبر اور 21 نومبر تا آخر سال خانگی ماحول سازگار نہ ہوگا جبکہ پر اپریشی کی خرید و فروخت میں مسائل اور رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں اسکے ساتھ ہی خاندان کے افراد سے کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے۔ جبکہ 14 جنوری تا 8 فروری 6 مارچ تا 12 اکتوبر اور 28 اکتوبر تا 20 نومبر آپ کے حالات موافق رہیں گے اس دوران گھر کی تبدیلی حسب خواہش ممکن ہو سکتی ہے جبکہ گھر یلو سکون اور معاملات بہتر رہیں گے۔

**اولاد انعامی بانڈز اور لائٹری و اسٹاک مارکیٹ** اس سال آپ کو بچوں کے معاملات پر خصوصی توجہ دینا ہوگی آپ کے پانچویں گھر کا حاکم مریخ اس سال شرف حسیض اور طرح جیسے حالات اور رجعت کا شکار ہوگا 3 جنوری تا 30 مارچ حالات انتہائی موافق رہیں گے آپ کا کوئی انعام نکل سکتا ہے اس دوران بے اولاد و سرطان جوڑوں کو اولاد کی خوشخبری مل سکتی ہے۔ بڑے بچوں سے تعلقات اچھے رہیں گے جبکہ 31 مارچ مریخ برج دلوم میں چلے جانے سے حالات میں کشیدگی پیدا ہوگی اور 28 جون تک رہے گی یہ سال کا سب سے مشکل دورانیہ ہو سکتا ہے بچوں کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہو سکتے ہیں حاملہ سرطان خواتین کو اس دوران خاصی احتیاط برتنا ہوگی اپنی صحت کا خیال رکھیں صورتحال خطرناک ہو سکتی ہے۔ 29 جون سے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے جبکہ 10 ستمبر تا 14 نومبر مریخ کی رجعت کے درمیان حالات کشیدہ ہو سکتے ہیں مگر پہلے کی نسبت کم کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ انعامی اسکیموں میں حصہ لینے والے افراد کے لئے 3 جنوری تا 31 مارچ کا دورانیہ قسمت آزمائی کے لئے انتہائی موزوں ہوگا۔

**صحت ملازمت اور ملازمین** سال 2020 جی میں آپ کو اپنی صحت پر خصوصی توجہ دینا ہوگی۔ مشتری اس سال ابتدا سے 19 دسمبر تک ہیوط میں رہتے ہوئے آپ کی صحت کو بری طرح متاثر کر سکتا ہے۔ 14 مئی تا 13 ستمبر مشتری کی رجعت آپ کی مشکلات میں اضافہ کر سکتی ہے جبکہ آپ کو مریخ سے بھی واسطہ پڑ سکتا ہے اسی طرح یہ دوران آپ کی ملازمت کے حوالہ سے بھی اچھا نہ ہوگا اس دوران ملازمت کی تبدیلی یا چھوڑنے کی کوشش ہرگز نہ کریں۔ اس دوران آپ کو اپنے ملازمین پر بھی خصوصی توجہ دینا ہوگی بالخصوص ایسے افراد جو اشتراکی کاروبار سے منسلک ہیں انہیں احتیاط برتنا ہوگا۔

**شادی ازواجی تعلقات و شراکتی معاملات** آپ کے

**برج: اسد** **LEO** **سیارہ: شمس**

رنگ: کولڈن، نارنجی  
مصنوع: آتش  
خواص: پیرا، ہنسنا  
بہترین شریک حیات: حمل، آؤس، ثور  
ناموافق ساتھی: عقرب، دلو



بیماریاں: ہائی بلڈ پریشر، ریڑھ کی ہڈی، مکر کی تھیلی، دل کی تھیلی

دن: اتوار، جمعہ: 24 July to 23 Aug

**دوست احباب خواہشات کاروباری فوائد آپ کی خوشنہی**

کا ستارہ زہرہ اس سال 13 جنوری تا 7 فروری، 5 مارچ تا 2 اکتوبر اور 28 اکتوبر تا 20 نومبر بہتر حالتوں شرف اوج و فرح میں رہتے ہوئے آپ کی خواہشات کی تکمیل اور دوست احباب سے تعلقات کو بہتر بناتا رہے گا۔ اس دوران آپ کو بہتر کاروباری فوائد ملتے رہیں گے جبکہ اسکے علاوہ باقی اوقات میں آپ کے معاملات میں رکاوٹیں اور بگاڑ پیدا ہو سکتی ہے۔

**بیرون ملک قیام امیگریشن اور خفیہ سازشیں**

3 فروری تا 11 اپریل، 28 اپریل تا 12 مئی اور 6 تا 26 ستمبر اور 2 تا 20 دسمبر حالات آپ کے موافق نہ ہونگے آپ کو وطن واپسی کی راہ دیکھنا پڑ سکتی ہے جبکہ یکم جنوری تا 1 فروری، 11 تا 27 اپریل اور 12 مئی تا 5 ستمبر، 27 ستمبر تا 1 دسمبر حالات آپ کے موافق رہیں گے اس دوران آپ کا بیرون ملک قیام ممکن ہوگا اور اسی دوران یہ میں آپ کو امیگریشن اپلائی کرنا بہتر ہوگا مگر ہوشیار رہیں اسی دوران آپ کے خفیہ دشمن بھی آپ کے خلاف صف آراء ہو سکتے ہیں۔

**شمسی و قمری گرہن اس سال ہونے والے شمسی و قمری گرہن**

سب سے زیادہ آپ کو متاثر کریں گے چونکہ قمر آپ کا اپنا ستارہ ہے اور شمس آپ کے مالی معاملات کا ستارہ ہے۔ قمری گرہن آپ کے وقار عزت اور شخصیت کو متاثر کرنے کا جب کہ شمس آپ کے مالیات کا حاکم آپ کے مالی معاملات کو متاثر کرے گا۔ اس سال ہونے والے شمسی و قمری گرہن صحت چاب از دو ابھی و شراکتی تعلقات کے ساتھ ساتھ آپ کے بیرون ملک قیام کو بھی متاثر کر سکتے ہیں۔ گرہن کی تواریخ جنتری سے نوٹ فرمائیں اور ان تواریخ میں صدقات اور نماز کسوف و خسوف کی ادائیگی لازمی کریں تاکہ گرہن کی نحوستوں سے بچا جاسکے۔

**صدقہ ہر جمعرات کم از کم 300 گرام یا 3 پاؤنڈ بڑا گوشت کسی مستحق کو دیں یا**

**ورد خاص**۔ روزانہ بعد نماز فجر سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 14 دہر کریں جبکہ روزانہ بعد از نماز عشاء سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 ایک تسبیح روزانہ ورد کریں۔

**اعلیٰ شفاء**

بچوں کے ناسلز بغیر آپریشن کے صرف ایک کورس میں ختم، گلے کا کینسر اور دیگر کینسر کے لیے مشورہ ضروری ہے، ہائی ولو بلڈ پریشر کا کامیاب علاج صرف دودن میں کورس پورا کرنا لازمی ہے۔ لیکور یا صرف ایک کورس میں ختم یتیم بچوں، بیوہ عورتوں کا علاج فری ہے۔ صرف پرچی نہیں -/50 روپے

سہیل اشرف ہاشمی ہربل کینسر سپیشلسٹ  
WhatsApp 0092-323-8564171

**اہم نکات** برج اسد والوں کے لئے سال 2020ء سال گذشتہ کی نسبت مختلف ثابت ہوگا دونوں بڑے ستارے اپنے بروج تبدیل کرتے ہوئے آپ کی شخصیت صحت اولاد امیگریشن ازدواجی سماجی خانگی و شراکتی معاملات پر کیا اثرات مرتب کر رہے ہیں۔ اور دیگر سیارگان شمس و قمر زہرہ عطارد و مریخ آپ کے لئے کیا اثرات لارہے ہیں یہ اگلی سطور میں ملاحظہ فرمائیں۔

**شخصی وقار آپ کے برج کا حاکم سیارہ شمس آغاز سال تا 20 مارچ**

22 ستمبر تا 23 اکتوبر بہتر پوزیشن میں نہ ہوگا اس دوران زیادہ ہیلیک پلیمس پر جانے یا سماجی تقریبات میں جانے سے گریز کریں اپنے شخصی وقار کو بچانے کے لئے گفتگو میں احتیاط برتیں۔ ہر اتوار کم از کم ایک کلو یا دس کلو گندم یا دال چنا کا صدقہ دینا معمول بنالیں۔ اسکے علاوہ اس سال ہونے والے شمسی گرہن بالتقریب 21 جون اور 31 دسمبر بھی آپ کی عزت تو قیور کو متاثر کر سکتے ہیں ان ایام میں گرہن کے صدقات دیں اور نماز آیات ادا کر کے بروقت خود کو بڑے اثرات سے بچا سکتے ہیں۔

**مالی پوزیشن** آپ کے مالی امور کا ستارہ عطارد اس سال یکم جنوری تا

2 فروری، 11 تا 27 اپریل، 12 مئی تا 5 ستمبر، اور 27 ستمبر تا یکم دسمبر بہتر پوزیشن میں ہوگا آپ کی مالی پوزیشن مستحکم رہے گی جبکہ 3 فروری تا 11 اپریل، 22 اپریل تا 11 مئی اور 6 تا 27 ستمبر آپ کو از حد محتاط رہنا ہوگا بہتر ہوگا ان اوقات میں کسی بھی قسم کے تحریری یا زبانی معاہدوں اور لین دین میں کسی قسم کی غلطی سے گریز کریں بالخصوص چیک وغیرہ لکھ کر دینے سے گریز کریں کسی غلطی سے آپ قانونی معاملات میں پھنس سکتے ہیں۔

**عزیز و اقارب ابتدائی تعلیم نزدیکی سفرات**

اس حوالہ سے آپ کو اس سال طے جلے حالات کا سامنا رہے گا ابتدائے سال میں 13 جنوری تا 8 فروری، 5 مارچ تا 2 اکتوبر، 28 اکتوبر تا 20 نومبر حالات کافی بہتر رہیں گے عزیز و اقرباء کے ساتھ تعلقات بہتر رہیں گے اس دوران آپ کو کوئی ایک نزدیکی سفرت کا موقع بھی ملے گا جبکہ اسد بچوں کے لئے بھی یہ خاصہ بہتر

شادیاں یا نسبت ملنے نہیں ہوئی یا جو عقد ثانی کے خواہش مند ہیں انکی مرادیں بر آئیں گی۔ 11 مئی 29 ستمبر زحل کی رجعت شراکتی و ازدوجی معاملات میں مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ محتاط رہیں اور یہ وقت قتل اور بربادی سے گزریں۔ زحل کے اثرات سے بچاؤ کے لئے کوئی اچھا روحانی تدارک کریں یا ہفت کے دن کالے ماش 800 گرام کا صدقہ دینا بہتر ہوگا سال کا باقی دوران انشاء اللہ اچھا گزرے گا۔

**وراثت مشترکہ مالی معاملات قرضہ جات** جیسا کہ پچھلی سطروں میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ مشتری اس سال ہیبت میں گھس ہوتے ہوئے بجائے سعد کے گھس اثرات مرتب کرے گا۔ مشتری آپ کے زائچے میں آٹھویں گھر کا حاکم ہوتے ہوئے وراثتی معاملات میں مسائل پیدا کرے گا ایسے افراد جنکے وراثتی معاملات عدالتوں میں ہیں انکے مقدمات میں التوا یا فیصلہ توقع کے برعکس آسکتا ہے اسی طرح مشترکہ مالی مفادات میں کام کرنے والے افراد بھی مالی فوائد سے محروم رہیں گے جبکہ دوسروں سے واسطہ مالی مفادات یعنی قرضہ لینا یا دینا جیسے معاملات میں بھی مشکلات درپیش آئیں گی۔

**روحانیت بیرون ملک سفرات حج و زیارات** اس سال ابتدا سے ہی معاملات آپ کے حق میں بہتر رہیں گے روحانیت اور روحانی علوم میں آپ کی دلچسپی بڑھے گی جب کہ بیرون ملک سفرات حج یا زیارات کے حوالہ سے ویزہ کے حصول کے لئے 3 جنوری تا 31 مارچ کا وقت نہایت موافق رہے گا۔ یکم اپریل تا 28 جون حالات آپ کے حق میں نہ ہونگے اس حوالہ سے شرف مریخ کی لوح آپ کے مسائل میں آسانیاں پیدا کرے گی۔ اسی دوران وال مسور 900 گرام یا کبجی کا صدقہ بروز منگل دینا بہتر ہوگا۔ 28 جون سے حالات میں مثبت تبدیلی آئے گی۔ جبکہ 10 ستمبر تا 14 نومبر بوجہ رجعت مریخ ایک بار پھر مشکل حالات کا سامنا ہو سکتا ہے۔

**معیشت کیرئیر روزگار ترقی و تنزلی** آپ کے روزگار اور معیشت سے منسوب ستارہ زہرہ اس سال 13 جنوری تا 7 فروری شرف کے گھر رہتے ہوئے آپ کے معاملات میں بے حد بہتری کا باعث ہوگا اس دوران آپ حسب منشاء ترقی حاصل کر سکتے ہیں جبکہ 5 مارچ تا 12 اکتوبر اور 28 اکتوبر تا 20 نومبر حالات ایک بار پھر آپ کے حق میں ہونگے اس دوران آپ کو کیرئیر روزگار اور کاروبار کے حوالہ سے بہتر فیصلے کرنے اور نئے مواقع ملنے کا امکان ہوگا جبکہ 8 فروری تا 3 مارچ، 3 تا 27 اکتوبر اور 21 نومبر تا آخر سال حالات آپ کے حق میں موافق نہ ہونگے اس دوران روزگار میں اہم فیصلے کرنے اور ملازمت تبدیل کرنے سے گریز کریں۔

**دوست احباب خواہشات اور کاروباری فوائد** اس

وقت رہے گا البتہ 9 فروری تا 4 مارچ، 3 تا 28 اکتوبر، 21 نومبر تا آخر سال ہوا آپ کے مخالف ہوگی اس دوران آپ کو محتاط رہش اختیار کرنا ہوگی۔ عزیز واقارب بالخصوص بہن بھائیوں سے تعلقات کشیدہ ہو سکتے ہیں احتیاط اور تحمل کے ساتھ یہ وقت گزانا بہتر ہوگا۔ اس دوران چوک و چینی کا صدقہ دینا حالات میں بہتری لائے گا **گھر خاندان پراپرٹی سواری** بیت الارض چوتھے گھر کا حاکم مریخ اس سال زیادہ تر اچھا رہے گا تاہم کچھ وقت تکنیوں کا بھی آسکتا ہے۔ آغاز سال تا 30 مارچ مریخ برج قوس اور شرفی برج جدی میں رہتے ہوئے آپ کے خانگی معاملات میں بہتری کا باعث بنے گا۔ آپ کے لئے گھر پراپرٹی اور سواری کے لین دین میں بہتری پیدا ہوگی انوشنٹ کی غرض سے جائیداد کی خریداری کا بہترین وقت مئی ہوگا۔ 31 مارچ تا 27 جون حالات اچھے نہ ہونگے اس دوران خانگی معاملات اختلافات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس دوران گھر جائیداد سواری کی تبدیلی یا لین دین سے گریز کریں۔ 28 جون کے بعد حالات میں بہتر مثبت تبدیلی آئے گی۔ 10 ستمبر تا 14 نومبر مریخ کی رجعت کی وجہ سے حالات میں تناؤ اور کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے۔

**اولاد انعامی بانڈ زلاثری** آپ کی زندگی کا یہ شعبہ اس سال خصوصی توجہ کا مطالب ہوگا۔ مشتری سارا سال ہیبت میں رہتے ہوئے آپ کے تعلقات بچوں کے ساتھ کشیدہ کر سکتا ہے۔ اسد بچوں میں ضد اور قنوطیت کا غلبہ رہے گا۔ اسد خواتین جو حاملہ ہوں انہیں خصوصی احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ وگرنہ آپ کو صحت کے شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ انعامی ایکیموں کے لحاظ سے یہ سال آپ کے لئے موافق نہ ہوگا بہتر ہے پیسہ ضائع نہ کریں۔

**صحت ملازمین اور ملازمت** سال گذشتہ سے بیت الصحت کا حاکم زحل چھٹے گھر میں موجود رہنے سے آپ کی جہاں صحت بہتر ہو رہی ہے وہیں کچھ افراد بوجہ حسد و جاووکا شکار بھی ہو رہے ہیں۔ اس سال آپ کو صحت اور ملازمت دونوں پر خصوصی توجہ دینا ہوگی کیونکہ گذشتہ سال دسمبر سے مشتری بیت الصحت میں ہیبت یافتہ موجود ہے آپ کی صحت اور ملازمت دونوں کو متاثر کر رہا ہے۔ مارچ میں زحل کے ساتویں گھر چلے جانے سے زحل کی سعادتوں سے محروم ہو جائیں گے جسکی بنا پر مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے خصوصاً صحت پر توجہ دیں اور ملازمت چھوڑنے کی قطعی حماقت نہ کریں۔ اس سال آپ کو کوئی پرانا اور وفادار ملازم چھوڑ کر جاسکتا ہے۔

**شادی ازدواجی زندگی شراکت داری** آپ کے ساتویں بیت الزوج کا حاکم ستارہ زحل مارچ میں ساتویں گھر داخل ہو جائے گا شراکتی ازدواجی معاملات میں خاصی بہتری آجائے گی۔ وہ اسد افراد جن کی اب تک

برج: سنبلہ **VIRGO** ستارہ: عطارد

رنگ: کھارو، عطا  
 منبر: ٹاکی  
 جواہر: کھمبک، زرد، حقین، فیروزہ  
 بہترین شریک حیات: جدی، ثور  
 ناموافق ساتھی: قوس، حوت، 12



بیماریاں: معدہ، بکری، آنسو کی بیماریاں، اسرمان کی تکلیف

دن: بدھ، عدد: 5، 24 Aug to 23 Sep، حروف: پ، ج

**اہم نکات: 2020ء** سنبلہ افراد کیلئے خاص طور پر اہم سال ثابت ہوگا دونوں بڑے سیارگان آپ کے زائچے میں بروج تبدیل کرتے ہوئے آپ کی زندگی پر خاص اہم اثرات مرتب کر رہے ہیں اس سال چوتھے ساتویں کا حاکم مشتری تقریباً تمام سال ہیوط میں رہتے ہوئے آپ کے خاگی اور شرکتی ازدواجی زندگی کو متاثر کر رہا ہے پانچویں چھٹے کا حاکم زحل زائچے کے چھٹے آنے سے جہاں آپ کی صحت و ملازمت میں بہتری آئے گی وہیں آپ خدا نخواستہ سحر جادو کا بھی شکار ہو سکتے ہیں۔

**شخصی وقار:** آپ کی شخصیت، پبلک امیج کا حاکم سیارہ عطارد اس سال یکم جنوری تا 2 فروری، 11 تا 17 اپریل، 12 مئی تا ستمبر، 27 ستمبر تا یکم دسمبر بہتر پوزیشن میں رہتے ہوئے آپ کی سوجھ بوجھ میں اضافہ کرے گا لوگوں میں آپ کا وقار بلند ہوگا جبکہ 3 فروری تا 10 اپریل بالخصوص آپ کو محتاط رہنا ہوگا عطارد کا ہیوط آپ سے غلط گفتگو اور فیصلے کروا سکتا ہے یہ وقت بالخصوص شادی شدہ خواتین و حضرات کو متاثر کر سکتا ہے اسکے علاوہ 28 اپریل تا 11 مئی، 6 تا 27 ستمبر، 2 تا 31 دسمبر بھی آپ کو محتاط روش سے گزارنا ہوئے اپنی گفتگو، تحریر کا ہر لفظ بہت سوچ سمجھ کر ادا کریں آپ کی ضرورت سے زیادہ بے عمل گفتگو آپ کے شخصی وقار کو متاثر کر سکتی ہے

**مالی پوزیشن** گذشتہ کی طرح اس سال بھی آپ کو قدرے طے جلے مالی حالات کا سامنا رہے گا یکم تا 7 فروری، 5 مارچ تا 2 اکتوبر، 28 اکتوبر تا یکم دسمبر آپ کو اپنی مالی پوزیشن مستحکم کرنے کا موقع ملے گا اور انشاء اللہ پروردگار کا فضل رہے گا جبکہ 8 فروری تا 4 مارچ، 3 تا 27 اکتوبر اور 2 تا 31 دسمبر آپ کو ہر قسم کی فضول خرچی سے گریز کرنا ہوگا وگرنہ آپ مالی بحران کا شکار ہو سکتے ہیں اس دوران کسی بھی قسم کے بڑے مالی فیصلے کرنے یا چیک وغیرہ دینے سے گریز کرنا بہتر ہوگا مجموعی طور پر یہ سال مالی اعتبار سے بہتر رہے گا۔

**مزیزو اقارب ابتدائی تعلیم نزدیکی سفر:** اس سال ابتداء سے ہی آپ کے تعلقات عزیز و اقارب بالخصوص بہن بھائیوں سے بہتر رہے گا یکم جنوری تا 30 مارچ کئی ایک نزدیکی سفر متوقع ہیں اور سماجی تعلقات میں بہتری آئے گی 31 مارچ تا 27 جون مریخ کی خراب حالت کیوجہ سے

سال آپ کی خوش بختی عروج پر ہوگی آغاز سال تا 3 فروری، 11 تا 27 اپریل، 12 مئی تا 5 ستمبر، 27 ستمبر تا یکم دسمبر آپ کو موافق حالات ملیں گے دوست احباب سے واسطہ تو قعات پوری ہو سکیں گی۔ کاروباری معاملات میں اٹھائے گئے اقدامات کا پھل آپ کو ملے گا۔ یہ آپ کی خواہشات کی تکمیل کے اوقات ہیں جبکہ 3 فروری تا 10 اپریل آپ کو اپنی خواہشات پر قابو رکھنا ہوگا۔ دوست احباب سے واسطہ تو قعات پوری نہ ہو سکیں گی۔ 6 تا 26 ستمبر اور 2 دسمبر تا آخر سال کا دورانیہ بھی آپ کے حق میں بہتر نہ ہوگا آپ کو محتاط روش اپنانا ہوگی۔

**بیرون ملک قیام امیگریشن خفیہ سازشیں** ہر ماہ ہونے والا شرف قمر آپ کے مسائل میں جہاں بہتری لاتا ہے وہیں ہر ماہ ہونے والا قمر در عقرب آپ کے مسائل میں اضافہ بھی کرتا ہے۔ ہر ماہ قمر در عقرب میں ٹوٹا چاؤل کا صدقہ دینا اپنا معمول بنالیں تاکہ آپ کا بیرون ملک قیام اور امیگریشن سے متعلقہ کام متاثر نہ ہوں اسکے علاوہ ہر ماہ ہونے والا قمر در عقرب آپ کو دشمنوں کی خفیہ سازشوں سے محفوظ بھی رکھتا ہے یہ قدرت کا ایک خوبصورت نظام بھی ہے۔ اس سال ہونے والے چار قمری گرہن آپ کے بیرون ملک قیام کو خندوش بنا دیں گے اس بارے میں مکمل تفصیلات ہمارے یوٹیوب چینل شیخ زور رضا جاو پر دیکھ سکتے ہیں۔

**شمسی و قمری گرہن** اس سال دو شمسی و چار قمری گرہن ہونگے۔ یہ گرہن آپ کے بیرون ملک قیام امیگریشن مراحل اور اولاد بچوں صحت دوست احباب سے کشیدگی اور اور خوش بختی کی تضحیح کا باعث بن سکتے ہیں جبکہ شمسی گرہن بالخصوص آپ کی شخصیت اور مالی پوزیشن اور امیگریشن اور اولاد سے منسوب معاملات کو بالعموم متاثر کر سکتے ہیں۔ گرہن کی تواریخ کو جنسری ہذا سے نوٹ کر لیں اور بروقت صدقات کے ساتھ نماز مسوف و خسوف کی ادائیگی پروردگار کی قربت کا باعث بھی ہوگی اور آپ کو گرہن کی نحوستوں سے بچانے میں معاون ثابت ہوگی۔

**صدقہ** ہر اتوار ایک کلو گرام یا دال چنا کا صدقہ اور ہر جمعرات کو 300 گرام یا تین پاؤ بڑا گوشت ہمراہ تین حجج ہلدی کے ساتھ کسی مستحق کو دیں یا چندوں کو ڈال دیں۔ **ورد خاص** روزانہ ایک تسبیح سورۃ حشر آیت نمبر 22 ورد کریں اور بعد از نماز فجر و عشاء گیارہ گیارہ مرتبہ ورد پاک تلاوت کریں۔

<p><b>الحمد فیروز کی</b>  <b>لیڈیز کیٹے کی تمام وراثتی</b>  <b>بارعانت دستیاب ہے۔</b>  <b>نزد افتخار بک ڈپو اسلام پورہ لاہور</b>  <b>محمد علی، محمد عظیم</b>  <b>0302-4406438</b></p>	<p><b>نظری کی تیزی کے لیے آزمودہ نسخہ</b>  <b>مصری، سوئیڈ، ہارام ہم وزن لیکر</b>  <b>کوٹ لیں۔ صبح کو تیار منا اور رات کو</b>  <b>سوئے سے قبل ایک حجج دودھ کے</b>  <b>ساتھ لیں</b>  <b>محمد عظیم، الحمد فیروز کی</b>  <b>0346-4406438</b></p>
---	--

**وراثت، مشترکہ مالی معاملات، قرضہ: مشتری کے**

ہبوط اور شرکاتی تعلقات میں خرابی کے باوجود سال کی ابتداء بہتر ہو رہی ہے آپ کے مشترکہ مالی منصوبہ جات سے آپ کو فائدہ حاصل ہو سکے گا اگر آپ قرض کے خواہشمند ہیں خواہ وہ کسی فرد ہو یا بینک سے تو آپ کو کامیابی مل سکتی ہے وراثتی معاملات حل ہو سکیں گے۔ 31 مارچ تا 27 جون حالات موافق نہ ہونگے مشترکہ مالی معاملات اور وراثتی معاملات آپ کے مسائل میں اضافہ کر سکتے ہیں 28 جون کے بعد حالات میں مثبت تبدیلی آئے گی 10 ستمبر تا 14 نومبر مریخ کی رجعت آپ کے کاموں کی رفتار کو سست کر دے گی مگر آپ کو تحمل سے کام لینا ہوگا

**روحانیت، بیرون ملک سفر اور حج و زیارات: آپ کے**

نادیں گھر کا حاکم زہرہ امسال 13 جنوری تا 7 فروری، 5 مارچ تا 2 اکتوبر، 28 اکتوبر تا 21 نومبر بہتر پوزیشن میں رہتے ہوئے آپ کے بیرون ملک سفر کی راہیں کھول رہا ہے اس دوران ویزہ وغیرہ اپلائی کرنا بہتر ہوگا آپ روحانی علوم اور درود و وظائف کی جانب متوجہ ہونگے امسال آپ کی حج و زیارات مقدسہ کی خواہش پوری ہونے کے قوی امکانات موجود ہیں 8 فروری تا 4 مارچ، 3 تا 27 اکتوبر، 21 نومبر تا آخر سال ایسی کسی بھی کوشش سے گریز کرنا بہتر ہوگا اس وقت اپلائی کیے گئے ویزے وقت اور پیسہ کا نسیان ہونگے۔

**معیشت، کیرئیر روزگار ترقی، تنزلی آپ کا اپنا حاکم**

سیارہ عطارد ہی آپ کی معیشت کیرئیر روزگار اور ترقی ترقی کو بااذن اللہ کنٹرول کرتا ہے امسال عطارد یکم جنوری تا 3 فروری، 11 تا 27 اپریل، 12 مئی تا 5 ستمبر، 27 ستمبر تا یکم دسمبر بہتر پوزیشن میں رہتے ہوئے آپ کو ترقی کے بہتر مواقع فراہم کرے گا آپ کو حسبِ مقدور ترقی مل سکے گی کیرئیر کے حوالہ سے بہتر واقعات اور بہتر فیصلے کرنے کا موقع ملے گا جبکہ 3 فروری تا 11 اپریل بالخصوص اور 28 اپریل تا 12 مئی، 6 تا 27 ستمبر، 2 تا 31 دسمبر بالعموم آپ کو محتاط رہنا ہوگا اس دوران کسی بھی قسم کے بڑے کاروباری تبدیلی یا اہم اگر مینٹنس وغیرہ سے گریز کرنا ہوگا

**دوست، احباب، خواہشات اور کاروباری فوائد**

عمومی طور پر یہ سال آپ کی خواہشات کی تکمیل میں معاون سال ہوگا مگر چند ایک چیزوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہوگا ہر ماہ ہونے والے قمری عقرب کو ضرور مد نظر رکھیں اور بروقت صدقے کی ادائیگی کریں ہر قمری عقرب کی تواریخ کو جنسٹری میں نمایاں کر دیا جاتا ہے اسکے علاوہ اس بارے میں میرے فیس بک پیج پر بھی اپڈیٹ کر دیا جاتا ہے مزید برآں امسال ہونے والے 4 قمری گرہن جو کہ بالترتیب 10 جنوری، 5 جون، 5 جولائی اور 30 نومبر کو لگ رہے ہیں ان پر ضرور نظر رکھیں اور بروقت صدقہ اور نماز کسوف و خسوف ادا کر کے اپنے کاروباری

آپ کے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں ان ایام میں سفر اور تیز رفتاری سے گریز کرنا ہوگا 28 مارچ کے بعد آپ کے تعلقات میں گوکہ بہتری آجائے گی مگر 10 ستمبر تا 14 نومبر مریخ کی رجعت ایک بار پھر آپ کے مابین کشیدگی پیدا کرنے کا باعث بن سکتی ہے مریخ کے صدقات دینا بہتر ہونگے۔

**گھر خاندان پر اپرٹی: جیسا کہ اولین سطور میں بتا چکا ہوں امسال**

مشتری کے ہبوط میں ہونے سے گھر کا ماحول خاصہ متاثر ہو سکتا ہے خاندان کے افراد سے تعلقات کشیدہ ہو سکتے ہیں امسال گھر پر اپرٹی کی خرید و فروخت بہتر نہ ہوگی آپ کے گھر سے منسوب اقدامات التوا کا شکار ہو سکتے ہیں اس حوالہ سے کوئی بہتر روحانی تدابیر کر لینا بہتر ہوگا مشتری سے منسوب صدقات تمام سال اپنا معمول رکھنا بہتر ہوگا اسی طرح امسال سواری کی خرید و فروخت بھی بہتر نہ ہوگی۔

**اولاد، انعامی بانڈ، لائٹری گذشتہ تمام سال زحل کی پانچویں اپنے**

ہی گھر موجودگی نے بچوں سے آپ کے تعلقات خاصے بہتر رکھے ہیں مگر گزشتہ دسمبر سے مشتری آپ کے بیت الا اولاد میں بحالتِ ہبوط میں آجائے سے آپ کے مابین کشیدگی بڑھ سکتی ہے مشتری 19 دسمبر 2019 تک یہیں قیام کرے گا اور 14 مئی تا 13 ستمبر رجعت میں بھی رہے گا یہ دورانہ آپ کے لیے اور بھی زیادہ مشکل ثابت ہو سکتا ہے پروردگار عالم آپ سب پر اپنا افضل فرمائے آپ کو مشتری کے اثرات سے بچاؤ کیلئے یقیناً کوئی تدارک کرنا ضروری ہوگا اپنے ہاتھ میں زرد پکھراج یا فیروزہ چٹنیں۔ انعامی سکیموں میں حصہ لینے والے افراد کیلئے یہ سال موافق نہ ہوگا۔

**صحت، ملازمت اور ملازمین آپ کے بیت الصحت میں شمس**

20 جنوری تا 19 فروری وبال میں ہونے سے آپ کی صحت متاثر ہو سکتی ہے محتاط رہیں اسکے بعد 22 مارچ کو زحل آپ کے چھٹے اپنے ہی گھر آجانے سے آپ کے جاری مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا آپ کے لیے بہتر ملازمت اور ملازمین کا حصول ممکن ہوگا 11 مئی تا 29 ستمبر زحل رجعت میں رہتے ہوئے آپ کی صحت پر مضر اثرات مرتب کر سکتا ہے آپ کی صحت بوجہ سحر جادو متاثر ہونے کا اندیشہ ہوگا جاب کی تبدیلی یا چھوڑنے سے گریز کریں باقی سال انشاء اللہ بہتر گزرے گا۔

**شادی، ازدواجی تعلقات، شراکت داری: امسال بوجہ**

ہبوط مشتری آپ کے ازدواجی تعلقات انتہائی متاثر ہوتے نظر آ رہے ہیں بالخصوص 3 فروری تا 11 اپریل جب کہ آپ کا اپنا سیارہ عطارد بھی مین بیت الزوج میں ہبوط زدہ ہوگا آپ کے ازدواجی تعلقات خرابی کی انتہا تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر اپنے احتیاط سے کام نہ لیا تو بات علیحدگی تک پہنچ سکتی ہے آپ کو اپنی گفتگو میں از حد احتیاط کرنی ہوگا 14 مئی تا 13 ستمبر کا دورانہ بوجہ رجعت مشتری اور بھی خطرناک ہوگا۔ امسال آپ کے شرکاتی تعلقات اور ازدواجی تعلقات دونوں داؤ پر ہونگے۔



نواکد دوست احباب سے تعلقات اور خواہشات کی تکمیل کو محفوظ کر سکتے ہیں

**بیرون ملک قیام ، امیگریشن اور خفیہ سازشیں:** آپ کے زائچے کے بارہویں کا حاکم شمس آغاز سال تا 20 مارچ، 20 مئی تا 21 جون، 22 ستمبر تا 23 اکتوبر، 21 تا 31 دسمبر بہتر پوزیشن میں نہ ہوگا اس دوران آپ کا بیرون ملک قیام مشکل ہو جائے گا امیگریشن وغیرہ اپلائی کرنے سے گریز کریں جبکہ 20 مارچ تا 19 اپریل کا دورانیہ بالخصوص بہترین وقت ہوگا اسکے بعد 21 جون تا 21 ستمبر، 22 نومبر تا 20 دسمبر کا دورانیہ بھی امیگریشن اپلائی کرنے کے لیے بہتر اور آپ کے بیرون ملک قیام میں معاون ہوگا

**شمسی و قمری گرہن** اس سال کثرت سے گرہن لگ رہے ہیں جن میں 4 قمری اور 2 شمسی گرہن لگیں گے یہ گرہن آپ کے کیرئیر روزگار، خانگی، والدہ اور پراپرٹی کے علاوہ دوست احباب سے کشیدگی اور خوشنہی کو متاثر کرنے کا باعث بن سکتے ہیں اس حوالہ سے جنٹری میں ایک الگ جج دیا جاتا ہے جس میں گرہنوں سے متعلقہ تمام تفصیلات دی جاتی ہیں وہ ضرور دیکھ لیں اور بروقت صدقہ اور نماز کسوف خسوف ادا کر کے خود کو محفوظ کر سکتے ہیں اس بارے میں مزید تفصیلات آپ سے یوٹیوب چینل شیخ زوار رضا جاوید پر بھی دیکھ سکتے ہیں

**صدقہ:** ہر جمعرات 3 پاؤ یا 300 گرام بڑا گوشت اور 3 چمچ جلدی یا 3 پاؤ دال چنا کسی بھی مستحق کو دیں یا پرندوں کو ڈال دیں۔

**ورد خاص:** روزانہ ایک تسبیح بعد از فجر سورہ صافات آیت 180/181/182 ورد کریں ہمد اول و آخر 16/16 مرتبہ درود پاک۔

مرخ اور عطارد بھی رجعت یافتہ ہو کر آپ کی مشکلات میں اضافہ کریں گے۔ اس سال ہونے والے شمسی و قمری گرہن اور دیگر سیارگان زہرہ عطارد مرخ و شمس و قمر سیر افلاک کی سیر کرتے ہوئے آپ کی زندگی پر کیا اثرات مرتب کریں گے یہ اگلی سطروں میں ملاحظہ کریں۔

**شخصی وقار** اس سال آپ کا ذاتی ستارہ زہرہ آغاز سال تا 7 فروری اور 5 مارچ تا 2 اکتوبر، 28 اکتوبر تا 20 نومبر بہتر پوزیشن میں رہتے ہوئے آپ کی شخصیت اور شخصی وقار میں بہترین اضافہ کرے گا جبکہ سال کا باقی دورانیہ آپ کو محتاط روش اختیار کرنا ہوگی جبکہ آپ کے بیت الاقرباء کا حاکم مشتری اس سال چوتھے ہبوط میں رہتے ہوئے عزیز واقرباء کے ساتھ تعلقات کشیدہ رکھے گا جس سے گھر کا ماحول متاثر رہے گا آپ کے اختلافات کی بڑی وجہ پراپرٹی ہو سکتی ہے۔ یہ معاملات آپ کے شخصی وقار کو متاثر کر سکتے ہیں آپ کو نہایت محتاط رہنا ہوگا۔

**مالی پوزیشن** آپ کے مالی معاملات کا حاکم ستارہ مرخ اس سال آغاز سال تا 16 فروری عمومی اور 16 فروری تا 31 مارچ خصوصی طور پر آپ کے مالی معاملات پر نہایت اچھے اثرات مرتب کرے گا آپ کو مالی پوزیشن مستحکم کرنے کے مواقع ملیں گے جبکہ یکم اپریل تا 28 جون تک مرخ کی کمزور حالت آپ کے مالی معاملات اخراجات و آمدن میں توازن نہ آنے دے گی آپ کو احتیاط برتنا ہوگی ورنہ آپ مالی بحران کا شکار ہو سکتے ہیں۔ 28 جون کے بعد حالات میں بہتری آئے گی مگر 10 ستمبر تا 14 نومبر مرخ کی رجعت ایک بار پھر آپ کو محتاط ہوجانے کی ضرورت ہوگی۔

**عزیز واقرباء ابتدائی تعلیم اور نزدیکی سفرات** آپ کے بیت الاقرباء کا حاکم ستارہ مشتری آغاز سال تا 19 دسمبر چوتھے ہبوط میں رہتے ہوئے بہن بھائیوں اور قریبی تعلق داروں سے اور خانگی معاملات کو کشیدہ رکھے گا۔ اس سال نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو صبر و برداشت اور تحمل سے کام لینا ہوگا اس سال میزان تکون کو کبھی تعلیمی میدان میں مشکلات کا سامنا ہوگا اور آپ کے طے شدہ نزدیکی سفرات بھی یا تو التوا کا شکار ہونگے یا سفرات سے نواہد کا حصول ناممکن ہوگا۔ سیارہ مشتری کی نحوستوں سے بچنے کے لئے باقاعدگی کے ساتھ آخر میں دیا گیا صدقہ دیں۔ لوح مشتری پاس رکھیں اور روزانہ دعائے روضہ نحوست سیارگان نو مرتبہ ورد کرنا معمول بنالیں۔

**گھر خاندان پراپرٹی و سواری** جیسا کہ آپ کو اولین سطروں میں بتایا گیا ہے کہ مشتری بیت الارض میں تقریباً سارا سال رہتے ہوئے خانگی معاملات کو متاثر کرنے کا باعث بن رہا ہے اسکے ساتھ ہی آغاز سال تا 20 جنوری شمس بھی یہیں منفی حالت میں ہوتے ہوئے مشکلات میں اضافہ تو کرے

**برج: میزان LIBRA سیارہ: زہرہ**

رنگ	سبز
منصر	ہوا
جواہر	سبز، زونڈی
بہترین شریک حیات	دو، جوزا
ناموافق ساتھی	ہنگامی

بیماریاں: نزل، زکام، سردی، گردوں کا درد، آنکھوں کی بیماریاں

دن: جمعہ، 6: 24 Sep to 23 Oct شریف: رت، ط

**اہم نکات سال 2020ء** آپ کے لئے تبدیلیوں کا سال ہوگا ستارہ زحل ذہائی سال بعد برج تبدیل کرتے ہوئے آپ کے زائچے کے پانچویں گھر مارچ میں داخل ہو رہا ہے اور طالع کو مثبتیت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ دوسرا اہم ستارہ مشتری سال گذشتہ دسمبر سے برج تبدیل کرتے ہوئے چوتھے گھر آ جائیگا اور تمام سال ہبوط میں رہے گا۔ مشتری سدا کبر ستارہ ہوتے ہوئے بھی اس سال آپ کے لئے مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ زحل مشتری کے علاوہ اس سال زہرہ

حالات میں بہتری آئے گی اور اسکے بعد 10 ستمبر تا 14 نومبر مریخ کی رجعت کا ایک بار پھر حالات کشیدہ کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔

### وراثت، مشترکہ مالی معاملات، قرضہ جات، اس

حوالہ سے یکم تا 7 فروری، 5 مارچ تا 2 اکتوبر اور 28 اکتوبر تا 21 نومبر کا دورانیہ موافق ہوگا اس دوران آپ کے وراثتی معاملات حل ہو سکیں گے مشترکہ مالی فوائد کا حصول ممکن ہوگا منافع مل سکے گا اسکے ساتھ ہی قرض کے خواہش مند افراد کو قرض کا حصول بھی ممکن ہوگا جبکہ پھنسی ہوئی رقم کی واپسی کے لئے اقدامات مثبت نتائج دیں گے جبکہ سال کا باقی دورانیہ آپ کے لئے مشکلات کا باعث ہوگا رکاوٹیں آئیں گی اپنے معاملات کو کاموں کو دئے گئے اوقات کو مد نظر رکھتے ہوئے پلاننگ کریں تاکہ مشکلات اور مسائل سے بچا جاسکے۔

### روحانیت بیرون ملک سفارت حج و زیارات اس سال

آپ کو بیرون ملک سفارت حج و زیارات کے کئی ایک مواقع میسر آئیں گے الہیہ ویزہ وغیرہ اپلائی کرنے کے لئے مناسب وقت کا انتخاب کرنا بہتر ہوگا۔ اس سال 3 فروری تا 11 اپریل، 28 اپریل تا 12 مئی اور 6 تا 26 ستمبر اور 2 تا 31 دسمبر ویزہ کے حصول کی درخواست دینا مناسب نہ ہوگا۔ باقی تمام سال ویزہ اپلائی کرنے کے لئے بہتر ہوگا۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند اور روحانی علوم کے خواہش مند افراد کے لئے بھی یہی سال کا دورانیہ بہتر رہے گا۔

### معیشت کیرئیر روزگار ترقی و تنزلی آپ کے کیرئیر اور

روزگار پر سب سے زیادہ اثرات قمر کے ہوتے ہیں۔ چونکہ قمر ایک سریع الزمار ستارہ ہے ایک ماہ میں شرف ہیبوط اور اچھی بری حالت سے گذرتے ہوئے آپ کے کیرئیر اور روزگار پر اچھے برے اثرات مرتب کرتا ہے۔ اس سال چار قمری گرہن واقع ہونگے جو کہ بالترتیب جنوری، جون، جولائی اور نومبر میں لگیں گے اسکے علاوہ ہر ماہ ہونے والا ہیبوط قمر (قمر در عقرب) بھی آپ کے کیرئیر اور روزگار پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے۔ ان ایام کو جنتری میں سے نوٹ کر لیں یا میرے یوٹیوب چینل یا فیس بک پیج (شیخ زوار رضا جاوا) کو لائیک کریں تاکہ آپ کو بروقت اطلاع مل سکے اور ان ایام میں گرتوں سے منسوبہ صدقات اور درود و خائف ادا کر کے آپ اپنے کیرئیر کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ اسکے علاوہ ہر ماہ ہونے والا شرف قمر کے ایام اور 21 جون تا 22 جولائی آپ کے کیرئیر کے گھر ہونے والا اوج شمس کے ایام میں آپ اپنے کیرئیر کو محفوظ اور مضبوط بنانے اور ترقی کے کام کر سکتے ہیں۔

### دوست احباب کاروباری فوائد اور خواہشات یہ سال

جہاں کچھ معاملات میں آپ کے لئے رکاوٹیں لا رہا ہے وہیں آپ کو خواہشات کی تکمیل میں بھی معاونت ملتی رہے گی۔ 20 مارچ تا 20 مئی اور 21 جون تا 21 ستمبر

کا تاہم دوسری جانب زحل یہاں مارچ تک قیام کرتے ہوئے معاملات کو سنبھالنے کے لئے حکمت عملی بنانے میں معاون ہوگا مگر بعد از مارچ تا آخر سال تک حالات کنٹرول کرنا مشکل ہونگے بالخصوص 14 مئی تا 13 ستمبر مشتری کے رجعت کے ایام میں تلخیاں مزید بڑھ سکتی ہیں۔ اس سال آپ کو گھر پر اپرٹی کے حوالے سے مشکلات پیش آتی رہیں گی کئی افراد کو بوجہ جنوری گھر بیچنا یا تبدیل کرنا پڑ سکتا ہے۔ گھر کے افراد کو والدہ سے ناراضگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جبکہ آپ کو پر اپرٹی کی خرید و فروخت سے اس سال فوائد ملنے کا امکان نہیں ہوگا۔

### اولاد انعامی بانڈز لٹری و اسٹاک مارکیٹ بچوں

کے حوالہ سے یہ ایک بہتر سال ہے جیسا کہ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ زحل ڈھائی سال کے لئے مارچ میں پانچویں گھر آ جائیگا بچوں پر مثبت اثرات مرتب ہوگی 19 فروری تا 20 مارچ شمس کی پانچویں گھر میں موجودگی متاثر کر سکتی ہے تاہم سال کا باقی دورانیہ بہتر رہے گا۔ بچوں کے ساتھ آپ کے تعلقات نہایت مناسب اور بہتر رہیں گے جبکہ اکثر میزبان افراد کو اس سال اولاد کی خوشخبری مل سکتی ہے یہ سال میزبان افراد جو انعامی اسکیموں میں حصہ لیتے ہیں انکے لئے ایک نہایت موافق سال ہوگا آپ کو کوئی بڑا انعام یا خطیر رقم مل سکتی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ سے وابستہ افراد بھی نہایت بہتر فوائد اس سال حاصل کر سکیں گے۔

### صحت ملازمت اور ملازمین آپ کے بیت الصحی کا حاکم ستارہ بھی


مشتری ہے جو کہ اس سال دسمبر تک چوتھے منحنی پوزیشن میں ہوگا جسکی وجہ سے آپکی صحت کو خطرات لاحق رہیں گے اسکے علاوہ 3 فروری تا 11 اپریل عطارد کا چھٹے گھر میں ہیبوط بوجہ جاو و سحر صحت کو متاثر کر سکتا ہے اس حوالہ سے آپ کے لئے روحانی تدارک از حد ضروری ہوگا۔ اس سال حالات خواہ جیسے بھی ہوں ملازمت چھوڑنے کی غلطی ہرگز نہ کریں ورنہ دوسری ملازمت کا حصول نہایت مشکل ہو سکتا ہے۔ اس سال آپ کو ملازمین کی جانب سے بھی مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔

### شادی ازدواجی تعلقات شراکت داری آپ کے بیت الزوج

کا حاکم ستارہ مریخ آغاز سال سے ہی بہتر ہوگا آپ کو شادی بیاہ اور ازدواجی حالات انتہائی سازگار ملیں گے بالخصوص 16 فروری تا 31 مارچ حالات انتہائی سازگار ہونگے آپکی شادی طے پا جانے کے نہایت قوی امکانات ہونگے اور یہی وقت شادی بیاہ کے لئے سال کا موزوں ترین وقت ہوگا۔ 31 مارچ کے بعد ہوا کا رخ انتہائی تیزی سے تبدیل ہوگا اور حالات سازگار نہ رہیں گے۔ 28 جون تک آپ کو نہایت محتاط رہنا ہوگا ورنہ ازدواجی معاملات میں علیحدگی واقع ہو جانے کے امکانات ہونگے۔ نئی شادی کے لئے یہ وقت قطعاً سازگار نہ ہوگا آپکی شراکت داریاں بھی خطرے میں ہونگی۔ 29 جون کے بعد

**بوج: عقرب SCORPIO سیارہ: مریخ**

رنگ: سیاہ مریخ  
 عنصر: آبی  
 دوا: نیکمران، جیش مونی  
 بہترین شریک حیات: ثروت، سلطان  
 ناموافق ساتھی: دلواؤں، ماسد



بیماریاں: سر، مقل، ناک کی بیماریاں، بچوں، نزل، صدمہ

دن: منگل 9: عدد: 9  
 حروف: 24 Oct to 22 NOV

22 اکتوبر تا 21 دسمبر کا دورانیہ انشاء اللہ بہتر گزرے گا دوست احباب کا تعاون ملے گا اور خواہشات کی تکمیل ممکن ہو سکے گی بالخصوص 22 جولائی تا 21 اگست کا دورانیہ انتہائی موافق ہوگا۔ اس سال دو شمسی گرہن بالخصوص 21 جون اور 31 دسمبر واقع ہونگے۔ یکم جنوری تا 19 مارچ، 20 مئی تا 20 جون اور بالخصوص 21 ستمبر تا 22 اکتوبر کا دورانیہ بہتر نہ ہوگے ان ایام میں کیرئیر اور روزگار کے حوالہ سے کسی بھی اہم یا بڑے فیصلے سے گریز کریں۔

**بیرون ملک قیام خفیہ سازشیں اور امیگریشن**

اس سال امیگریشن اپلائی کرنے جیسے اہم ترین کاموں کے لئے درست وقت کا انتخاب انتہائی ضروری ہوگا۔ 8 فروری تا 11 اپریل، 28 اپریل تا 12 مئی، 6 تا 27 ستمبر، اور 2 تا 31 دسمبر ایسی کسی بھی کوشش سے قلعی گریز کریں ان اوقات میں اپلائی کئے گئے کیسز رد کئے جاسکتے ہیں۔ اس دوران پہلے سے مقیم افراد کو بھی وطن واپسی کی راہ دیکھنا پڑسکتی ہے بتائے گئے عرصہ کے علاوہ باقی وقت انشاء اللہ اچھا گزرے گا مگر محتاط رہیں جہاں یہ وقت بیرون ملک امیگریشن کے حوالہ سے بہتر ہوگا وہیں خفیہ دشمن بھی سازشیں کر سکتے ہیں۔

**شمسی و قمری گرہن** اس سال ہونے والے شمسی و قمری گرہن

زائچہ کے اہم مقامات اور زندگی کے اہم امور کو متاثر کر سکتے ہیں دو شمسی و چار قمری گرہن آپ کے کیرئیر دوست احباب روزگار خوش بختی ابتدائی تعلیم اور نزدیک سفرات کے ساتھ روحانیت اعلیٰ تعلیم سسرالی رشتہ داروں اور سماجی معاملات میں خرابی حالات تعلقات میں کشیدگی اور سواری کے ساتھ والدہ کی صحت سلامتی تعلقات میں بگاڑ کے ساتھ جائیداد کے معاملات کو خراب کر سکتے ہیں۔ گرہن کے دنوں میں خصوصی صدقات اور نماز کسوف و خسوف کی ادائیگی کریں۔

**صدقات** ہر جمعرات تین پاؤ یا 300 گرام بڑا گوشت اور تین چمچ ہلدی کے ساتھ کسی غریب یا مستحق کو صدقہ دیں یا پرندوں کو ڈالیں۔

**ورد خاص** روزانہ بعد از فجر و عشاء ایک تسبیح ورد کریں اول و آخر سات سات مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیں۔ فاللہ خیر حفظا و هو ارحم الراحمین

سورۃ یوسف آیت نمبر 63

**علم جنس نجوم اور رمل سے مسائل کی تشخیص**

ان شاء اللہ محمد و آل محمد کی تعلیمات کی روشنی میں سے آپ کو صحیح گائیڈ لائن دی جائے گی۔ کوائف میں مکمل نام، والدہ کا نام، تاریخ اور وقت پیدائش و مقام پیدائش اور سوال (1 تا 9) کے درمیان کوئی سے 4 ہندسے گرکار ہو گئے۔ جاوید جمالی علاوی 0301-5503367

**اہم نکات** آپ کا 2020 ایک تبدیلیوں سے بھرپور سال ہے آپ کا نیا سیارہ مریخ اس سال شرف حسیض طرح اور فرج جیسی حالتوں سے گزرے گا اور آپ کے معاملات میں خاصی اہم تبدیلیوں کا باعث بنے گا۔ خانہ مال اور اولاد سے منسوب سیارہ مشتری تمام سال بیہوش کے گھر رہتے ہوئے آپ کی مالی پوزیشن اور بچوں سے منسوب مسائل پیدا کر رہا ہے ذیل چوتھے مارچ میں آپ اپنے سے پر اپنی سواری اور خانگی ماحول کو بہتر کر رہا ہے۔

**شخصی وقار** آپ کا نیا سال سیارہ مریخ 3 جنوری تا 15 فروری بالعموم اور

16 فروری تا 30 مارچ بالخصوص شرفی گھر رہتے ہوئے آپ کی عزت و توقیر میں اضافہ کر رہا ہے۔ 31 مارچ تا 28 جون مریخ حسیض اور طرح میں رہتے ہوئے آپ کو ذہنی دباؤ کا شکار کر رہا ہے۔ آپ کے افسر، بچوں اور معتمدی سے متعلقہ معاملات اور خانگی معاملات میں آپ کی پریشانیوں کا باعث ہو گئے۔ 28 جون کے بعد حالات میں مثبت تبدیلی رونما ہوگی آپ کو حالات پر قابو پانے میں آسانی رہے گی آپ کا وقار بحال ہو رہا ہے مگر 10 ستمبر تا 14 نومبر مریخ کی رجعت ایک مرتبہ پھر آپ کی پریشانی کا باعث ہوگی۔

**مالی پوزیشن** جیسا کہ آپ کو اہم نکات میں بتایا جا چکا ہے آپ کے خانہ مال

کا حاکم مشتری گزشتہ دسمبر سے بیہوش میں ہے اور 19 دسمبر 2020 تک بیہوش کے گھر ہی قیام کرے گا۔ اس سال آپ کو اپنے اخراجات کو بے حد احتیاط سے چلانا ہوگا کسی بھی قسم کی فضول خرچی سے قلعی گریز کرنا ہوگا۔ اس سال آپ کو آمد کم اور اخراجات میں اضافہ کا سامنا رہے گا چونکہ یہ ایک طویل دورانیہ کی پر اہم ہے اس لیے اس کا روحانی تدارک کرنا از حد ضروری ہوگا۔

**عزیز و اقارب، نزدیکی سفر، ابتدائی سفر** آپ کے بیت الاقرباء

میں مشتری کی موجودگی آپ کی سوشل لائف کو بڑی طرح متاثر کر رہی ہے۔ بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات کشیدہ رہیں گے بالخصوص 14 مئی تا 13 ستمبر کا دورانیہ مزید احتیاط کا متقاضی ہوگا جبکہ مشتری رجعت میں بھی ہوگا۔ اس سال ابتدائی تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو بھی تعلیمی میدان میں مشکلات پیش

شدہ عقرب افراد کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے

آسکتی ہیں۔ اس سال ایسے عقرب افراد چنگا ذریعہ معاش کسی بھی حوالوں سے سفروں سے منوب ہے انہیں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔

**وراثت، مشترکہ مالی معاملات، قرضہ** اس سال 3

فروری تا 27 اپریل، 27 تا 6 ستمبر، 31 تا 2 دسمبر آپ کو مشترکہ طور پر کئے جانے والے کاموں میں خسارہ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ان ایام میں آپ کے وارثی مقدمات بھی التوا کا شکار ہو سکتے ہیں یا ان کے فیصلے آپ کے خلاف آسکتے ہیں عمل اور بردباری سے درست وقت کرنا بہتر ہوگا۔

**گھر، خاندان، پراپرٹی** اس حوالے سے آپ کو ماحول انتہائی

سازگار ملے گا 20 جنوری تا 19 فروری چوتھے شمس کا وبال خانگی ماحول کو متاثر کر رہا ہے اس دوران گھر کی تبدیلی یا خرید و فروخت سے گریز کریں۔ والدہ کی جانب سے پرائلیم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ 22 مارچ کو زلزلے کے چوتھے اپنے ہی برع میں آجانے سے آپ کے خانگی معاملات میں بہتری آئے گی پراپرٹی کی خرید و فروخت اور گھر کی تبدیلی کے لیے انتہائی موزوں وقت ہوگا، گھر کا ماحول بہتر ہو رہا ہے والدہ اور خاندان کے افراد کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئے گی 11 مئی تا 29 ستمبر زلزلے کی رجعت قدرے مشکل وقت ہو سکتا ہے اس دوران ہر ہفتہ 800 گرام کالے ماش صدقہ دے کر خود کو محفوظ کر لیں۔

**روحانیت، بیرون ملک سفر، اعلیٰ تعلیم، حج و**

**زیارات** گزشتہ سال سے راہو آپ کے زائچہ کے ناویں میں موجود ہے آپ کو زندگی کا روحانی سفر بہت احتیاط سے گزارنا ہوگا۔ راہو کی ناویں میں موجودگی آپ کو دانستہ یا غیر دانستہ غلط یا غیر شرعی اعمال کی طرف لے جاسکتی ہے۔ آپ کو اس سال کئی ایک بیرون ملک سفر مل سکتے ہیں مگر صرف ان لوگوں کو رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جن کے زائچہ پیدائش میں پرائلیم ہے اسی طرح اعلیٰ تعلیم اور حج و زیارات کے لیے بھی ماحول سازگار ملے گا البتہ ویزہ اپلائی کرنے کی تاریخ بہت اہم کردار ادا کرے گی، ہر ماہ ہونے والے قمر در عقرب اور اس سال ہونے والے 4 قمری گرہن کے ایام میں ویزہ اپلائی کرنا بہتر نہ ہوگا یہ اوقات مدارج طے کرنے میں رکاوٹ ہوگا

**صحت، ملازمت، ملازم** آپ کے بیت الصحت کا حاکم مریخ آغاز

سال 30 مارچ بہترین اثرات مرتب کر رہا ہے بالخصوص 16 فروری تا 30 مارچ کا دورانیہ انتہائی بہتر ہوگا آپ کی صحت بہتر ہو رہی ہے۔ ملازم پیشہ افراد کے لیے بہتر جاب کا حصول ممکن ہوگا دوسری طرف کیرئیر، روزگار کا حاکم شمس بھی 20 مارچ کو اسی جگہ شرفی حالت میں آجانے سے آپ کی ترقی کے مواقع بڑھ جائیں گے مگر آپ کی صحت متاثر ہو سکتی ہے۔ 20 اپریل کو شمس کے اگلے گھر جانے اور مریخ کے منفی ہونے سے حالات آپ کے موافق نہ ہونگے اس دوران آپ کو ملازمین کی جانب سے مشکلات پیش آسکتی ہیں 28 اپریل سے حالت میں بہتری آئے گی۔

**معشیت، کرنیر، روزگار** اس سال آپ کو ابتدائے سال تا 19 مارچ

20 مئی تا 21 ستمبر، 31 تا 21 دسمبر کا دورانیہ آپ کے کیرئیر، روزگار کے لیے بہتر نہ ہوگا ان ایام میں آپ کے پہلے سے جاری کاموں میں رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جبکہ 20 مارچ تا 19 اپریل سال کا سب سے بہتر دورانیہ ہوگا اسکے بعد 21 جون تا 21 ستمبر اور 22 نومبر تا 20 دسمبر حالات آپ کے موافق ہونگے آپ کو ترقی کے بہتر مواقع میسر رہیں گے ان ایام میں سرمایہ کاری کرنا بہتر ہوگا ملازم پیشہ افراد کو ترقی مل سکتی ہے

**اولاد، انعامی بانڈ، لائبریری** آپ کے پانچویں گھر کا حاکم مشتری تمام

سال ہیبت میں رہتے ہوئے اس سال آپ کو بچوں کی جانب سے پریشانیوں میں مبتلا کر سکتا ہے بہتر ہوگا بچوں پر خاص توجہ دیں۔ اس سال اپنے اور بچوں کے صدقات کثرت سے دیں عقرب کی حاملہ خواتین کو خاص طور پر احتیاط کرنا ہوگی اس سال سیکسوں میں حصہ لینا بہتر نتائج کا حامل نہ ہوگا۔

**دوست احباب، خواہشات، کاروباری فوائد** آپ کے

زائچے میں خوشخبری سے وابستہ گیارہویں گھر کا حاکم سیارہ عطارد اس سال یکم جنوری تا 2 فروری، 11 تا 27 اپریل، 12 مئی تا 5 ستمبر، 27 تا یکم دسمبر بہترین پوزیشن میں رہتے ہوئے باذن اللہ آپ کی خواہشات کی تکمیل میں معاون ہوگا اس دوران دوست احباب سے تعلقات بہتر رہیں گے آپ کے کاروباری تعلقات بہتر رہیں گے آپ کے کاروباری اقدامات کے بہترین فوائد آپ کو مل سکیں گے اس دوران والد کی طرف سے مالی سپورٹ ملتی رہے گی۔ سال کا باقی دورانیہ آپ کو اپنی خواہشات کو روکنا ہوگا اور دوست احباب سے اختلافات سے گریز کرنا ہوگا

**شادی، شراکتی ازدواجی تعلقات** اس سال آپ کی شادی طے

پانے کے قوی امکانات موجود ہونگے عقرب کے ایسے خواتین و حضرات جو ابھی تک غیر شادی شدہ ہیں انہیں اپنا زائچہ بنا کر دیکھ لینا چاہیے کہ پرائلیم کہاں ہے اس سال 13 جنوری تا 7 فروری، 5 مارچ تا 2 اکتوبر، 28 اکتوبر تا 20 نومبر کا دورانیہ نکاح و شادی کے لیے بہترین اوقات ہونگے ان ایام میں آپ کے شراکتی ازدواجی تعلقات بہتر رہیں گے آپ کو نئی شراکت داری کی بھی آفر مل سکتی ہے جبکہ 8 فروری تا 4 مارچ، 3 تا 27 اکتوبر اور 21 نومبر تا 31 دسمبر کا دورانیہ قطعی موافق نہ ہوگا اس دوران کی گئی شادیاں دیر پائیدار نہ ہونگی اس دورانے میں شادی

**بیرون ملک قیام، امیگریشن** اس سال یکم جنوری تا 7 فروری،

5 مارچ تا 2 اکتوبر، 27 اکتوبر تا 20 نومبر آپ کو بہتر حالات اور امیگریشن اپلائی کرنے کے بہتر مواقع میسر رہیں گے آپ کے پہلے سے اپلائی شدہ کیمسز کا فیصلہ بھی

Imamia Jantri Official By Itikhar Book Depot . Download from Googleplay-IOSplaystore

**شخصی وقار** اس سال آپ کو سب سے زیادہ توجہ اپنے شخصی وقار پر دینا ہوگی۔ سازہ سستی نے پہلے ہی آپ کے شخصی وقار کو خاصہ مجروح کیا ہوا تھا رہی کسر مشتری کا 19 دسمبر تک کا ہیبت کا ہوگا اس دوران آپ کی شخصیت وقار خاصہ مجروح ہو سکتی ہے بالخصوص 14 مئی تا 13 ستمبر مشتری کی رجعت کا دورانیہ آپ کے سماجی و معاشرتی مقام کو خراب کر سکتا ہے لیکن دین کے معاملات اور وقار میں کمی کا باعث بن سکتے ہیں محتاط رہیں۔ اس حوالہ سے روحانی تدابیر از حد ضروری ہوگی۔

**مالی پوزیشن** آغاز سال تا 20 جنوری شمس کی منفی پوزیشن اور مشتری کی ہیبت میں موجودگی آپ کی مالی پوزیشن کو از حد متاثر کر سکتی ہے کیونکہ شمس کی وجہ سے خانہ مال میں موجود زحل بھی اپنے سعدا اثرات کھوے گا اسکے بعد 22 مارچ کو زحل کے خانہ مال سے چلے جانے کے بعد مشتری کے منفی اثرات مزید کم ہو جائیں گے دوسری جانب زحل آپ کے تیسرے گھر اپنے ذیلی گھر میں رہتے ہوئے امداد دہی کے طور پر کام کرتا رہے گا اگر آپ کے پاس شرف مشتری ہے تو نور علی نور و روشہ سال میں مشتری کے صدقات دینا اپنا معمول بنالیں۔

**عزیز و اقارب، نزدیکی سفرات و تعلقات** اس سال 20 جنوری تا 19 فروری شمس کی تیسرے دہال میں موجودگی آپ کے تعلقات بالخصوص بہن بھائیوں اور نزدیک رشتہ داروں کے ساتھ معاملات کو متاثر کرے گا۔ 22 مارچ کو زحل کے تیسرے اپنے ہی گھر آجانے سے حالات میں مثبت تبدیلی رونما ہوگی نزدیک سفرات کھل جائیں گے اور بچوں کو بھی ابتدائی تعلیم میں بہتر ماحول میسر ہوگا البتہ 11 مئی تا 29 ستمبر زحل کی رجعت کے ایام میں تعلقات میں کچھ اور تناؤ کی کیفیات رونما ہو سکتی ہیں آپ کے سفرات ملتوی ہو سکتے ہیں جبکہ سال کا باقی دورانیہ اچھا گزرے گا۔

**گھر خاندان پر اپرٹی سواری** جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ زمین جائیداد پر اپرٹی لے لحاظ سے یہ سال موافق نا ہوگا گھر کی تبدیلی پر اپرٹی کی خرید و فروخت اور سواری کے لین دین یا تبدیلی سے گریز کریں آپ کو نقصان یا التوا کے خدشات لاحق ہو گئے۔ اس سال آپ کو والدہ کی صحت یا اختلافات کی وجہ سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بالخصوص 19 فروری تا 20 مارچ کا دورانیہ اور 14 مئی تا 13 ستمبر کا دورانیہ خدا نخواستہ مشکلات لا سکتا ہے اس سال مشتری کے منفی اثرات کا روحانی تدارک کرنا از حد ضروری ہوگا۔

**اولاد انعامی بانڈز لٹری** اس سال آپ کو طے چلے اثرات کا سامنا رہے گا سال کی ابتدا خاصی بہتر رہے گی سال کے ابتدا 3 جنوری تا 16 فروری بچوں سے تعلقات کو انتہائی بہتر بنا رہی ہے بچوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہونگے بچوں کی قربت انتہائی اچھے ثمرات کی حامل ہوگی 16 فروری تا 31 مارچ

کا فیصلہ بھی آپ کے حق میں آ سکتا ہے بیرون ملک مقیم رہتے ہوئے سواری اور جگہ کی تبدیلی اس دوران کرنا بہتر ہوگا بتائے گئے عرصہ کے علاوہ امیگریشن اپلائی یا سواری کی تبدیلی بہتر ہوگی یہ دورانیہ موافق نہ ہونے سے آپ کو وطن واپسی کی راہ دیکھنا پڑ سکتی ہے۔

**شمسی و قمری گرہن** اس سال ہونے والے 4 قمری و شمسی گرہن آپ کی زندگی پر خاصہ گہرے اثرات مرتب کر سکتے ہیں ان گرہنوں کے اثرات آپ کے مالی معاملات، نزدیکی سفر، عزیز و اقارب، بنیادی تعلیم اور بیرون ملک سفروں روحانی علوم کیساتھ سسرالی عزیزوں سے متعلقہ معاملات کو متاثر کرنے کا باعث بن سکتے ہیں۔ ان ایام کو جنٹری سے نوٹ فرمائیں اور ہر وقت صدقہ اور نماز کسوف و خسوف ادا کر کے پروگنار کی امان حاصل کریں مزید تفصیلات کے لیے میر یونیورسٹی پبلسٹیج ذوار رضا جاوا کے نام سے دیکھ سکتے ہیں۔

**ورد خاص** روزانہ بعد از نماز فجر سورہ طلاق آیت نمبر 2 کا آخری اور تین اولین حصہ 100 مرتبہ ورد کریں بعد اول و آخر 12-12 مرتبہ ورد پاک روزانہ بعد از نماز عشاء سورہ انا انزلنا 9 مرتبہ تلاوت کریں مع اول و آخر 9-9 مرتبہ ورد پاک **صدقہ** ہر منگل 900 گرام دال مسور یا سرنی کی بچھی اور ہر ہفتہ 800 گرام کالے ماش کسی مستحق کو دیں یا پرندوں کو ڈال دیں۔

**بوج: قوس SAGITARIUS سیارہ: مشتری**

رنگ: سفید، بزم  
منصور: آتش  
جواہر: فیروزہ، بھرا قمر  
بہترین شریک حیات: حمل، اسد  
ناموافق ساتھی: حوت، جوزا، سنبل

بیماریاں: مرق النساء، جاذبات کی پونجی، ہاتھ کی خرابیاں

دن: بہرات عدد: 3 23 Nov to 22 Dec حروف: ف

**اہم نکات** اس سال آپ کے لئے اہم اور بڑی خبریں ہیں اس سال مارچ میں آپ کی سازہ سستی ختم ہو جائے گی اور آپ گزشتہ سات سال سے زائد جاری بھرائی کیفیت سے نکل آئیں گے۔ دوسری جانب آپ کا ذاتی ستارہ مشتری سارا سال دوسرے گھر جدی میں ہیبت یافتہ ہوگا جسکی وجہ سے آپ کا شخصی وقار مالی پوزیشن، خاندانی اور گھریلو مسائل کے ساتھ پر اپرٹی کے مسائل بھی سرانجام دے رہے ہیں۔ سیارہ مشتری سال کے آخر میں تیسرے بیت الاقرباء آجانے سے آپ کی زندگی پر سعدا اثرات مرتب ہونگے اسکے ساتھ ہی دیگر قمر، شمس، زہرہ، عطارد اور مریخ کی گردش آپ کے سال میں کیا ثمرات دے گی آنے والی سطور میں ملاحظہ کرتے ہیں۔

ان شاء اللہ آپ حسب خواہش حج عمرہ و زیارات مقدسہ کی سعادت بھی حاصل کر سکیں گے۔ روحانیت کی جانب آپ کی توجہ مبذول ہوگی لیکن آپ متزلزل بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ کا اپنا ستارہ مشتری جو کہ مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہے آغاز سال تا آخر ہبوط میں ہوگا۔ آغاز سال 20 مارچ، 20 مئی تا 21 جون اور 22 ستمبر تا 23 اکتوبر، 21 تا 31 دسمبر کا دورانیہ امیگریشن کے کاموں ویزہ کے حصول کے حوالہ سے موزوں نہ ہوگا ان ایام میں کی گئی کوششیں ناکامی سے دوچار ہوں گی جبکہ اعلیٰ تعلیم یا بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند افراد کو بھی ناکامی ہو سکتی ہے۔

**معیشت کیرنیر روزگار ترقی و تنزیلی آپ کے کیرنیر**  
روزگار سے متعلقہ ستارہ آغاز سال تا 2 فروری، 11 تا 28 اپریل، 11 مئی تا 5 ستمبر، 27 ستمبر تا 2 دسمبر کا دورانیہ بہتر پوزیشن میں رہتے ہوئے آپ کے کام کاروبار روزگار پر بہتر اثرات مرتب کرے گا اس دوران ملازمت پیشہ افراد کو ترقی کے امکانات بھی روشن ہو گئے اس دوران نئی انویسٹمنٹ کرنا اور کیرنیر روزگار کے حوالہ سے بڑے فیصلے لینا موزوں ہوگا جبکہ 3 فروری تا 10 اپریل، 29 اپریل تا 12 مئی، 6 تا 26 ستمبر اور 2 تا 20 دسمبر کا دورانیہ اہم فیصلوں اور تبدیلیوں کے لحاظ سے بہتر نہ ہوگا اپنی تحریر اور تقریر میں احتیاط برتیں اس دوران تحریری و ذہنی معاہدے کرنے سے گریز کریں۔

**دوست احباب، خواہشات کاروباری فوائد ہر زاویہ کا**  
کیا رہا ہوا گھر دوست احباب خوش بختی اور خواہشات کی تکمیل کا گھر ہوتا ہے اس گھر سے منسوب ستارہ زہرہ اس سال یکم تا 7 فروری، 5 مارچ تا 12 اکتوبر، 28 اکتوبر تا 20 نومبر بہتر پوزیشن میں رہتے ہوئے آپ کی خواہشات کی تکمیل میں معاونت دیتا رہے گا گذشتہ اوقات میں کئے گئے کاروباری اقدامات سے فوائد لینے کا یہ بہترین وقت ہوگا سال کا باقی دورانیہ بہتر نہ ہوگا اپنی خواہشات کو محدود رکھیں دوست احباب سے واسطہ امیدیں پوری نہ ہو سکیں گی۔

**بیرون ملک قیام خفیہ سازشیں اور امیگریشن**  
آغاز سال تا 31 مارچ تک کا دورانیہ امیگریشن اور بیرون ملک قیام کی کوششوں میں انشاء اللہ کامیابیاں لائے گا۔ یکم اپریل تا 28 جون کا دورانیہ قطعی موافق تا ہوگا مریخ کی منفی حالت آپ کے بیرون ملک قیام کو مشکل بنا دے گی بیرون ملک مقیم افراد کو اپسی کی راہ دیکھنا پڑ سکتی ہے اس دوران نئے ویزہ کے حصول کے لئے امیگریشن کے لئے آغاز کرنا بہتر نہ ہوگا۔ 28 جون کے بعد حالات تدریجاً بہتر رہیں گے تاہم 10 ستمبر تا 14 نومبر کا دورانیہ مریخ کی رجعت کے ایام کی وجہ سے آپ کی مشکلات میں ایک بار پھر اضافہ ہو سکتا ہے۔

**شمسی و قمری گرہن** اس سال ہونے والے شمسی و قمری گرہن

تا 28 جون بچوں کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہو سکتے ہیں تاہم صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور اپنے بچوں کی غلطیوں کی اصلاح کریں۔ حاملہ خواتین کو اس دوران خاصی احتیاط برتنا ہوگی سال کا باقی دورانیہ انشاء اللہ اچھا گذرنے کے امکانات ہیں۔ 28 جون کے بعد حالات تیزی سے بہتر ہونگے جبکہ مریخ کی رجعت 10 ستمبر تا 14 نومبر کے ایام میں آپ کو احتیاط برتنا ہوگی۔

**صحت ملازمت اور ملازمین** اس سال 8 فروری تا 4 مارچ اور 13 اکتوبر تا 27 اکتوبر، 21 نومبر تا آخر سال آپ کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا اس دوران ملازمت کا خاص خیال رکھیں اختلافات سے گریز اور جاب چھوڑنے کی غلطی نہ کریں اپنے ملازمین پر اس دوران خاص نگاہ رکھیں نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ 5 مارچ تا 12 اکتوبر اور 27 اکتوبر تا 20 نومبر کا دورانیہ جاب کی تبدیلی کے لئے بہتر ہوگا آپ کو حسب خواہش ملازمت مل سکتی ہے اس دوران آپ کی صحت بھی بہتر رہے گی۔

**شادی ازدواجی زندگی شراکت داری** آپ کے ساتویں کا حاکم اور دسویں کا حاکم ستارہ عطارد ہے تیز رفتار ستارہ ہونے کی وجہ سے آپ کی ازدواجی و شراکتی زندگی پر بہت تیزی سے اثر انداز ہوتا ہے۔ اس سال ایک جنوری تا 12 فروری، 11 تا 27 اپریل، اور 12 مئی تا 5 ستمبر، 27 ستمبر تا یکم دسمبر آپ کے ازدواجی تعلقات بہتر رہیں گے شریک حیات کے ساتھ بہتر وقت گزارنے کا موقع ملے گا جبکہ اس دوران شراکتی معاملات بھی بہتر رہیں گے کسی نئی شراکت کی آفر بھی مل سکتی ہے جبکہ 3 فروری تا 10 اپریل، 28 اپریل تا 11 مئی، 6 تا 26 ستمبر اور 2 تا 21 دسمبر کا دورانیہ آپ کی مشکلات میں اضافہ کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ وقت بہت احتیاط طلب ہوگا گفتگو میں احتیاط برتیں اور کسی سنی سنائی بات پر اندھا اعتبار مشکلات میں اضافہ کا باعث ہوگا جبکہ زوجین میں علیحدگی تک معاملات جا سکتے ہیں۔

**وراثت مشترکہ مالی معاملات قرضہ** اس سال آپ کو معاملات حل کرنے کے کئی ایک مواقع دستیاب ہونگے۔ 13 جنوری تا 8 فروری اور 5 مارچ تا 2 اکتوبر، 27 اکتوبر تا 21 نومبر کا دورانیہ اس حوالہ سے سال کے بہترین اوقات ہونگے اس دوران مشترکہ طور پر کام کرنے والے افراد کو بھی بہتر منافع ملنے کے امکانات ہیں حسب خواہش قرضہ لینے کے خواہش مند افراد کو قرض کے حصول میں کامیابی ملے گی۔ آپ اپنے مالی معاملات بہتر بنا سکیں گے سال کا باقی دورانیہ آپ کے لیے موافق نہ ہوگا احتیاط برتیں۔

**روحانیت اعلیٰ تعلیم بیرون ملک سفارت حج و زیارات** اس سال آپ کو بیرون ملک سفارت کے کئی ایک مواقع ملیں گے اور

وہاں آپکی مالی پوزیشن کو متاثر کرنے کا باعث بن سکتی ہے بالخصوص وہ افراد زیادہ متاثر ہونگے جو مشترکہ طور پر کام کر رہے ہیں اسکے علاوہ خانہ مال میں زل کی موجودگی آپکی مالی پوزیشن کو بہتر بنا رہی ہے چونکہ یہ زل کا اپنا ذیلی برج ہے 11 مئی 29 تا ستمبر بوجہ رجعت روپیہ پیسہ آتا رہے گا مگر رفتار آہستہ ہو جائے گی ان ایام میں لین دین میں محتاط رہیں باقی تمام سال ان شاء اللہ بہتر گزرے گا۔

**عزیز واقارب، اتدانی تعلیم، نزدیکی سفر** جیسا کہ گزشتہ سطور میں بتایا جا چکا ہے مشتری جو کہ آپکے بیت الاقرباء کا حاکم سیارہ ہے تمام سال بیہوش میں رہے گا اس طرح یہ تمام سال آپکو اس حوالہ سے بہت محتاط روش اختیار کرنا ہوگی بالخصوص 3 فروری تا 11 اپریل جبکہ عطار و آپکے بیت الاقرباء میں بیہوش زدہ ہوگا عزیز واقارب کی جانب سے آپکو الزامات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس دوران یہ میں کسی بھی سنی سنائی بات پر یقین نہ کریں وگرنہ آپکے مابین تمخیاں مزید بڑھ جائیں گی اسکے علاوہ 14 مئی تا 13 ستمبر بوجہ رجعت مشتری بھی آپکے تعلقات بگاڑ کا شکار رہیں گے اس طرح جدی بچوں کو بھی امسال تعلیمی مدارج کی تکمیل میں مشکلات کا سامنا رہے گا اگر احتیاط نہ کی گئی تو آپکا تعلیمی سلسلہ منقطع ہو سکتا ہے امسال آپکے طے شدہ سفر بھی منسوخ ہو سکتے ہیں اور آپکو دوران سفر اپنی دستاویزات کا بھی خاص خیال رکھنا ہوگا۔

**خاندان، پراپرٹی** ابتدائے سال میں 3 جنوری تا 16 فروری مریخ کی بارہویں میں موجودگی گھریلو حالات متاثر کر سکتی ہے خاندان کے افراد پر وہ آپکے خلاف مصروف ہونگے اس دوران پراپرٹی کی خرید و فروخت کرنا بہتر نہ ہوگا 16 فروری کو مریخ طالع میں شرقی گھرا آجانے سے حالات میں بہتری آئے گی اب 31 مارچ تک پراپرٹی کی خرید و فروخت اور گھر رہائش کی تبدیلی بہتر ہوگی۔ خاندان کے افراد سے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ یکم اپریل تا 27 جون حالات قطعی موافق نہ ہونگے آپکو بے حد محتاط رہنا ہوگا اس دوران پراپرٹی کی خرید و فروخت سے قطعی گریز کریں گھر کا ماحول ایک مرتبہ پھر خراب ہو رہا ہے والدہ کی جانب سے پریشانی ہو سکتی ہے 28 جون کے بعد حالات میں بہتری متوقع ہے۔

**اولاد، سنگنی، انعامی بانڈ** زل دوسرے گھر رہتے ہوئے چوتھی نظر سے بیت اولاد کو دیکھ رہا ہے جو کہ بہتر صورت حال نہ ہوگی اسکے علاوہ 13 جنوری تا 7 فروری، 5 مارچ تا 2 اکتوبر، 28 اکتوبر تا 20 نومبر یا نجومیوں کا حاکم زہرہ بہتر پوزیشن میں رہتے ہوئے بچوں کی طرف سے آسودگی فراہم کر رہا ہے اولاد کے خواہش مند افراد کو خوشخبری مل سکتی ہے بڑے بچوں سے تعلقات بہتر رہیں گے انعامی سکیموں میں حصہ لینے والے افراد کے لیے بھی یہی دورانیہ موافق ہوگا سال کا باقی دورانیہ موافق نہ ہوگا۔

گرمی آپکی عزت مالی پوزیشن شراکتی وراثتی و ازدواجی معاملات کو متاثر کرنے کا باعث بن سکتے ہیں گرمیوں کے ایام اور دورانیے جنسری میں الگ سے صفحات پردے جاتے ہیں ان ایام کو نوٹ کر لیں اور صدقہ و نماز کسوف و خسوف کی بروقت ادائیگی سے آپ اللہ تعالیٰ کی امان میں آ سکتے ہیں۔

**صدقہ** ہر جمعرات 300 گرام یا تین پاؤ بڑا گوشت اور تین چمچ ہلدی کسی غریب مستحق کو دیں یا پرندوں کو ڈالیں۔ **ورد خاص** روزانہ بعد از نماز عشاء دعائے رنجوست سیارگان ورد کریں صبح اول آخر 9-9 مرتبہ درود پاک روزانہ بعد از نماز فجر سورۃ شوریٰ کی آیت نمبر 19 ایک تسبیح ورد کریں۔

**برج: جدی CAPRICORN سیارہ: زحل**

رنگ:	سرخ، سیاہ، سیاہی
لکڑی:	سرخ، سیاہی
مواہر:	سبز، لکڑی، یاقوت
بہترین شریک حیات:	شیر، سنبلہ
ناموافق ساتھی:	محل، سرطان، میزان

بیماریاں: دانتوں کی بیماریاں، امصابی تازہ، مردوں کا حکم

شان: 8 بجے تا 23 Dec to 20 Jan

حروف: ج، ز، ح، گ

**اہم نکات** جدی افراد امسال ساڑھتی کے تیسرے اور آخری ڈھائی سالہ دور میں 22 مارچ کو داخل ہو جائیں گے زحل آپکے خانہ مال میں اپنے ہی گھر آجانے سے آپکے مالی معاملات میں مثبت اثرات مرتب کرے گا دوسری طرف آغاز سال 19 دسمبر مشتری طالع میں بیہوش زدہ رہتے ہوئے آپکی عزت و توقیر اور سماجی تعلقات کو بری طرح متاثر کر رہا ہے امسال اس حوالہ سے کوئی روحانی تدارک کرنا از حد ضروری ہوگا دیگر سیارگان میں مریخ طالع میں شرف یاب ہونے سے آپکے شخصی وقار کو سہارا مل رہا ہے گھر پراپرٹی کی خرید و فروخت بہتر ہوگی یہ دورانیہ مختصر مگر خوش بختی سے بھرپور ہوگا دیگر سیارگان میں شمس و قمر عطار و زہرہ امسال آپکے حالات پر کیا اثرات مرتب کر رہے ہیں یہ انکی سطور میں ملاحظہ فرمائیں۔

**شخصی وقار** گزشتہ سال طالع میں زحل کی موجودگی سے آپکو خاصے بہتر حالات میسر رہے مگر امسال حالات خاصے مختلف نظر آ رہے ہیں گزشتہ سال دسمبر سے مشتری بیہوش زدہ آپکے طالع میں موجود رہتے ہوئے آپکی عزت و توقیر کو نقصان پہنچا سکتا ہے بالخصوص 14 مئی تا 13 ستمبر جبکہ مشتری طالع میں بحالت رجعت بھی ہوگا امسال گفتگو میں بہت احتیاط کرنا ہوگی اسکے علاوہ یکم تا 20 جنوری جبکہ شمس طالع میں بحالت حسیض ہوگا اور 12 تا 21 دسمبر کا دورانیہ بھی موافق نہ ہوگا امسال مشتری کے منفی اثرات سے بچاؤ کے لیے کوئی سدباب از حد ضروری ہوگا۔

**مالی پوزیشن** امسال 20 جنوری تا 19 فروری خانہ مال میں شمس کا

**صحت، ملازمت، ملازمین، آپکے ہیئتِ صحت کا حاکم عطارد**

امسال یکم جنوری تا 2 فروری 11 تا 27 اپریل 12 مئی 5 تا ستمبر تا یکم دسمبر 21 تا 31 دسمبر بہتر پوزیشن میں رہتے ہوئے آپکی صحت اور جاب دونوں پر مثبت اثرات مرتب کر رہا ہے آپکے لیے بہتر جاب اور ملازم کا حصول ممکن ہوگا جبکہ 3 فروری تا 11 اپریل 28 اپریل 11 تا مئی 6 تا 26 ستمبر 2 تا 20 دسمبر کا دورانیہ قطعی موافق نہ ہوگا۔ اس دوران اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں ملازمت چھوڑنے کی غلطی ہرگز نہ کریں وگرنہ دوبارہ ملنا مشکل ہوگی اس دوران آپکو اپنے ملازمین کی وجہ سے پریشانی ہو سکتی ہے۔

**شادی، ازدواجی زندگی، شراکت داری اس حوالہ سے**

امسال آپکو کچھ طے جملے حالات کا سامنا رہے گا اس سال کثرت سے قمری گرنہوں سے آپکے شراکتی، ازدواجی تعلقات خاصے متاثر ہو سکتے ہیں آپکو ان گرنہوں (قمری گرنہ) پر خصوصی توجہ دینی ہوگی جو کہ 10 جنوری، 5 جون، 5 جولائی اور 30 نومبر کو ہو رہے ہیں گرنہوں کے ایام میں خاص طور پر صدقہ اور نماز کسوف و خسوف کا اہتمام از حد ضروری ہوگا وگرنہ یہ آپکے مابین ملیحدگی کر دیا سکتے ہیں اسکے علاوہ ہر ماہ قمری ہیبت (قمری محرق) پر بھی لازمی صدقہ دیں تاکہ آپکے تعلقات بچے رہیں۔ امسال 21 جون تا 22 جولائی کا دورانیہ ساتویں شمس کی ادنیٰ نشست کی وجہ سے بہتر رہے گا یہ قدرت کا اعلیٰ ترین مذاقعاتی نظام ہے جو کہ آپکو 5 جون، 21 جون اور 5 جولائی کے شمس و قمری گرنہوں سے ان شاء اللہ محفوظ رکھے گا۔ گرنہ اور قمری ایام میں نکاح شادی قطعی گریز کریں۔

**وارثت، مشترکہ مالی معاملات، قرضہ ساڑھتی کے**

مشکل ترین دور میں اکثر جدی افراد وارثت کے حصول کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تاکہ مالی پوزیشن کو مستحکم کر سکیں۔ امسال یکم جنوری 20 تا مارچ 20 مئی 21 تا جون 22 تا ستمبر 23 تا اکتوبر 21 تا دسمبر 20 تا حصول میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں اس دوران قرضہ خواہ بھی آپکے مسائل میں اضافہ کا باعث ہو گئے محتاط رہیں جبکہ 20 مارچ تا 19 مئی 21 جون تا 21 ستمبر 23 اکتوبر 20 تا دسمبر آپکے لیے حالات موافق ہو گئے وارثت کا حصول اور مشترکہ انویسٹمنٹ سے مالی منافع مل سکے گا اس دورانیہ میں قرض کے خواہشمند افراد کے لیے قرض کا حصول ممکن ہوگا۔

**روحانیت، بیرون ملک سفر، حج و زیارات، اعلیٰ**

**تعلیم** امسال آپکے بیرون ملک سفر کی خواہش پوری ہو سکتی ہے مگر ذہن میں رکھیے گا امسال امیگریشن اپلائی کرنا قطعی موافق نہ ہوگا۔ آپکو حج و زیارات کی سعادت حاصل ہو سکتی ہے مگر ویزہ اپلائی کرنے کے لیے درست وقت کا انتخاب از حد ضروری ہوگا۔ 3 فروری تا 10 اپریل 28 اپریل تا 11 مئی 6 تا 26

ستمبر، 2 تا 20 دسمبر ویزہ اپلائی کرنے سے قطعی گریز کریں ان ایام میں عملیات کے شائق افراد اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے جدی افراد کو بھی مشکلات پیش آ سکتی ہیں آپکو از حد محتاط رہنا ہوگا۔

**معشیت، کیرئیر، روزگار، ترقی تنزلی آپکے کاروباری**

معاملات امسال 13 جنوری تا 7 فروری 5 مارچ 2 تا اکتوبر 28 اکتوبر 20 تا نومبر ان شاء اللہ آپکے لیے بہتر رہیں گے اس دوران نئے کاروباری معاہدوں اور کاروبار میں انویسٹمنٹ کا موقع ملے گا۔ ملازم پیشہ افراد کو حسبِ مقدر ترقی مل سکتی ہے۔ 8 فروری تا 4 مارچ 3 تا 27 اکتوبر 21 نومبر تا آخر سال ہوا کارخ مخالف سمت میں ہوگا اس دوران نئے کاروباری منصوبہ جات یا انویسٹمنٹ سے گریز کرنا بہتر ہوگا۔ ملازم پیشہ افراد کو اس دوران محتاط روش اختیار کرنا ہوگی۔

**دوست احباب، خواہشات، کاروباری فوائد امسال آپکے**

کیا رہیں گے گھر کا حاکم مرتب 16 فروری تا 31 مارچ شرفی گھر رہتے ہوئے آپکی خوش بختی میں اضافہ کر رہا ہے اس دوران دوست احباب کا بھرپور تعاون میسر رہے گا۔ 31 مارچ تا 28 جون کا دورانیہ قطعی موافق نہ ہوگا آپکو اپنی خواہشات کو روکنا ہوگا اس دوران دوست احباب سے تعلقات کشیدہ ہو سکتے ہیں محتاط رہیں۔

**بیرون ملک قیام، امیگریشن آپکے زانچے کا پار ہواں حصہ**

آپکے بیرون ملک قیام اور امیگریشن سے متعلق ہوتا جسکا حاکم سيارہ مشتری تمام سال آپکے طالع یعنی زانچے کے گھر یا ہیبت زدہ رہے گا اس طرح امسال آپکے لیے امیگریشن کا حصول از حد مشکل ہوگا بلکہ پہلے سے مقیم افراد کو بھی وطن واپس آنا پڑ سکتا ہے اس حوالہ سے کوئی روحانی تدارک کرنا آپکے لیے از حد ضروری ہوگا الغرض بے حد نقصان کا باعث ہوگی۔

**شمسی و قمری گرنہ جیسا کہ آپکو بتایا جا چکا ہے اس سال کثرت**

سے گرنہ لگ رہے ہیں امسال لگنے والے گرنہ آپکے شراکتی، ازدواجی معاملات، شادی میں رکاوٹ، بیرون ملک قیام اور امیگریشن کے علاوہ آپکی صحت اور عزت و وقار سے متعلقہ معاملات کو بری طرح متاثر کر سکتے ہیں ان ایام کو خاص طور پر ملحوظ خاطر رکھیں اور ہر وقت صدقات اور نماز کسوف و خسوف کی ادائیگی ان شاء اللہ آپکو ان مشکلات سے محفوظ رکھے گی۔

**صدقہ ہر جمعرات کو کم از کم 300 گرام یا 3 پاؤ بڑا گوشت اور 3 حج بلدی**

کسی مستحق کو دیں یا پرندوں کو ڈال دیں۔ ہر منگل 900 گرام دال مسور یا مرغی کی کٹی کسی مستحق کو دیں یا پرندوں کو ڈال دیں۔ **ورد خاص** روزانہ بعد از نماز فجر ایک تسبیح ورد کریں مع اول و آخر 11-11 مرتبہ درود پاک  
يَا اِلٰهَ الْاِلٰهَ الرَّفِيعُ جَلَالَهُ



**برج: دلو AQUARIUS سیارہ: یورینس**

رنگ: \_\_\_\_\_ فانی، بھورا، نیلا  
 مکتب: \_\_\_\_\_ ہوا  
 جواہر: \_\_\_\_\_ نیلم، ہندیہ، فیروزہ سیاہ  
 بہترین شریک: ہوا: \_\_\_\_\_ جوزا، میزان  
 ناموافق ساتھی: \_\_\_\_\_ ثور، سنبلہ، عقرب



بیماریاں: آنسو کی تباہیوں، احتیاج قلب، دوسرے

دن: ۸ رات: ۸ 21 Jan to 19 Feb حروف: س، ش، م، ث

**اہم نکات** آپ اس سال مارچ میں ساڑھ سستی کے دوسرے ڈھائی سال دور میں داخل ہو جائیں گے زحل طالع میں اپنے ذیلی گھر آجانے سے جہاں عزت وقار میں اضافہ ہوگا وہیں ذمہ داریاں بھی بڑھ جائیں گی زحل کی چوتھی ساتویں نظر آپ کے پراپرٹی اور خانگی کے علاوہ زادواجی، شرکاتی معاملات کو متاثر کر سکتا ہے اس سال آپ کے زانچے کے گیارہویں اور دوسرے گھر کا حاکم مشتری ہیوٹ میں جاتے سے آپ کے مالی معاملات بہت متاثر ہو سکتے ہیں مزید معلومات اور دیگر سیارگان شرف و قمر عطارد، زہرہ اور مریخ اس سال آپ پر کیا اثرات مرتب کریں گے یہ نگلی سطور میں ملاحظہ فرمائیں۔

**شخصی وقار** 20 جنوری تا 19 فروری طالع میں شمس کا وبال آپ کی عزت وقار کو متاثر کر سکتا ہے آپ کے شرکاتی ازدواجی تعلقات آپ کی مشکلات میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ مارچ آخر میں زحل طالع میں آجائے گا زحل چونکہ آپ کے اپنے سیارہ کا حاکم ہے تو اسکی طالع میں موجودگی آپ کے شخص و وقار میں اضافہ کر سکتی ہے مگر زحل کی چوتھی، ساتویں نظر آپ کے خانگی اور ازدواجی تعلقات کو متاثر کر سکتی ہے آپ کو بہت محتاط روش اختیار کرنا ہوگی۔ اس سال مشتری بارہویں ہیوٹ زدہ رہنے سے آپ کے خفیہ مخالفین کمزور رہیں گے ساڑھ سستی کے اس بحرانی دور میں یہ امداد غیب سمجھیں۔ اس سال آپ کو اپنے مالی معاملات پر بے حد توجہ دینی ہوگی لین دین کے معاملات میں بے ربطی آپ کی عزت تو قیور کو متاثر کر سکتی ہے چیک یا تحریری معاہدوں سے گریز کریں۔

**مالی پوزیشن** جیسا کہ اوپر آپ کو بتایا جا چکا ہے اس سال 19 دسمبر تک یعنی تقریباً سارا سال آپ کے خانہ مال کا حاکم مشتری ہیوٹ میں رہتے ہوئے آپ کی مالی مشکلات میں اضافہ کر سکتا ہے اس حوالہ سے مشتری سے منسوب صدقات اور سورہ شوریٰ آیت نمبر 19 روزانہ بعد از فجر ورد کرنا اپنا معمول رکھیں اسکے علاوہ 3 فروری تا 11 اپریل خانہ مال میں عطارد کا ہیوٹ اخراجات میں تیزی اور مالی بے قاعدگیوں کا باعث بن سکتا ہے آپ کے لیے 2020 مالی طور پر خاصہ مشکل ثابت ہو سکتا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے "مال آپ کے امتحان کا حصہ ہے"۔

پروردگار سے منسلک رہتے ہوئے اس صورتحال کا بہتر سدباب کیا جاسکے گا۔

**عزیز واقارب، ابتدائی تعلیم، نزدیکی** اس سال 3 جنوری تا 16 فروری آپ کے تعلقات خاصے بہتر رہیں گے مگر 16 فروری تا 31 مارچ مریخ کی بارہویں شرفی نشست عزیز واقارب کی ریشہ وائیاں بڑھادے گی۔ اسکے بعد 31 مارچ تا 28 جون بھی آپ کے تعلقات کشیدہ رہیں گے ان ایام میں نزدیکی سفروں سے گریز کرنا بہتر ہوگا دلویچوں کو بھی مشکلات پیش آسکتی ہیں۔ 8 جون کے بعد حالات میں قدرے بہتری آئے گی سال کا باقی دورانیہ پہلے سے بہتر رہے گا۔

**گھر، خاندان، پراپرٹی** جیسا کہ آپ کو بتایا جا چکا ہے زحل کی چوتھی نظر اس حوالہ سے بہتر نہ ہوگی پھر بھی 13 جنوری تا 7 فروری، 5 مارچ تا 2 اکتوبر، 28 اکتوبر تا 20 نومبر کے دوران زانچے کے چوتھے کا حاکم زہرہ بہتر پوزیشن میں رہتے ہوئے خانگی ماحول میں بہتری کا باعث بنے گا گھر کی تبدیلی پراپرٹی کی خرید و فروخت اور زمین و آرائش بہتر رہے گی اس دوران گھر کا ماحول بہتر رہے گا خاندان کے افراد سے بھی تعلقات ان شاء اللہ بہتر رہیں گے

**اولاد، سنگنی، انعامی بانڈ** اس سال 16 جنوری تا 3 فروری، 11 تا 28 اپریل، 12 مئی تا 5 ستمبر، 27 ستمبر تا یکم دسمبر کا دورانیہ بچوں کے حوالہ سے ان شاء اللہ بہتر گزرے گا بے اولاد لو افراد کو حسب خواہش اولاد کی خوش خبری مل سکتی ہے یہ دورانیہ انعامی سکیموں میں حصہ لینے یا پرائز بانڈ کی خرید و فروخت کے حوالہ سے بہتر رہے گا سال کا باقی دورانیہ آپ کو بے حد محتاط روش سے گزارنا ہوگا بالخصوص 3 فروری تا 10 اپریل، 6 تا 26 ستمبر کا دورانیہ قطعی موافق نہ ہوگا ان ایام میں اور 30 نومبر کو دل و حالہ خواتین کو بالخصوص احتیاط کرنا ہوگی آپ کے بڑے بچوں میں سرکشی کا عنصر بڑھ رہا ہے۔

**صحت، ملازمت، ملازمین** اس سال آپ کو اپنی صحت پر خاص توجہ دینا ہوگی اس سال 4 قمری گرہن جو کہ بالترتیب 10 جنوری، 5 جون، 5 جولائی اور 30 نومبر کو ہو رہے ہیں آپ کی صحت اور ملازمت دونوں کو بڑی طرح متاثر کر سکتے ہیں اسکے علاوہ ہر ماہ ہونے والے قمری ہیوٹ (قمر در عقرب) کو بھی خاص طور پر نظر میں رکھیں ان ایام میں خصوصی طور پر صدقات کا اہتمام کرنا از حد ضروری ہوگا اسکے علاوہ اس سال مئی تک راہ بھی آپ کے بیت الصحت میں موجود رہتے ہوئے آپ کی صحت بوجہ نظرید یا سحر جادو متاثر کر رہا ہے گا۔

**شادی، ازدواجی زندگی، شراکت داری** گو کہ اس سال آپ کی شادی طے پانے کے قوی امکانات موجود ہیں مگر زحل کی ساتویں نظر آپ کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے اسکا سدباب ضروری ہوگا اگر آپ نے ابھی تک اپنی ساڑھ سستی کا کوئی سدباب نہیں کیا تو پہلی فرصت میں کر لیں تاکہ زندگی کی

قطعی کوئی توقع نہیں رکھنی یہ پردہ گار کی طرف سے آپ کے لیے ایک سبق ہے آپ اس پر توکل کریں ان شاء اللہ مایوس نہیں ہونگے۔ اس سال آپ کو زیادہ محنت کرنا ہوگی تاکہ آپ کی خواہشات کی تکمیل ہو سکے۔

**بیرون ملک قیام، امیگریشن** اس سال آپ کے مزاج کے پارہوں گھر مشتری ہو طر زوہ رہتے ہوئے آپ کے بیرون ملک قیام کو مشکل بنا دے گا بیرون ملک عارضی یا غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو وطن واپسی کی راہ دیکھنا پڑ سکتی ہے اس حوالہ سے اس سال امیگریشن اپلائی کرنا بھی قلعی بہتر نہ ہوگا اس سال اپلائی کیے گئے یا تو ریوڑ ہو جائیں گے یا طویل عرصہ مردخانہ میں پڑے رہیں گے مختلف قسم کے اعتراضات کی نظر ہو سکتے ہیں اس حوالہ سے کوئی بہتر روحانی تدارک کرنا از حد ضروری ہوگا۔

**شمسی و قمری گرہن** اس سال کثرت سے گرہن ہونگے جو کہ آپ کی زندگی پر خاصے گہرے اثرات مرتب کر سکتے ہیں اس سال کے گرہن آپ کی صحت، ملازمت، ملازمین، شراکت داری، ازدواجی زندگی، دوست احباب، خواہشات، اولاد، تعلیم سے متعلقہ معاملات کو متاثر کر سکتے ہیں ان گرہنوں کے دوران صدقہ اور نماز کسوف و خسوف ہر وقت ادا کر کے آپ پرودہ گار کی امان حاصل کر سکتے ہیں اس حوالہ سے مزید معلومات آپ کو جنٹری کے شمسی و قمری گرہنوں کے صفحات یا میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل پر بھی مل سکتی ہیں۔

**صدقہ** ہر جمعرات کم از کم 300 گرام یا پاؤ بڑا گوشت اور 3 چمچ بلدی کسی مستحق کو دیں یا پرندوں کو ڈال دیں۔ ہر ہفتہ 800 گرام کالے ماش کسی مستحق کو دیں یا پرندوں کو ڈال دیں۔ **ورد خاص** روزانہ صبح و شام 9 مرتبہ دعائے رنجوست سیارگان ورد کریں مع اول و آخر 9-9 مرتبہ ورد پاک

### بوج: حوت PISCES سیارہ: مشتری

رنگ: سبز، بھورا، قہاکی  
منکر: آبی  
جواہر: زمرد، یاقوت  
بہترین شریک حیات: سرطان، مقرب  
ناموافق ساتھی: جوزا، سنبل، قوس



بیماریاں: امراض قلب، درد شامہ، ہرگی، جلن کی بیماریاں

دن: جمعرات - عدد: 3، 6، 9، 12، 15، 18، 21، 24، 27، 30، 33، 36، 39، 42، 45، 48، 51، 54، 57، 60، 63، 66، 69، 72، 75، 78، 81، 84، 87، 90، 93، 96، 99، 102، 105، 108، 111، 114، 117، 120، 123، 126، 129، 132، 135، 138، 141، 144، 147، 150، 153، 156، 159، 162، 165، 168، 171، 174، 177، 180، 183، 186، 189، 192، 195، 198، 201، 204، 207، 210، 213، 216، 219، 222، 225، 228، 231، 234، 237، 240، 243، 246، 249، 252، 255، 258، 261، 264، 267، 270، 273، 276، 279، 282، 285، 288، 291، 294، 297، 300، 303، 306، 309، 312، 315، 318، 321، 324، 327، 330، 333، 336، 339، 342، 345، 348، 351، 354، 357، 360، 363، 366، 369، 372، 375، 378، 381، 384، 387، 390، 393، 396، 399، 402، 405، 408، 411، 414، 417، 420، 423، 426، 429، 432، 435، 438، 441، 444، 447، 450، 453، 456، 459، 462، 465، 468، 471، 474، 477، 480، 483، 486، 489، 492، 495، 498، 501، 504، 507، 510، 513، 516، 519، 522، 525، 528، 531، 534، 537، 540، 543، 546، 549، 552، 555، 558، 561، 564، 567، 570، 573، 576، 579، 582، 585، 588، 591، 594، 597، 600، 603، 606، 609، 612، 615، 618، 621، 624، 627، 630، 633، 636، 639، 642، 645، 648، 651، 654، 657، 660، 663، 666، 669، 672، 675، 678، 681، 684، 687، 690، 693، 696، 699، 702، 705، 708، 711، 714، 717، 720، 723، 726، 729، 732، 735، 738، 741، 744، 747، 750، 753، 756، 759، 762، 765، 768، 771، 774، 777، 780، 783، 786، 789، 792، 795، 798، 801، 804، 807، 810، 813، 816، 819، 822، 825، 828، 831، 834، 837، 840، 843، 846، 849، 852، 855، 858، 861، 864، 867، 870، 873، 876، 879، 882، 885، 888، 891، 894، 897، 900، 903، 906، 909، 912، 915، 918، 921، 924، 927، 930، 933، 936، 939، 942، 945، 948، 951، 954، 957، 960، 963، 966، 969، 972، 975، 978، 981، 984، 987، 990، 993، 996، 999، 1002، 1005، 1008، 1011، 1014، 1017، 1020، 1023، 1026، 1029، 1032، 1035، 1038، 1041، 1044، 1047، 1050، 1053، 1056، 1059، 1062، 1065، 1068، 1071، 1074، 1077، 1080، 1083، 1086، 1089، 1092، 1095، 1098، 1101، 1104، 1107، 1110، 1113، 1116، 1119، 1122، 1125، 1128، 1131، 1134، 1137، 1140، 1143، 1146، 1149، 1152، 1155، 1158، 1161، 1164، 1167، 1170، 1173، 1176، 1179، 1182، 1185، 1188، 1191، 1194، 1197، 1200، 1203، 1206، 1209، 1212، 1215، 1218، 1221، 1224، 1227، 1230، 1233، 1236، 1239، 1242، 1245، 1248، 1251، 1254، 1257، 1260، 1263، 1266، 1269، 1272، 1275، 1278، 1281، 1284، 1287، 1290، 1293، 1296، 1299، 1302، 1305، 1308، 1311، 1314، 1317، 1320، 1323، 1326، 1329، 1332، 1335، 1338، 1341، 1344، 1347، 1350، 1353، 1356، 1359، 1362، 1365، 1368، 1371، 1374، 1377، 1380، 1383، 1386، 1389، 1392، 1395، 1398، 1401، 1404، 1407، 1410، 1413، 1416، 1419، 1422، 1425، 1428، 1431، 1434، 1437، 1440، 1443، 1446، 1449، 1452، 1455، 1458، 1461، 1464، 1467، 1470، 1473، 1476، 1479، 1482، 1485، 1488، 1491، 1494، 1497، 1500، 1503، 1506، 1509، 1512، 1515، 1518، 1521، 1524، 1527، 1530، 1533، 1536، 1539، 1542، 1545، 1548، 1551، 1554، 1557، 1560، 1563، 1566، 1569، 1572، 1575، 1578، 1581، 1584، 1587، 1590، 1593، 1596، 1599، 1602، 1605، 1608، 1611، 1614، 1617، 1620، 1623، 1626، 1629، 1632، 1635، 1638، 1641، 1644، 1647، 1650، 1653، 1656، 1659، 1662، 1665، 1668، 1671، 1674، 1677، 1680، 1683، 1686، 1689، 1692، 1695، 1698، 1701، 1704، 1707، 1710، 1713، 1716، 1719، 1722، 1725، 1728، 1731، 1734، 1737، 1740، 1743، 1746، 1749، 1752، 1755، 1758، 1761، 1764، 1767، 1770، 1773، 1776، 1779، 1782، 1785، 1788، 1791، 1794، 1797، 1800، 1803، 1806، 1809، 1812، 1815، 1818، 1821، 1824، 1827، 1830، 1833، 1836، 1839، 1842، 1845، 1848، 1851، 1854، 1857، 1860، 1863، 1866، 1869، 1872، 1875، 1878، 1881، 1884، 1887، 1890، 1893، 1896، 1899، 1902، 1905، 1908، 1911، 1914، 1917، 1920، 1923، 1926، 1929، 1932، 1935، 1938، 1941، 1944، 1947، 1950، 1953، 1956، 1959، 1962، 1965، 1968، 1971، 1974، 1977، 1980، 1983، 1986، 1989، 1992، 1995، 1998، 2001، 2004، 2007، 2010، 2013، 2016، 2019، 2022، 2025، 2028، 2031، 2034، 2037، 2040، 2043، 2046، 2049، 2052، 2055، 2058، 2061، 2064، 2067، 2070، 2073، 2076، 2079، 2082، 2085، 2088، 2091، 2094، 2097، 2100، 2103، 2106، 2109، 2112، 2115، 2118، 2121، 2124، 2127، 2130، 2133، 2136، 2139، 2142، 2145، 2148، 2151، 2154، 2157، 2160، 2163، 2166، 2169، 2172، 2175، 2178، 2181، 2184، 2187، 2190، 2193، 2196، 2199، 2202، 2205، 2208، 2211، 2214، 2217، 2220، 2223، 2226، 2229، 2232، 2235، 2238، 2241، 2244، 2247، 2250، 2253، 2256، 2259، 2262، 2265، 2268، 2271، 2274، 2277، 2280، 2283، 2286، 2289، 2292، 2295، 2298، 2301، 2304، 2307، 2310، 2313، 2316، 2319، 2322، 2325، 2328، 2331، 2334، 2337، 2340، 2343، 2346، 2349، 2352، 2355، 2358، 2361، 2364، 2367، 2370، 2373، 2376، 2379، 2382، 2385، 2388، 2391، 2394، 2397، 2400، 2403، 2406، 2409، 2412، 2415، 2418، 2421، 2424، 2427، 2430، 2433، 2436، 2439، 2442، 2445، 2448، 2451، 2454، 2457، 2460، 2463، 2466، 2469، 2472، 2475، 2478، 2481، 2484، 2487، 2490، 2493، 2496، 2499، 2502، 2505، 2508، 2511، 2514، 2517، 2520، 2523، 2526، 2529، 2532، 2535، 2538، 2541، 2544، 2547، 2550، 2553، 2556، 2559، 2562، 2565، 2568، 2571، 2574، 2577، 2580، 2583، 2586، 2589، 2592، 2595، 2598، 2601، 2604، 2607، 2610، 2613، 2616، 2619، 2622، 2625، 2628، 2631، 2634، 2637، 2640، 2643، 2646، 2649، 2652، 2655، 2658، 2661، 2664، 2667، 2670، 2673، 2676، 2679، 2682، 2685، 2688، 2691، 2694، 2697، 2700، 2703، 2706، 2709، 2712، 2715، 2718، 2721، 2724، 2727، 2730، 2733، 2736، 2739، 2742، 2745، 2748، 2751، 2754، 2757، 2760، 2763، 2766، 2769، 2772، 2775، 2778، 2781، 2784، 2787، 2790، 2793، 2796، 2799، 2802، 2805، 2808، 2811، 2814، 2817، 2820، 2823، 2826، 2829، 2832، 2835، 2838، 2841، 2844، 2847، 2850، 2853، 2856، 2859، 2862، 2865، 2868، 2871، 2874، 2877، 2880، 2883، 2886، 2889، 2892، 2895، 2898، 2901، 2904، 2907، 2910، 2913، 2916، 2919، 2922، 2925، 2928، 2931، 2934، 2937، 2940، 2943، 2946، 2949، 2952، 2955، 2958، 2961، 2964، 2967، 2970، 2973، 2976، 2979، 2982، 2985، 2988، 2991، 2994، 2997، 3000، 3003، 3006، 3009، 3012، 3015، 3018، 3021، 3024، 3027، 3030، 3033، 3036، 3039، 3042، 3045، 3048، 3051، 3054، 3057، 3060، 3063، 3066، 3069، 3072، 3075، 3078، 3081، 3084، 3087، 3090، 3093، 3096، 3099، 3102، 3105، 3108، 3111، 3114، 3117، 3120، 3123، 3126، 3129، 3132، 3135، 3138، 3141، 3144، 3147، 3150، 3153، 3156، 3159، 3162، 3165، 3168، 3171، 3174، 3177، 3180، 3183، 3186، 3189، 3192، 3195، 3198، 3201، 3204، 3207، 3210، 3213، 3216، 3219، 3222، 3225، 3228، 3231، 3234، 3237، 3240، 3243، 3246، 3249، 3252، 3255، 3258، 3261، 3264، 3267، 3270، 3273، 3276، 3279، 3282، 3285، 3288، 3291، 3294، 3297، 3300، 3303، 3306، 3309، 3312، 3315، 3318، 3321، 3324، 3327، 3330، 3333، 3336، 3339، 3342، 3345، 3348، 3351، 3354، 3357، 3360، 3363، 3366، 3369، 3372، 3375، 3378، 3381، 3384، 3387، 3390، 3393، 3396، 3399، 3402، 3405، 3408، 3411، 3414، 3417، 3420، 3423، 3426، 3429، 3432، 3435، 3438، 3441، 3444، 3447، 3450، 3453، 3456، 3459، 3462، 3465، 3468، 3471، 3474، 3477، 3480، 3483، 3486، 3489، 3492، 3495، 3498، 3501، 3504، 3507، 3510، 3513، 3516، 3519، 3522، 3525، 3528، 3531، 3534، 3537، 3540، 3543، 3546، 3549، 3552، 3555، 3558، 3561، 3564، 3567، 3570، 3573، 3576، 3579، 3582، 3585، 3588، 3591، 3594، 3597، 3600، 3603، 3606، 3609، 3612، 3615، 3618، 3621، 3624، 3627، 3630، 3633، 3636، 3639، 3642، 3645، 3648، 3651، 3654، 3657، 3660، 3663، 3666، 3669، 3672، 3675، 3678، 3681، 3684، 3687، 3690، 3693، 3696، 3699، 3702، 3705، 3708، 3711، 3714، 3717، 3720، 3723، 3726، 3729، 3732، 3735، 3738، 3741، 3744، 3747، 3750، 3753، 3756، 3759، 3762، 3765، 3768، 3771، 3774، 3777، 3780، 3783، 3786، 3789، 3792، 3795، 3798، 3801، 3804، 3807، 3810، 3813، 3816، 3819، 3822، 3825، 3828، 3831، 3834، 3837، 3840، 3843، 3846، 3849، 3852، 3855، 3858، 3861، 3864، 3867، 3870، 3873، 3876، 3879، 3882، 3885، 3888، 3891، 3894، 3897، 3900، 3903، 3906، 3909، 3912، 3915، 3918، 3921، 3924، 3927، 3930، 3933، 3936، 3939، 3942، 3945، 3948، 3951، 3954، 3957، 3960، 3963، 3966، 3969، 3972، 3975، 3978، 3981، 3984، 3987، 3990، 3993، 3996، 3999، 4002، 4005، 4008، 4011، 4014، 4017، 4020، 4023، 4026، 4029، 4032، 4035، 4038، 4041، 4044، 4047، 4050، 4053، 4056، 4059، 4062، 4065، 4068، 4071، 4074، 4077، 4080، 4083، 4086، 4089، 4092، 4095، 4098، 4101، 4104، 4107، 4110، 4113، 4116، 4119، 4122، 4125، 4128، 4131، 4134، 4137، 4140، 4143، 4146، 4149، 4152، 4155، 4158، 4161، 4164، 4167، 4170، 4173، 4176، 4179، 4182، 4185، 4188، 4191، 4194، 4197، 4200، 4203، 4206، 4209، 4212، 4215، 4218، 4221، 4224، 4227، 4230، 4233، 4236، 4239، 4242، 4245، 4248، 4251، 4254، 4257، 4260، 4263، 4266، 4269، 4272، 4275، 4278، 4281، 4284، 4287، 4290، 4293، 4296، 4299، 4302، 4305، 4308، 4311، 4314، 4317، 4320، 4323، 4326، 4329، 4332، 4335، 4338، 4341، 4344، 4347، 4350، 4353، 4356، 4359، 4362، 4365، 4368، 4371، 4374، 4377، 4380، 4383، 4386، 4389، 4392، 4395، 4398، 4401، 4404، 4407، 4410، 4413، 4416، 4419، 4422، 4425، 4428، 4431، 4434، 4437، 4440، 4443، 4446، 4449، 4452، 4455، 4458، 4461، 4464، 4467، 4470، 4473، 4476، 4479، 4482، 4485، 4488، 4491، 4494، 4497، 4500، 4503، 4506، 4509، 4512، 4515، 4518، 4521، 4524، 4527، 4530، 4533، 4536، 4539، 4542، 4545، 4548، 4551، 4554، 4557، 4560، 4563، 4566، 4569، 4572، 4575، 4578، 4581، 4584، 4587، 4590، 4593، 4596، 4599، 4602، 4605، 4608، 4611، 4614، 4617، 4620، 4623، 4626، 4629، 4632، 4635، 4638، 4641، 4644، 4647، 4650، 4653، 4656، 4659، 4662، 4665، 4668، 4671، 4674، 4677، 4680، 4683، 4686، 4689، 4692، 4695، 4698، 4701، 4704، 4707، 4710، 4713، 4716، 4719، 4722، 4725، 4728، 4731، 4734، 4737، 4740، 4743، 4746، 4749، 4752، 4755، 4758، 4761، 4764، 4767، 4770، 4773، 4776، 4779، 4782، 4785، 4788، 4791، 4794، 4797، 4800، 4803، 4806، 4809، 4812، 4815، 4818، 4821، 4824، 4827، 4830، 4833، 4836، 4839، 4842، 4845، 4848، 4851، 4854، 4857، 4860، 4863، 4866، 4869، 4872، 4875، 4878، 4881، 4884، 4887، 4890، 4893، 4896، 4899، 4902، 4905، 4908، 4911، 4914، 4917، 4920، 4923، 4926، 4929، 4932، 4935، 4938، 4941، 4944، 4947، 4950، 4953، 4956، 4959، 4962، 4965، 4968، 4971، 4974، 4977، 4980، 4983، 4986، 4989، 4992، 4995، 4998، 5001، 5004، 5007، 5010، 5013، 5016، 5019، 5022، 5025، 5028، 5031، 5034، 5037، 5040، 5043، 5046، 5049، 5052، 5055، 5058، 5061، 5064، 5067، 5070، 5073، 5076، 5079، 5082، 5085، 5088، 5091، 5094، 5097، 5100، 5103، 5106، 5109، 5112، 5115، 5118، 5121، 5124، 5127، 5130، 5133، 5136، 5139، 5142، 5145، 5148، 5151، 5154، 5157، 5160، 5163، 5166، 5169، 5172، 5175، 5178، 5181، 5184، 5187، 5190، 5193، 5196، 5199، 5202، 5205، 5208، 5211، 5214، 5217، 5220، 5223، 5226، 5229، 5232، 5235، 5238، 5241، 5244، 5247، 5250، 5253، 5256، 5259، 5262، 5265، 5268، 5271، 5274، 5277، 5280، 5283، 5286، 5289، 5292، 5295، 5298، 5301، 5304، 5307، 5310، 5313، 5316، 5319، 5322، 5325، 5328، 5331، 5334، 5337، 5340، 5343، 5346، 5349، 5352، 5355، 5358، 5361، 5364، 5367، 5370، 5373، 5376، 5379، 5382، 5385، 5388، 5391، 5394، 5397، 5400، 5403، 5406، 5409، 5412، 5415، 5418، 5421، 5424، 5427، 5430، 5433، 5436، 5439، 5442، 5445، 5448، 5451، 5454، 5457، 5460، 5463، 5466، 5469، 5472، 5475، 5478، 5481، 5484، 5487، 5490، 5493، 5496، 5499، 5502، 5505، 5508، 5511، 5514، 5517، 5520، 5523، 5526، 5529، 5532، 5535، 5538، 5541، 5544، 5547، 5550، 5553، 5556، 5559، 5562، 5565، 5568، 5571، 5574، 5577، 5580، 5583، 5586، 5589، 5592، 5595، 5598، 5601، 5604، 5607، 5610، 5613، 5616، 5619، 5622، 5625، 5628، 5631، 5634، 5637، 5640، 5643، 5646، 5649، 5652، 5655، 5658، 5661، 5664، 5667، 5670، 5673، 5676، 5679، 5682، 5685، 5688، 5691، 5694، 5697، 5700، 5703، 5706، 5709، 5712، 5715، 5718، 5721، 5724، 5727، 5730، 5733، 5736، 5739، 5742، 5745، 5748، 5751، 5754، 5757، 5760، 5763، 5766، 5769، 5772، 5775، 5778، 5781، 5784، 5787، 5790، 5793، 5796، 5799، 5802، 5805، 5808، 581

یہ گریہن بالترتیب 10 جنوری، 5 جون، 5 جولائی اور 30 نومبر کو لگ رہے ہیں ان ایام میں ہر وقت صدقات کی ادائیگی آپ کو ان شاء اللہ مشکلات سے دور رکھے گی۔ اس بارے میں مزید تفصیلات جنتری میں دیئے گئے الگ صفحہ سے دیکھ لیں۔ امسال بے اولاد حضرات کو بالخصوص 21 جون تا 22 جولائی خوشخبری مل سکتی ہے۔ انعامی ٹیکسوں کے شائق افراد کے لیے یوں تو تمام سال بہتر ہے مگر 21 جون تا 22 جولائی امکانات زیادہ ہونگے۔

**صحت، ملازمت، ملازمین** آپکی صحت، ملازمت کے حوالے سے 2020 ایک ملا جلا سال ہے۔ آغاز سال تا 20 مارچ، 20 مئی تا 20 جون، 22 ستمبر تا 22 اکتوبر، 21 تا 31 دسمبر آپ کو اپنی صحت پر خاص توجہ دینا ہوگی اسکے علاوہ یہ دورانیہ آپکی ملازمت کے حوالے سے بھی بہتر نہ ہوگا آپکی لگی لگائی جاب ختم ہو سکتی ہے اس دوران خود سے جاب چھوڑنے کی غلطی ہرگز نہ کریں وگرنہ دوبارہ جاب ملنا مشکل ہوگی جبکہ 20 مارچ تا 19 اپریل، 21 جون تا 22 اگست آپ کے لیے بہتر جاب کا حصول ممکن ہوگا۔ سال کا باقی دورانیہ میں ان شاء اللہ بہتر گزرے گا اور امسال اول الذکر دورانیہ میں آپ کو ملازمین کی جانب سے پریشانی ہو سکتی ہے۔

**شادی، ازدواجی تعلقات، شراکت داری** امسال آپ کا اپنا سیارہ منگی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے آپ کے ازدواجی تعلقات بھی متاثر ہونے کا اندیشہ ہوگا از حد محتاط رہیں۔ امسال 11 تا 27 اپریل، 12 مئی تا 5 ستمبر، 27 ستمبر تا یکم دسمبر ان شاء اللہ آپکی شادی، نکاح طے پا جانے کے قوی امکانات ہونگے اس دوران آپ کو نئی شراکت داری کی آفر بھی مل سکتی ہے۔ پہلے سے شادی شدہ افراد کو بہتر ازدواجی ماحول میسر رہے گا۔ جبکہ 3 فروری تا 10 اپریل بالخصوص اور 6 تا 26 ستمبر، 2 تا 20 دسمبر بالعموم آپ کو مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے محتاط رہیں وگرنہ آپ کے مابین خدانخواستہ تلخگی ہو سکتی ہے اس دوران شادی، نکاح کرنا بہتر نہ ہوگا۔

**وراثت، مشترکہ مالی معاملات، قرضہ** امسال آپ کے شراکتی، وارثی معاملات حل ہونے کے قوی امکانات موجود ہیں۔ 13 جنوری تا 7 فروری، 5 مارچ تا 2 اکتوبر، 28 اکتوبر تا 20 نومبر آپ کے معاملات حل ہونے کے قوی امکانات موجود ہونگے اس دوران مشترکہ طور پر کام کرنے والے افراد کو بھی بہتر منافع کا حصول ہو سکتا ہے۔ سال کا باقی دورانیہ بہتر نہ ہوگا آپ کو از حد محتاط اور تحمل سے رہنا ہوگا۔

**روحانیت، بیرون ملک سفر، حج و زیارات، اعلیٰ تعلیم** امسال آپ کو بیرون ملک سفر کے کئی ایک مواقع میسر رہیں گے۔ آغاز سال تا 31 مارچ ویزہ وغیرہ ایلانی کرنے کے لیے بہترین وقت ہوگا۔ اعلیٰ تعلیمی

دوسرا بڑا سیارہ مشتری جو کہ آپ کے اپنے برج کا حاکم بھی ہے۔ یہ 19 دسمبر تک ہی بھٹ میں رہے گا اور آپ کے شخصی وقار اور کیریئر روزگار کو انتہائی بڑی طرح متاثر کر رہا ہے ساڑھ سٹی کے آغاز سے پہلے ہی آپ کو ہر قدم پھونک کر رکھنا ہوگا ساڑھ سٹی کے بارے میں تفصیلی ویڈیو آپ میرے یوٹیوب چینل شیخ زوار رضا جاوید پر دیکھ سکتے ہیں۔

**شخصی وقار** جیسا کہ گزشتہ سطور میں بتایا جا چکا ہے حوت افراد کو امسال بوجہ بھٹ مشتری جو کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ ہے اسکا بھٹ آپ کے عزت وقار کو بھروسہ کرنے کا باعث بن سکتا ہے جب آپ کا اپنا سیارہ گردان کی حالت میں ہوتا ہے تو لوگوں میں آپکی مقبولیت کو متاثر کرتا ہے اسکے علاوہ 8 فروری تا 4 مارچ، 13 اکتوبر تا 27 اکتوبر، 21 نومبر تا آخر سال آپ کے سماجی تعلقات بھی آپکی مشکلات کا باعث ہونگے۔

**مالی پوزیشن** امسال ابتدائے سال تا 16 فروری بالعموم اور 16 فروری تا 31 مارچ بالخصوص آپکی مالی پوزیشن خاصی بہتر رہے گی، خانہ مال کا حاکم مریخ شرف کے گھر رہتے ہوئے آپکی مالی پوزیشن کو مستحکم بنا رہا ہے۔ 31 مارچ تا 28 جون مریخ کی منفی پوزیشن آپ کو مالی طور پر کمزور کر سکتی ہے اس دوران 7 مارچ کو خانہ مال میں شمس کا شرف قدرے بہتری کا باعث بھی ہوگا اس طرح اس مشکل صورتحال میں قدرے بہتری متوقع ہے۔ 28 جون کے بعد حالات تیزی سے بہتر ہونگے۔ 10 ستمبر تا 14 نومبر روپیہ پیسہ کی آمد و رفت میں قدرے کمی آئے گی اور اخراجات میں تیزی سال کا باقی دورانیہ ان شاء اللہ بہتر گزرے گا۔

**عزیز و اقارب، ابتدائی تعلیم، نزدیکی سفر** آپ کے بیت الاقرباء کا حاکم زہرہ امسال یکم تا 7 فروری، 5 مارچ تا 2 اکتوبر، 28 اکتوبر تا 20 نومبر بہتر پوزیشن میں رہتے ہوئے عزیز واقارب کے ساتھ تعلقات بہتر رکھے گا اس دوران آپ کو کئی ایک سفر کرنے کا موقع ملے گا اور حوت بچوں کو بھی تعلیمی میدان میں کامیابیاں میسر رہیں گی جبکہ سال کا باقی دورانیہ آپ کو محتاط روش سے گزارنا ہوگا۔

**گھر، خاندان، پراپرٹی** اس سال یکم تا 16 جنوری، 11 تا 27 اپریل، 12 مئی تا 5 ستمبر، 20 تا 2 دسمبر پراپرٹی کی خرید و فروخت اور گھر کی تبدیلی کے لیے بہتر اوقات ہونگے۔ آپ کو گھر کا سکون میسر رہے گا خاندانی افراد کیساتھ سے تعلقات بفضل خدا بہتر رہیں گے۔ جبکہ 3 فروری تا 10 اپریل، 6 تا 26 ستمبر، 2 تا 20 دسمبر کے دوران آپ کو پراپرٹی کی خرید و فروخت سے قطعاً گریز کرنا ہوگا اس دوران خاندان کے افراد کے ساتھ رنجش پیدا ہو سکتی ہے۔

**اولاد، انعامی بانڈ، لائٹری** 2020 گزشتہ کی نسبت یہ سال نظر آ رہا ہے گزشتہ سال مانجوس مریخ کے بھٹ نے آپ کو خاصہ متاثر کیا ہے امسال

## ڈینگی فیور کا علاج

تعویذ امام حسن عسکری علیہ السلام میں موجود ہے۔

خدائے رحمان و رحیم کے گیارہویں معصوم امام حسن عسکری علیہ السلام نے کئی سو سال پہلے اس بخار کے علاج کا نسخہ دنیا کو عطا فرما دیا اس بخار کا علاج امام معصوم کے ایک تعویذ کے ذریعے سے ممکن ہے کئی مریض خدا کے فضل و کرم سے ناطق قرآن کے اس عطا کردہ تعویذ کے فیض سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ تعویذ اس طرح سے بنائیں کہ پہلے پاک و طاہر لباس ہو پھر پاؤں کو قریبہ ترخ ہوں اور بسم اللہ پڑھ کر محمد و آل محمد پر ذرورہ و سلام بھیجیں اور پھر تعویذ تحریر کریں (یا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَيَّ اَيُّهَا النَّبِيُّ) آیت ۶۹ تعویذ لکھنے کے بعد کالی ڈوری کے ذریعے یا کسی پاک کپڑے میں کر کے تعویذ مریض کے سر پر باندھ دیں اور مریض پر ستر مرتبہ سورۃ الحمد صبح دو پہر رات تین وقت پڑھ کر دم کریں۔ صبح کے وقت صبح صادق میں جب روشنی نمودار ہو رہی ہو اور رات کا اندھیرا جا رہا ہو۔ دو پہر میں ٹھیک زوال آفتاب کے وقت اور رات میں یعنی ٹھیک مغربین کے وقت جب روشنی جا رہی ہو اور اندھیرا چھا رہا ہو۔ سورۃ الحمد پڑھنے کے بعد مریض کی شفا یابی کیلئے دعا کریں اور مریض کو روزانہ قرآن کریم کی تلاوت سنائیں انشاء اللہ مریض بہت جلد شفا پائے گا اور بخار تو فوراً پچھا چھوڑ دے گا۔ یہ تعویذ نبی سبیل اللہ ہے جو مومن تعویذ بنانے میں وقت محسوس کریں وہ خاکسار سے نبی سبیل اللہ تعویذ بنا سکتے ہیں۔

0345-2370324  
021-6673960

السید شرمہاس جعفری

بنوا سکتے ہیں۔

معاملات کو متاثر کرنے کا باعث بن سکتے ہیں ان ایام میں عورت کی حاملہ خواتین کو از حد احتیاط سے کام لینا ہوگا ہر وقت صدقات کی ادائیگی اور نماز کسوف و خسوف ادا کر کے آپ پر درود گار کی امان حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سال 6 گرہن ہونگے جو کہ بالترتیب 10 جنوری، 5 جون، 21 جون، 5 جولائی، 30 نومبر اور 31 دسمبر کو ہونگے۔ گرہنوں کی مزید تفصیلات اور دروایے جنتری میں الگ سے دیئے جاتے ہیں وہاں آپ کو مزید تفصیل مل جائے گی اسکے علاوہ آپ میرے فیس بک یا یوٹیوب چینل شیخ زوار رضا جاوید پر مزید تفصیلات دیکھ سکتے ہیں۔

**صدقہ** ہر جمعرات 3 پاؤ یا 300 گرام بڑا گوشت اور 3 چمچے ہلدی کسی مستحق کو دیں یا پرندوں کو ڈال دیں۔ ہر ہفتہ 800 گرام کالے ماش کسی مستحق کو دیں یا پرندوں کو ڈال دیں۔ **ورد خاص** روزانہ بعد از نماز پنجگانہ دعائے رنجوست سیارگان 9 مرتبہ صبح اول و آخر 9-9 مرتبہ درود پاک ورد کریں

مدارج حاصل کرنے والے افراد کے لیے یہ سال کا سب سے بہترین وقت ہے آپکو زیارات مقدسہ اور حج کے لیے ویزہ اپلائی کرنے کا موقع مل سکتا۔ 31 مارچ 28 جون ایسی کسی بھی کوشش سے قطعی گریز کریں 28 جون کے بعد حالات ایک مرتبہ پھر موافق ہونگے۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے افراد اور بیرون ملک سفر اختیار کرنے والے افراد کو 10 ستمبر تا 14 نومبر قدرے مشکلات پیش آسکتی ہیں محتاط رہیں۔

**معشیت، کیرنر، روزگار، ترقی، تنزلی** اس سال آپکو بہت زیادہ توجہ شخصی وقار کے بعد اور اپنے اسی شعبہ پر دینا ہوگی تمام سال مشتری ہو طرہ رہتے ہوئے آپکی مشکلات میں اضافہ کا باعث بنا رہے گا۔ بالخصوص 14 مئی تا 13 ستمبر کا دورانیہ جبکہ مشتری رجعت میں ہوگا۔ آپکی مشکلات میں مزید اضافہ کا باعث بن سکتا ہے اس حوالے سے آپکو ضروری ہوگا اسکا روحانی تدارک کریں یہ تمام سال آپکو بے حد محتاط رہنا ہوگا کسی بھی قسم کی نئی انوسمنٹ سے قطعی گریز کریں۔

**دوست احباب، خواہشات** جیسا کہ گزشتہ سطور میں بتایا جا چکا ہے اس سال 19 دسمبر تک آپکا اپنا حاکم سیارہ مشتری آپکے زائچے کے گیارہویں ہو ط کی حالت میں قیام کرے گا مشتری کا یہاں قیام دوست احباب کیساتھ تعلقات کو کشیدہ کر سکتا ہے۔ اس سال آپکو اپنی خواہشات کو محدود رکھنا ہوگا ورنہ خواہشات کا شکستہ ہونا آپکو ڈپریشن کا شکار کر سکتا ہے۔ مگر یاد رکھیں ہر چیز پر قادر ذات پرودگار کی ہے اُس سے اپنا رابطہ بڑھا کر آپ تمام سیارگان کے منفی اثرات کو قطع کر سکتے ہیں۔ داؤد اند دعائے رنجوست سیارگان اور درود پاک کثرت سے پڑھنا اپنا معمول بنا کر آپ اس صورتحال پر قابو پا سکتے ہیں۔

**بیرون ملک قیام، امیگریشن، خفیہ سازش** 20 جنوری 19 فروری شمس زائچے کے بارہویں رہتے ہوئے آپکے بیرون ملک قیام کو مشکل بنا رہا ہے اس دوران امیگریشن اپلائی کرنا بہتر نہ ہوگا۔ 22 مارچ کو زلزل کے بارہویں آجانے سے آپکے بیرون ملک قیام میں ورچیش رکاوٹوں کا خاتمہ ہو جائے گا مگر اسکے ساتھ ساتھ آپکے خلاف خفیہ سازشوں کے دروازے بھی کھل جائیں گے۔ 11 مئی تا 29 ستمبر زحل رجعت میں ہونے سے آپکے بیرون ملک قیام میں قدرے مشکلات آسکتی ہیں اس دوران امیگریشن اپلائی نہ کرنا بہتر ہوگا اس دوران اپلائی نہ کرنا بہتر ہوگا اس دوران اپلائی کیے گے کیسز تا دیر پینڈنگ رہیں گے۔

**شمسی و قمری گرہن** اس سال ہونے والے شمسی و قمری گرہن آپکے کیرنر، روزگار، پراپرٹی، سوادری، والدہ اور بچوں، منگنی سے متعلقہ

غلام کبریا

0092-300-5537074

# بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کا مجرب نقش

عزیزان گرامی میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ امامیہ جنتری کیلئے ایسے عام فہم اعمال تحریر کروں جو نہ صرف عام شخص کی سمجھ میں آئیں بلکہ تمام مومنین ہومونات ان سے مستفید ہو سکیں۔ اس مرتبہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اور سورۃ طلاق کی آیت کا ایک مجرب ترین عمل تحریر کر رہا ہوں جو وسعت رزق، تسخیر خلق یعنی ایسے لوگ جن کا عوام سے براہ راست تعلق ہوتا ہے۔ حصول عزت و حرمت، قید و بند کی صعوبتوں سے نجات، سحر جادو کے خاتمے، بچیوں کی شادی، حصول ملازمت و ویژه الغرض حاجت کوئی بھی ہو ان اعمال کے کرنے سے نہ صرف حاجت پوری ہوگی بلکہ دلی سکون بھی میسر آئے گا۔

بعد اختتام عمل بے شک اسے چمڑے وغیرہ میں بند کر دیا جاسکتا ہے۔

عزیز من یہ نقش اور عمل ہمیشہ آپ کی ذمہ داری بن رہے گا اس نقش کہ دل و جان سے ہمیشہ پاس رکھیں۔ اور بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ آپ کا

حامی و ناصر ہو۔ **غلام کبریا** 0092-300-5537074

دارالعملیات محمد کالونی شیر شاہ سوری روڈ کنڈیاں ضلع میانوالی۔ (پنجاب)

قارئین کرام عروج ماہ نوچندی اتوار یا جمعرات کی شب بعد نماز عشاء ان اعمال کو شروع کریں کوشش کریں عمل شروع کرنے سے تین دن قبل آپ کی کوئی نماز قضاء نہ ہو۔ استغفار کا ورد ہر وقت زبان پر جاری رہے۔ با وضو قبلہ رخ وقت اور جگہ کی پابندی کرتے ہوئے عمل کی ابتداء کریں۔ اول آخر گیارہ بار درود شریف اور آخر میں آیت (رب انی مغلوب فانتصر) اور **ومن یتق الله... لکل شیء قدرا۔**

100,100 بار پڑھ کر سجدہ میں رکھ کر اپنے رب کریم سے گڑگڑا کر دعا کریں انشاء اللہ عمل کے ایام کی معیار پوری نہیں ہوگی کہ مراد برائے گی۔ سب سے قبل جمعرات یا اتوار بعد طلوع آفتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے درج دونوں نقش کاغذ کے دونوں طرف اس طرح تحریر کریں۔ تاکہ کوئی لکیر یا خانہ ادھر اُدھر نہ ہو۔ نقش آگے پیچھے تحریر کرنا ہے پہلے حرفی نقش پھر عددی نقش تحریر کرنا ہے۔ حرفی نقش کی طرح عددی نقش کے اضلاع کا پورا خیال رکھیں اور حرفی نقش کی طرح عددی نقش تحریر کریں۔ نقش تیار کرتے وقت قواعد کا پورا پورا خیال رہے۔

جب بعد نماز عشاء عمل کی نیت سے بیٹھیں تو باادب ہو کر اپنا مقدمہ اللہ پاک کے حضور پیش کریں پھر ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، گیارہ بار درود پاک، 786 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل مکمل کریں بعد ازاں سو بار آیت (رب انی مغلوب فانتصر) اور آیت "ومن یتق الله... لکل شیء قدرا" 100 بار اور گیارہ بار درود پاک پڑھ کر فوراً سر سجدہ میں رکھ کر گڑگڑا کر رب کریم سے اپنے لئے دعا کریں۔ یہ عمل 21 ایام کریں۔ یہ حقیر آپ کو یقین دلاتا ہے کہ دین و دنیا کی کوئی بھی پریشانی آپ کا مقدر بن چکی ہے تو ان 21 ایام کے دوران ہمیشہ کیلئے دور چلی جائے گی۔ یاد رہے کہ بعد اختتام عمل اپنے پاس رکھ لیا کریں 21 یوم تک اسے کسی چمڑے یا دھات وغیرہ میں بند نہ کر دیا جائے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ			
رب انی مغلوب فانتصر			
بسم	الرحمن	اللہ	الرحیم
الرحمن	الرحیم	بسم	اللہ
الرحیم	اللہ	الرحمن	بسم
اللہ	بسم	الرحیم	الرحمن
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ			
(یہاں متعدد تحریر کریں)			

۱۹۷	۱۹۸	۱۹۹	۲۰۰
۱۹۸	۱۹۹	۲۰۰	۲۰۱
۱۹۹	۲۰۰	۲۰۱	۲۰۲
۲۰۰	۲۰۱	۲۰۲	۲۰۳


## فالنامہ چہاروہ معصومین علیہم الصلوٰۃ والسلام

اس فالنامہ کو شروع کرنے سے پہلے خیال رہے کہ آپ با وضو ہوں۔ سب سے پہلے چودہ مرتبہ ذر و محمد آل محمد پر بھیجے بعد ازاں دو مرتبہ سورہ الحمد تین مرتبہ سورہ قل هو اللہ۔ تین مرتبہ سورہ کوثر، تین مرتبہ سورہ عصر اور ایک مرتبہ سورہ قدر پڑھنے کے بعد پھر چودہ مرتبہ ذر و محمد آل محمد پر بھیجے۔ پھر نقشہ ذیل میں اپنا سوال تلاش کریں۔

### نقشہ سوالات

۱ - میری مراد پوری ہوگی یا نہیں؟	۵ - میرے ہاں اولاد ہوگی یا نہیں؟	۹ - ارادہ سز میرے لئے مبارک ہوگا یا نہیں؟
۲ - میری مالی حالت اس وقت کیسی ہے؟	۶ - مریض کو صحت ہوگی یا نہیں؟	۱۰ - میرے کاروبار اور نوکری کی کیفیت کیا ہے؟
۳ - مجھے حصول علم میں کامیابی ہوگی یا نہیں؟	۷ - میری ازدواجی زندگی یا میری اہلیہ کبھی ہوگی؟	۱۱ - جس کام کا میں نے ارادہ کیا ہے، اس میں فائدہ ہوگا یا نقصان؟
۴ - مجھے اپنے گھر کا آرام نصیب ہوگا یا نہیں؟	۸ - قرض کی ادائیگی ہوگی یا نہیں؟	۱۲ - مجھے موجودہ مشکلات میں غلبہ ہوگا یا شکست؟

### دائرہ اقدس



اپنا سوال تلاش کرنے کے بعد

یہ آیہ مبارکہ "سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ط" کا ورد کرتے ہوئے آنکھیں بند کر کے دائرہ اقدس پر انگشت شہادت رکھیں۔ جس خانے میں انگلی آئے وہاں سے خانہ معصومین کی طرف رجوع کریں۔ پس جس خانہ امام پر رجوع ختم ہو اسی امام پاک کے نقشہ جوابات میں اسی نمبر پر جواب پڑھ لیں جس نمبر کا آپ کا سوال ہے انشاء اللہ جواب صحیح ہوگا۔

حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

- ۱ - اے صاحب قال تیری مراد پوری ہوگی۔
- ۲ - زکوٰۃ دینے والے کی مالی حالت اچھی ہوگی۔
- ۳ - علم خدا کی دین ہے متقی پر ہیزگار کو ملتا ہے۔
- ۴ - جس نے صلہ رحمی کیا اس کو گھر کا سکون ملا۔
- ۵ - تیرے گھر میں ایک چراغ جلنے والا ہے۔
- ۶ - مریض کو کھلی صحت حاصل ہوگی۔
- ۷ - تیرا گھر آباد ہوگا۔
- ۸ - خدا کی نصرت سے تیرا کام جلد ہوگا۔
- ۹ - سفر وسیلہ بظفر ہے۔
- ۱۰ - خدا روزی رساں ہے۔
- ۱۱ - خیرات کر کے اسی میں برکت و منفعت ہے۔
- ۱۲ - غلبہ تمہیں ہی حاصل ہوگا۔

حضرت امام علی ابن ابی طالب

- ۱ - اگر مراد چاہتے ہو تو پوری ہوگی۔
- ۲ - جس نے خیرات نہیں کی اس کی حالت کیا اچھی ہوگی
- ۳ - جس نے علم کا شوق کیا علم اُسے حاصل ہوا
- ۴ - کاش تو بیوی بچوں کا حق پہچانتا۔
- ۵ - اے صاحب قال تو صاحب اولاد ہوگا۔
- ۶ - مریض دیر سے صحت یاب ہوگا۔
- ۷ - اے صاحب قال نیک بیوی اللہ کی رحمت ہے
- ۸ - ادا نیکی قرض میں تاخیر ہے۔
- ۹ - سفر میں رکاوٹ پیدا ہوگی۔
- ۱۰ - اللہ روزی کا سبب جلد بنائے گا۔
- ۱۱ - وہ در دنیا و ستر در آخرت۔
- ۱۲ - خدا کو یاد کر تا کہ تو غالب ہو۔

جناب سیدۃ النساء فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا

- ۱ - اپنے رب کو یاد کرو ہی تیری مراد پوری کرے گا۔
- ۲ - کبیرہ گناہوں سے اجتناب کر تا کہ زردار ہو۔
- ۳ - کچھ دین کا علم حاصل کر کہ تجھے دنیا کا علم ملے۔
- ۴ - تجھی برداشت کر تا اور گھر کا سکہ ایک ہی شے کے دو نام ہیں
- ۵ - خدا تجھے اولاد کا سکہ دے گا۔
- ۶ - مریض کو جلد صحت نصیب ہوگی۔
- ۷ - رفیقہ حیات سے مہربانی کا سلوک کر۔
- ۸ - قرض زرا دیر سے ادا ہوگا۔
- ۹ - سفر میں نقصان کا اندیشہ ہے۔
- ۱۰ - تیری روزی وطن سے دور ہے۔
- ۱۱ - دیکھو اس کام کو جلدی کرو تا کہ فائدہ ہو۔
- ۱۲ - مفاہمت ہی تیرا غلبہ ہے۔

حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام

- ۱ - صاحب قال تیری مراد اصلاً پوری ہوگی۔
- ۲ - تجھے اچانک کہیں سے مال ملے گا۔
- ۳ - علم تجھے ہرگز ہرگز حاصل نہ ہوگا۔
- ۴ - تیرا خانہ آباد ہوا چاہتا ہے۔
- ۵ - اولاد کا سکہ تیری قسمت میں نہیں ہے۔
- ۶ - مریض کو جلد صحت نصیب ہوگی۔
- ۷ - شادی خانہ آبادی میں ابھی کچھ دیر ہے۔
- ۸ - کوشش جاری رکھو۔
- ۹ - یہ سفر قطعاً منفعتم بخش نہیں۔
- ۱۰ - تیرا روزگار جلدی لگنے والا ہے۔
- ۱۱ - اس کا رو بار میں تجھے بہت نفع ہوگا۔
- ۱۲ - مفاہمت کر کہ تجھے گلست کا اندیشہ ہے۔

حضرت امام حسین علیہ السلام

- ۱ - مراد پوری ہوگی لیکن ذرا دیر سے۔
- ۲ - دولت تجھے خود کمائی پڑے گی۔
- ۳ - تیرا تعلیمی درجہ بلند ہوگا۔
- ۴ - جب کہ تو گھر میں نہ رہا تو گھر کا سکہ کیسا۔
- ۵ - اولاد تیرے لئے باعث پریشانی ہے۔
- ۶ - مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔
- ۷ - نیک بیوی کا ماننا بہت مشکل ہے۔
- ۸ - قرض محبت کی قینچی ہے۔
- ۹ - سفر دور کا ہے لیکن نفع دے گا۔
- ۱۰ - تیرا بگڑا ہوا کاروبار درست ہو۔
- ۱۱ - نفع و نقصان برابر برابر ہو۔
- ۱۲ - تجھے مقابل پر غلبہ ہوگا۔

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام

- ۱ - کسی مدد سے مراد پوری ہوگی۔
- ۲ - دولت و راحت میں ملے گی۔
- ۳ - علم کثیر حاصل ہو۔
- ۴ - گھر کا سکہ نہیں مل سکتا۔
- ۵ - اولاد ذکھ کا باعث بنے۔
- ۶ - مریض کو جلد شفا حاصل ہو۔
- ۷ - شادی ہو کر تنازعہ پیدا ہو۔
- ۸ - مشکلات ہی مشکلات ہیں۔
- ۹ - سفر قطعاً نہ ہو سکے گا۔
- ۱۰ - بگڑے ہوئے کام دیر سے درست ہوں۔
- ۱۱ - نقصان عظیم ہوگا احتیاط لازمی ہے
- ۱۲ - مقابلے میں عزت اور جان کا خطرہ ہے۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام

- ۶ - مرض معمولی ہے جلد صحت ہوگی۔
- ۷ - بیوی تلخ مزاج ملے گی۔

- ۱ - غیب سے مدد حاصل ہوگی اور کام ہو جائے گا۔
- ۲ - مال ملے لیکن جلد خرچ ہو۔
- ۳ - تعلیم ختم ہو۔
- ۴ - کسی دوسرے گھر میں آباد ہو۔
- ۵ - اولاد صالح پیدا ہو۔

- ۸ - رسوائیاں ہوگی۔
- ۹ - سفر ملک غیر کا درپیش ہو۔
- ۱۰ - ترقی کی جگہ حشری ہو۔
- ۱۱ - مچھلی زکوٰۃ ادا کر تجھے عظیم فائدہ ہو۔
- ۱۲ - ایک مقدمہ باعث پریشانی ہو۔

حضرت امام علی رضاعلیہ السلام

- ۱ - نیک مراد پوری ہوگی۔
- ۲ - غیب سے خزانہ ملے۔
- ۳ - علم و حکمت میں یکتائے زمانہ ہو۔
- ۴ - گھر میں امن پیدا ہونے میں ابھی کچھ دیر ہے۔
- ۵ - صاحب نصیب فرزند پیدا ہو۔
- ۶ - مریض علاج روحانی سے صحت یاب ہوگا۔
- ۷ - قسمت والی زوجہ ملے گی۔
- ۸ - بہت مشکل ہے۔
- ۹ - سفر میں کوئی بڑا آدمی ملاقاتی ہو۔
- ۱۰ - کاروبار بنے اور عزت حاصل ہو۔
- ۱۱ - یہ کام نفع کا ہے جلدی کرو۔
- ۱۲ - غلبہ صاحب قال کو ہوگا۔

حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام

- ۱ - شکر خوردے کو شکر مل جاتی ہے۔
- ۲ - مال و دولت کثیر ملے گی۔
- ۳ - خدا تجھے عالم باعمل بنائے گا۔
- ۴ - گھر والوں کی محبت ہی گھر کا سنگھ ہے۔
- ۵ - اولاد تیرا نام روشن کرے گی۔
- ۶ - صدقہ و خیرات کر کہ تجھے صحت ہو۔
- ۷ - دائم المریض رقیقہ حیات ملے گی۔
- ۸ - قرض میں اضافہ ہو۔
- ۹ - سفر میں حصول قدر و مال ہو۔
- ۱۰ - ترقی میں ابھی ذرا دیر ہے۔
- ۱۱ - شرکت میں تجھے نقصان ہوگا۔
- ۱۲ - قرآن تجھے مغلوب بنا نہیں گے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام

- ۱ - مراد پوری نہیں ہو سکتی۔
- ۲ - مال باعث اتلا ہو۔
- ۳ - حصول علم میں مشکل واقع ہو۔
- ۴ - گھر کا سنگھ کسی عدو نے جانے خراب کیا ہے۔
- ۵ - اولاد حمل میں متاثر ہو۔
- ۶ - غلط علاج مریض کی جان لے گا۔
- ۷ - بیوی صاحب نصیب ہوگی۔
- ۸ - قرض کی خاطر جان جانے کا اندیشہ ہے۔
- ۹ - سفر میں چند رکاوٹیں ہوگی۔
- ۱۰ - ترقی رفقائے نزدیک جائے گی۔
- ۱۱ - تیرے لئے شراکت میں فائدہ ہے۔
- ۱۲ - مصیبت میں اور اضافہ ہو۔

حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام

- ۱ - مراد سند مبارک ہو کہ تیری مراد مقرب پوری ہو۔
- ۲ - مالی معاملات میں پریشانیاں جلد دور ہوں۔
- ۳ - صاحب قال کے علمی مدارج میں ترقی ہوگی۔
- ۴ - گھر میں امن چین رہے گا۔
- ۵ - اولاد تمہاری قسمت میں نہیں ہے۔
- ۶ - مریض کو طبیب روحانی سے صحت ملے گی۔
- ۷ - یہ شادی خاندان آبادی نہ ہوگی۔
- ۸ - کوششیں بار آور ہوں گی۔
- ۹ - سفر نمونہ سفر در پیش ہوگا۔
- ۱۰ - کارگزاری صدابہ صحرا ثابت ہوگی۔
- ۱۱ - اس بیوپار میں خوب نفع حاصل ہوگا۔
- ۱۲ - اس مہم میں فتح صاحب مال کی ہے۔

حضرت امام علی نقی علیہ السلام

- ۱ - محمود آل محمد مرادوں کے پورے کرنے والے ہیں۔
- ۲ - دولت دنیا اندازہ سے زیادہ ملے گی۔
- ۳ - کوشش کرو کہ دنیاوی علوم حاصل ہوں۔
- ۴ - ماں کو خوش کر کہ تیرا گھر آباد ہو۔
- ۵ - اولاد پیدا نہیں ہو سکتی۔
- ۶ - مرض جلد دور ہو جائے گا۔
- ۷ - زوج مریض و منحوس ہو۔
- ۸ - کوششوں میں کامیابی حاصل ہو۔
- ۹ - سفر یا لامرادہ ترک ہو۔
- ۱۰ - کاروبار میں ترقی ہو۔
- ۱۱ - نفع نقصان سے زیادہ ہو۔
- ۱۲ - ابھی مقدمہ جیتنے میں دیر ہے۔

حضرت امام محمد تقی علیہ السلام

- ۱ - اللہ تیری سب مرادیں پوری کرے گا۔
- ۲ - دولت جیسی آدے دیکھی جاوے۔
- ۳ - صرف دینی علم حاصل ہو۔
- ۴ - گھر کا سنگھ کسی کی مدد سے ملے گا۔
- ۵ - خوش نصیب بیٹی پیدا ہوگی۔
- ۶ - مریض چند دن کا مہمان ہے۔
- ۷ - زوجہ صاحب جائداد ہو۔
- ۸ - کوششیں رایگان جائیں گی۔
- ۹ - سفر زک نہیں سکتا۔
- ۱۰ - کاروبار ختم ہو کر عزت میں فرق آئے۔
- ۱۱ - اس میں نقصان ہوگا۔
- ۱۲ - تم یہ مقدمہ جیتو گے۔

- ۸ - کوششیں دیر سے کوئی نتیجہ برآء نہ کریں گی۔
- ۹ - سفر میں رکاوٹ ہوگی اور یہ اچھا ہے۔
- ۱۰ - خدا پر دھیان رکھو وہ مسبب الاسباب ہے۔
- ۱۱ - کسی کی بدبختی سے اس کام میں نقصان ہوگا۔
- ۱۲ - فتح حاصل ہوگی۔

حضرت امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام

- ۶ - مریض کو صحت یاب ہونے میں ابھی دیر ہے۔
- ۷ - یہ شادی خاندان آبادی ہے۔

- ۱ - تمہاری مراد کسی صنف نازک سے پوری ہو۔
- ۲ - مال و دولت خوب ہاتھ آئے۔
- ۳ - علوم روحانی و طبی میں ترقی ہو۔
- ۴ - گھر میں امن حاصل نہ ہو سکے گا۔
- ۵ - اولاد کثیر ہوگی۔



## احکامات ایام ہفتہ

**ہفتہ** شنبہ کی شب میں غذا ترک نہیں کرنی چاہیے۔ جناب امام صادق آل محمد سے روایت ہے کہ جو شخص شنبہ یعنی ہفتہ اور یک شنبہ یعنی اتوار کی شب میں ہیکم غذا کو ترک کرے تو اس سے ایک ایسی قوت زائل ہو جاتی ہے جو 40 دن تک واپس نہیں آتی۔

**ایام** یک شنبہ کا دن اکثر کاموں کے لیے میانہ ہے لیکن مکان بنانے، درخت لگانے، کھیت میں بیج ڈالنے یا کھیت کو تیار کرنے کے لیے خوب ہے۔ دو شنبہ کا دن ایام ہفتہ میں اس بنا پر نمونہ ترین دن ہے کہ اس روز جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے رحلت فرمائی اور شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد دشمنوں نے اسی دن کو عید قرار دیا جو شخص اس دن کی تسبیح سے محفوظ رہنا چاہے اسے چاہیے کہ نماز صبح کے بعد سورہ ہل آتی کی تلاوت کرے۔

**منگل** سہ شنبہ کا دن طلب حاجت کے لیے خوب ہے اسی دن حضرت داؤد علیہ السلام کے واسطے لوہے کو نرم کر دیا۔ اس دن لباس قطع کرنا نمونہ سے ایسے کپڑے عموماً چوری ہو جاتے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ منگل کو قطع کیا ہو لباس پہننے والا اس لباس میں دریا یا سمند میں ڈوبے گا۔

**پہنچا** چہار شنبہ کا دن کسی بھی نئے کام کی ابتدا کرنے کے لیے خوب ہے اس دن درخت کی قلم لگانا، جسم سے فاضل اور فاسد خون نکلوانے کے لیے جو تک / شاخ لگوانا یا بلڈ بنک کو خون کا عطیہ دینا، مسہل لینا اور حمام جانا خوب ہے۔

**جمعرات** پینچ شنبہ کا دن خط بنوانے، بال کٹوانے، ناخن کاٹنے اور نیا کپڑا قطع کرنے کے لیے بہت خوب ہے بعض روایات میں ہے کہ اس روز بیمار اگر دو ترک کر دے تو شفا یاب ہوتا ہے اس روز قبور مومنین پر جا کر فاتحہ خوانی کرنے کا بڑا ثواب ہے۔

**جمعہ** حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ شب جمعہ اور جمعہ کے روز صدقہ دینا ہزار صدقہ کے برابر ہے اور محمد و آل محمد پر درود بھیجنا ہزار گنا ثواب کا باعث ہوتا ہے۔ جمعہ کو مسجد جانا اور نماز ادا کرنا بھی ثواب کثیر کا موجب ہوتا ہے۔ نماز جمعہ سے قبل ستر کرنا مکروہ ہے۔

**آیت الکرسی** کو وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک جو شخص اپنے نام کے اعداد کے مطابق 40 روز پڑھے۔ اول و آخر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے تو رزق کے بند دروازے کھل جائیں گے۔ بزرگ علماء کا آزمودہ ہے۔

## تقویش ایام ہفتہ

از حضرت امام زین العابدین علیہ السلام

روزانہ کئے کے تقویش بروز اتوار

روز	تقویش	روز پیر	روز جمعہ	روز منگل	روز جمعرات
۱	۱۱۹۱	۸	۱۸۱	۱	۱۸۱
۲	۲	۱۴۳	۸	۱۸۱	۱۸۱
۳	۱۸۶	۱۰۲	۱۸۱	۱۸۱	۱۸۱
۴	۱۸۱	۱۰۲	۱۸۱	۱۸۱	۱۸۱
۵	۱۸۱	۱۰۲	۱۸۱	۱۸۱	۱۸۱
۶	۱۸۱	۱۰۲	۱۸۱	۱۸۱	۱۸۱
۷	۱۸۱	۱۰۲	۱۸۱	۱۸۱	۱۸۱

روز منگل

روز	تقویش	روز جمعہ	روز منگل	روز جمعرات
۱	۱۸۱	۱۸۱	۱۸۱	۱۸۱
۲	۱۸۱	۱۸۱	۱۸۱	۱۸۱
۳	۱۸۱	۱۸۱	۱۸۱	۱۸۱
۴	۱۸۱	۱۸۱	۱۸۱	۱۸۱
۵	۱۸۱	۱۸۱	۱۸۱	۱۸۱
۶	۱۸۱	۱۸۱	۱۸۱	۱۸۱
۷	۱۸۱	۱۸۱	۱۸۱	۱۸۱

روز جمعہ

روز	تقویش	روز جمعہ	روز منگل	روز جمعرات
۱	۱۸۱	۱۸۱	۱۸۱	۱۸۱
۲	۱۸۱	۱۸۱	۱۸۱	۱۸۱
۳	۱۸۱	۱۸۱	۱۸۱	۱۸۱
۴	۱۸۱	۱۸۱	۱۸۱	۱۸۱
۵	۱۸۱	۱۸۱	۱۸۱	۱۸۱
۶	۱۸۱	۱۸۱	۱۸۱	۱۸۱
۷	۱۸۱	۱۸۱	۱۸۱	۱۸۱

روز ہفتہ

روز	تقویش	روز جمعہ	روز منگل	روز جمعرات
۱	۱۸۱	۱۸۱	۱۸۱	۱۸۱
۲	۱۸۱	۱۸۱	۱۸۱	۱۸۱
۳	۱۸۱	۱۸۱	۱۸۱	۱۸۱
۴	۱۸۱	۱۸۱	۱۸۱	۱۸۱
۵	۱۸۱	۱۸۱	۱۸۱	۱۸۱
۶	۱۸۱	۱۸۱	۱۸۱	۱۸۱
۷	۱۸۱	۱۸۱	۱۸۱	۱۸۱

650/-	(علامہ نصیر احمد جہاد)	سیرت محمد
800/-	(ڈاکٹر علی قاسمی)	علی کی بیٹی
700/-	(عبدالحق اسد زئی)	ارجح الطالب
300/-	(علامہ علی نقی)	شہدائے کربلا
400/-	(نجم الحسن کراچی)	مخار آل محمد
350/-	(نجم الحسن کراچی)	ذکر العباس
350/-	(عزاد ارتضوی)	قصص الانبیاء وآئمه
(زیر طبع)	(علی اکوٹانی)	مصرطہ (قیامت کی پیشگوئیاں)
250/-	(مقدس اردبیلی)	انوار امامت تا قیامت
700/-	(نجم الحسن کراچی)	تاریخ اسلام
450/-	(مظلومہ کربلا)	علی کی بیٹی (مظلومہ کربلا)
300/-	(جشن افضل حیدر)	حسین ابن علی (جشن افضل حیدر)
400/-	(علامہ علی نقی)	تاریخ اسلام
300/-	(جشن افضل حیدر)	ذکر قاطمہ (جشن افضل حیدر)
1200/-	جلدیں 2	تاریخ یعقوبی
3000/-	(آغا امیر حسین)	تاریخ میں سفر
480/-	(مولانا حسین محمد جعفری)	تاریخ تشیع
400/-	(ہاشم معروف حسنی)	تاریخ فقہ جعفری
5500/-	(۱۴ جلدیں)	تاریخ ابن خلدون
5000/-	(۷ جلدیں)	تاریخ طبری
550/-	مولانا محمد بخش قریشی	تاریخ نبی پاکدامن مولانا محمد بخش قریشی
2900/-	(۳ جلدیں)	تاریخ طبقات ابن سعد
2000/-	جلدیں ۲	تاریخ قریشہ
6000/-	(۹ جلدیں)	تاریخ ابن کثیر
550/-	(جلال الدین سیوطی)	تاریخ الخلفاء
500/-	(تالیف: علامہ رائے ظفر علی)	المائدہ
1500/-	(۵ جلدیں)	پندرہ تاریخ (موسیٰ خسروی)
500/-	(مولانا صفدر حسین)	انتخاب طبری
450/-	(برق سوزاں)	الصواعق المحرقة

**خطبات - احادیث**

1800/-	(خطبات رسول اکرم)	نسخ الفصاحت
900/-, 700/-	(مفتی جعفر حسین)	نسخ البیانہ

**فہرست اسلامی کتب 2019-2020**  
**ملنے کا پتہ:** Iftikhar Book Depot (رجسٹرڈ) اسلام پورہ لاہور 042-37223686  
**نوٹ:** کتاب کی اصل قیمت وہی ہوگی جو آڈر سہائی کے وقت مارکیٹ میں ہوگی۔ آڈر کی مکمل رقم مع ڈاک خرچ بذریعہ منی آڈر یا بینک ڈرافٹ روانہ کریں۔ یا وہی منگوانے کے لئے 1/2 رقم پیشگی روانہ کریں۔ اپنا پتہ SMS کریں۔  
 Email: iftikharbookdepot@gmail.com, web: www.iftikharbookdepot.com

نور القرآن	قرآنی تہوں کے ساتھ، منظرہ و باہارہ ترجمہ (تدوین مولانا یوسف عقیقین) 3 جلد فی جلد 1500/-
ظہور القرآن	(4 ترجمے) 600/-
قرآن پاک	(ترجمہ مولانا تظہیر حسین) 1200/-
<b>سوانح سیرت - تواریخ</b>	
سیرت امیر المومنین	(مفتی جعفر حسین) 1020/-
سیرت النبی	(7 جلدیں) (شبلی نعمانی) 2500/-
سیرت رسول	4 جلدیں (مولانا ظفر حسن) 1250/-
سپر مین ان اسلام	(تحقیق 25 مصنفین) 500/-
سیرت النبی	(ابن ہشام) 1200/-
سیرت مصطفیٰ	(ہاشم معروف حسنی) 500/-
سیرت النبی	(آقائے جعفر سبحانی) 700/-
سیرت سید الشہداء	(امام الدین ابن سنی) 1000/-
تذکرۃ الاطہار	(شیخ مفید) 600/-
احسن المقال	(شیخ عباس قمی) اول 800/-
احسن المقال	(شیخ عباس قمی) دوم 800/-
تاریخ القرآن	(ترجمہ سید انوار بگلہاری) 650/-
سیرت ائمہ اہل بیت	(ہاشم معروف) 2 جلدیں 1450/-
فتوح عصمت	(علامہ ذیشان جواد) 700/-
کوکب ذری فی فضائل علی	(اہل سنت مصنف) 550/-
الصراط السوی فی احوال مہدی	550/-
ملاقات امام	(مولانا سید محمد مجتہد) 450/-
ملاقات با امام زمان	(حسن الہدی) 2 جلد 750/-
مجمع الفضائل	(مناقب شہر آشوب) 950/-
بحار الانوار	(علامہ مجلسی) ۱۲ جلدیں 5000/-
الفاروق	(شبلی نعمانی) 420/-
سیرۃ قاطمہ الزہراء	(آقا سلطان مرزا) 400/-

**قرآن مجید مترجم و تفاسیر**

قرآن مجید مترجم مولانا فرمان علی، علامہ ذیشان جواد	مولانا شیخ محسن علی نجفی، علامہ علی نقی، مختلف کاغذ و پائیزنگ۔ مطبوعہ عمران کمپنی، چاند کمپنی، مصباح القرآن
ثاقب کمپنی، نیاز کمپنی قرآن مجید معرا و سپارہ سیٹ	پاک کمپنی، سپاند کمپنی، تاج کمپنی، قدرت اللہ کمپنی، عمران کمپنی
تفسیر القرآن:	از مولانا ظفر حسن امرہوی 5 جلدیں 2000/-
تفسیر نمونہ 15 جلدیں فی جلد 700/-	سیٹ 10500/-
تفسیر عمدۃ البیان 5 جلدیں	3000/-
تفسیر فصل الخطاب (علامہ علی نقی) 3 جلدیں	3000/-
پیام قرآن (مکارم شیرازی) 10 جلد	5000/-
تفسیر موضوعی (جعفر سبحانی) 12 جلد	4500/-
میزان الکلمت 8 جلد کلاں (محمد ری شہری)	5000/-
تفسیر نور التقلین (9 جلدیں فی جلد)	700/-
تفسیر صافی، (فیض کاشانی) 7 جلدیں	4750/-
المیزان (آیت اللہ طباطبائی) 5 جلدیں	6000/-
قرآن مجید کا پیام رحمت (آیت اللہ اکبر جعفری)	600/-
تعلیم القرآن (مولانا ظہیر حسن زیدی)	800/-
تفسیر الکلیذ (شیخ محسن نجفی) 10 جلدیں	7000/-
قصص القرآن (مولانا ظفر حسن امرہوی)	700/-
مجمع الایات (مولانا ظفر حسن امرہوی)	700/-
تفسیر انوار الہدیت (علامہ حسین بخش جاڑا) زیر طبع 15 جلدیں	
تفسیر القرآن (مولانا مودودی) 6 جلدیں	4300/-
قصص القرآن (علامہ محمدی اشہارودی)	600/-
نور القرآن (قرآنی تہوں کے ساتھ سپارہ سیٹ)	4500/-
تفسیر ابن کثیر (5 جلدیں)	4400/-
قرآن پاک (ترجمہ مولانا رضی جعفر)	1500/-
الرجحان فی تفسیر القرآن (2 جلدیں)	1800/-

Official By Iftikhar Book Depot . Download from Googleplay-105playstore



آسان آیت الہدیٰ	تصانیف علامہ تطہیر زینبی	تصانیف علامہ ضحیٰ اختر نقوی کی تصانیف	تصانیف علامہ ضحیٰ اختر نقوی کی تصانیف
☆ زندگانی حضرت زینب الزہراء سلام اللہ علیہا 180/-	☆ خدا انسانیت 175/- ☆ تعلیم الاخلاق 600/-	☆ ریاض الاحزان آقائے قزوینی (زیر طبع)	☆ قلب قرآن از آیت اللہ مستطیب 225/-
☆ سید الشہداء 225/- ☆ مہدی موعود 150/-	☆ راہ ہدایت 500/- ☆ اوصاف الہی 200/-	☆ انوار زہراء آقائے حسن اہلی 450/-	☆ قلب قرآن 225/- ☆ درس اخلاق 150/-
☆ عرش جنت 500/- ☆ سورہ حجرات 275/-	☆ عالم بحیب ارواح آقائے حسن اہلی 400/-	☆ عالم بحیب ارواح آقائے حسن اہلی 400/-	☆ قلب قرآن 225/- ☆ درس اخلاق 150/-
☆ کتابان کبیرہ (جلد 2) 1500/- ☆ معارف 150/-	☆ ایمان ابوطالب دوسرا 900/- ☆ روشہ الشہداء 800/-	☆ عظمت ابو طالب 250/- ☆ تاریخ شہادت 200/-	☆ عظمت ابو طالب 250/- ☆ تاریخ شہادت 200/-
☆ زندگانی حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا 450/-	☆ شہید امین شہید (2 جلد) 800/-	☆ اسلام پر حضرت علی کے احسانات 250/-	☆ اسلام پر حضرت علی کے احسانات 250/-
☆ ولایت 300/- ☆ نساخ 200/-	☆ مشکل کشا 900/- ☆ بقول 380/-	☆ علم زندگی ہے 300/- ☆ شہزادہ علی اصغر 800/-	☆ علم زندگی ہے 300/- ☆ شہزادہ علی اصغر 800/-
☆ تفسیر سورہ حدید 235/- ☆ توبہ 70/-	☆ مولانا فرمان علی نجفی	☆ حیات طیبہ حضرت علی اکبر (رحمۃ اللہ علیہ) 2000/-	☆ حیات طیبہ حضرت علی اکبر (رحمۃ اللہ علیہ) 2000/-
☆ امامت 75/- ☆ معراج 350/-	☆ ازدواجی زندگی کا اسلوب 450/-	☆ زیارت ناحیہ مقدسہ 150/-	☆ زیارت ناحیہ مقدسہ 150/-
☆ مشکوٰۃ اول 300/- ☆ مشکوٰۃ دوم 450/-	☆ قطرے سے گہر ہونے تک 345/-	☆ حضرت نقیل 300/- ☆ اصحاب امیر المومنین 800/-	☆ حضرت نقیل 300/- ☆ اصحاب امیر المومنین 800/-
☆ استعاذ 120/- ☆ توحید 250/-	☆ ایف تک نہ کہو 300/-	☆ حضرت بیٹم تمہارا 400/-	☆ حضرت بیٹم تمہارا 400/-
☆ ہدیہ الشہید 750/- ☆ گمراہی جنت 500/-	☆ مصیبتات ولی العصر ترست	☆ حیات امام حسین 300/-	☆ حیات امام حسین 300/-
☆ جواب حاضر ہے 400/- ☆ قلب سلیم (2 حصے) 1500/-	☆ عزاداری از دید گاہ مرحمت (زیر طبع)	☆ دو ہزار صدی کی کہانی 300/-	☆ دو ہزار صدی کی کہانی 300/-
☆ کتب آقائے خمینی	☆ معالی السطین 2 جلدیں 1350/-	☆ معصومین کا علم لسانیات 300/-	☆ معصومین کا علم لسانیات 300/-
☆ شرح چہل حدیث 900/- ☆ شرح جنود مسل و چہل 900/-	☆ مہدی فی القرآن از آقائے صادق حسن 225/-	☆ سیرت معصومین 300/- ☆ اوج ضمیر 300/-	☆ سیرت معصومین 300/- ☆ اوج ضمیر 300/-
☆ انسان کی شناخت 900/- ☆ عدل الہی 450/-	☆ مہدی موعود آیت اللہ مستطیب 150/-	☆ ذوالجہان (انگریزی) 250/-	☆ ذوالجہان (انگریزی) 250/-
☆ تعلیم و تربیت 900/- ☆ آداب الصلوٰۃ 900/-	☆ صحیح الاحزان از آقائے محمد علی بزدی 300/-	☆ میر انیس کی شاعری میں رنگوں کا استعمال 300/-	☆ میر انیس کی شاعری میں رنگوں کا استعمال 300/-
☆ کتب آقائے بہجت	☆ مصلح نبوی از آقائے حسن اہلی 300/-	☆ اردو فہرست اور کربلا 200/- ☆ ضمیر حیات 1000/-	☆ اردو فہرست اور کربلا 200/- ☆ ضمیر حیات 1000/-
☆ رحمت واسع 300/- ☆ منادی توحید 300/-	☆ رسالہ السطین (فہرست و معارف) 2 جلدیں 1350/-	☆ انیس خطابت 300/- ☆ حضرت خلیفہ 800/-	☆ انیس خطابت 300/- ☆ حضرت خلیفہ 800/-
☆ گوہر حکیمانہ 300/- ☆ نصیحتیں 300/-	☆ سید الشہداء از آیت اللہ مستطیب 225/-	☆ اصحاب حسین 800/- ☆ خمیرہ سادات 300/-	☆ اصحاب حسین 800/- ☆ خمیرہ سادات 300/-
☆ عرفان بہجت 300/- ☆ آئینہ حقیقت 300/-	☆ پرواز روح آقائے حسن اہلی 300/-	☆ مجرورہ اور قرآن 300/- ☆ عظمت صحابہ 200/-	☆ مجرورہ اور قرآن 300/- ☆ عظمت صحابہ 200/-
☆ درمختصر بہجت اول 300/- دوم 300/-	☆ جزیرہ حضرت خضراء نکات حالات ثلاث برمودا 450/-	☆ امام اور امت 200/- ☆ الامت علی 300/-	☆ امام اور امت 200/- ☆ الامت علی 300/-
☆ کتب البراہیم انسی	☆ ریاض القدس (فضائل و معارف) 2 جلدیں 1650/-	☆ حضرت علی میدان جنگ میں 300/-	☆ حضرت علی میدان جنگ میں 300/-
☆ اسلام کی مثالی خاتون 300/- ☆ آئین تربیت 300/-	☆ المدد اکسا کہ (فضائل و معارف) 2 جلدیں 1500/-	☆ احسان اور ایمان 200/- ☆ حضرت جعفر طیار 300/-	☆ احسان اور ایمان 200/- ☆ حضرت جعفر طیار 300/-
☆ خود سازی 300/- ☆ خاندان کا اخلاق 300/-	☆ المدد اکسا کہ (فضائل و معارف) جلد نمبر 3 450/-	☆ سیرۃ فاطمہ الزہراء (رقمیں) 700/-	☆ سیرۃ فاطمہ الزہراء (رقمیں) 700/-
☆ تصانیف علامہ سید ارتضیٰ عباس نقوی	☆ مسراج الجنت 4 کے حصے پر مجالس 400/-	☆ شہزادہ قاسم کی مہندی 500/- ☆ حضرت ام المومنین 400/-	☆ شہزادہ قاسم کی مہندی 500/- ☆ حضرت ام المومنین 400/-
☆ تاریخ کربلا علی 1000/- ☆ شہزادہ عبدالعظیم 300/-	☆ نفس المہوم از شیخ عباس نقوی 700/-	☆ عظمت امام جعفر صادق 200/- ☆ تاریخ شہادت 200/-	☆ عظمت امام جعفر صادق 200/- ☆ تاریخ شہادت 200/-
☆ خلافت انس و موسیٰ 1000/- ☆ تاریخ ذوالفقار 500/-	☆ انوار نور 5 کے حصے پر مجالس 550/-	☆ عظمت حضرت زینب 200/- ☆ امام اور امت 200/-	☆ عظمت حضرت زینب 200/- ☆ امام اور امت 200/-
☆ عون و حمہ 400/- ☆ زندگانی شہزادی ام کلثوم 400/-	☆ علی فی القرآن (از آقائے صادق شیرازی) 450/-	☆ قم امام حسین اور عزاداروں کی شفاعت 200/-	☆ قم امام حسین اور عزاداروں کی شفاعت 200/-
☆ زندگانی سید سجاد 1000/- ☆ تاریخ مشہد مقدس 500/-	☆ بہجت یا حکومت اہلبیت رسول 450/-	☆ امام حسن علیہ السلام کی فتح 200/-	☆ امام حسن علیہ السلام کی فتح 200/-
☆ تاریخ نجف اشرف 550/- ☆ تاریخ کاظمین 250/-	☆ شہادت بہ امام زمان آقائے حسن اہلی 2 جلد 750/-	☆ ذوالجہان 600/- ☆ علو امام مہدی 200/-	☆ ذوالجہان 600/- ☆ علو امام مہدی 200/-
☆ آقا سدر شامانی (مرحوم) کا کلام	☆ منقولہ مکر بلانی تاریخ زینب کبریٰ (رحمۃ اللہ علیہا) 450/-	☆ شہید علماے حق (حالات زندگی) 200/-	☆ شہید علماے حق (حالات زندگی) 200/-
☆ کیف تم 60/- ☆ منظوم جملے 50/-	☆ زندگانی حضرت فاطمہ از آیت اللہ مستطیب 450/-	☆ شعرائے آرزو اور عشق علی 500/-	☆ شعرائے آرزو اور عشق علی 500/-
☆ معراج سخن 40/- ☆ لب کوثر 30/-	☆ زندگانی حضرت زینب از آیت اللہ مستطیب 180/-	☆ معصوموں کا ستارہ شہزادہ علی اصغر 300/-	☆ معصوموں کا ستارہ شہزادہ علی اصغر 300/-

Imamia Jantri Official By Iftikhar Book Depot . Download from Googleplay-105playstore

کتاب حدیث خواتین (مجالس)	تصانیف اکثر مفسرین شریعتی	600/- (جلد 2)	لبنات اور اہل مرثیہ نگاری
900/-	300/- مسلمان عورت	400/-	ہذا میرا نہیں محبت ماہر حیوانات
1400/-	100/-	500/-	ہذا شہزادہ قاسم اول 500/-
500/-	30/-	300/-	ہذا حضرت شہر بانو 400/-
500/-	30/-	500/-	ہذا میرا نہیں (انگریزی)
250/-	200/-	300/-	ہذا دوس دن اور دس راتیں
2000/-	120/-	2000/-	ہذا حضرت علی اکبر (رحمتم آرت بھی)
1050/-	500/-	300/-	ہذا حسین معاشرہ اور تاریخ انبیاء
400/-	450/-	600/-	ہذا حضرت خدیجہ الکبریٰ
120/-	1000/-	300/-	ہذا نقدک قانون کی روشنی میں
225/-	300/-	300/-	ہذا حیات حضرت عباس 300/-
120/-	200/-	200/-	ہذا شہزادی زینب کبریٰ اور تاریخ شام
1600/-	250/-	300/-	ہذا تو اوم عالم اور عزاداری حسین
265/-	250/-	1500/-	ہذا معراج خطابت 5 حصے
265/-	250/-	300/-	ہذا سلطان حسین کا انہام 250/-
700/-	300/-	200/-	ہذا حضرت ام کلثوم 600/-
600/-	2000/-	2000/-	ہذا حیات طیبہ شہزادی زینب (رحمتم آرت بھی)
400/-	260/-	700/-	ہذا قرآن کی قسمیں 250/-
250/-	100/-	300/-	ہذا احساس (علمی ادبی مضامین)
275/-	260/-	500/-	ہذا اردو مرثیہ پاکستان میں
450/-	480/-	500/-	ہذا خاندان میرا نہیں کے نامور شعرا
200/-	500/-	300/-	ہذا شاعر اعظم میرا نہیں 500/-
200/-	500/-	300/-	ہذا معرفت الہی اور سیرت مصومین
200/-	900/-	300/-	ہذا علمی وارث انبیاء 300/-
185/-	212/-	300/-	ہذا عورت اور اسلام 300/-
500/-	250/-	2000/-	ہذا مجالس (آیت اللہ سیستانی)
550/-	60/-	150/-	ہذا حسین وارث انبیاء 200/-
250/-	12/-	90/-	ہذا اسلام کے دو چہرے 150/-
500/-	450/-	225/-	ہذا تاریخ اسلام 150/-
500/-	450/-	135/-	ہذا مقام شہادت اور انسان
500/-	450/-	145/-	ہذا ولایت حق اور امام حسین 135/-
500/-	450/-	145/-	ہذا حسن اختیار 135/-
500/-	450/-	160/-	ہذا ولایت عقلی 165/-
1000/-	450/-	175/-	ہذا مجالس الفروی 140/-

تاریخ علامہ حسن ظفر نقوی	مطبوعات آفتاب پبلس کیشمنٹ لاہور	سوزہ خوانی، مرثیے
علم معصوم - 200/- امامت و ملوکیت - 200/-	بہ شراخ الاسلام ترجمہ جامع انگریزی - 1000/-	☆ بستہ (سید اختر) عام کاغذ - 600/- آرٹ پیپر - 800/-
☆ امیر مختار - 200/- امیر مختار (انگریزی) - 200/-	☆ شمراۃ العیات 2 جلدیں - 1200/-	☆ عرفان نم - 350/- خون جگر - 60/-
☆ امامت و ملوکیت (انگریزی) غزوات رسول - 300/-	☆ عروج السعادة ترجمہ معراج السعادة - 700/-	☆ شمشیر غم اول دوئم - 750/-
☆ سیرت امام زین العابدین - 200/-	☆ راج المطالب سیرت مولائے کائنات - 700/-	☆ توریم اول - 275/- دوئم - 325/-
☆ تاریخ کعبہ - 250/- تاریخ کعبہ (انگریزی) - 250/-	☆ اتصال (انگش) - 1000/-	☆ نوائے غم (قیر زمین قیر شہدی) - 250/-
☆ حکمرانوں کی صفات - 200/- کربلا بعد کربلا - 200/-	☆ ہلال ارشاد (انگش) - 600/-	☆ جوش کے مرھے - 200/- چشم غم - 250/-
☆ امامت و امامت حسن و حسین (انگریزی) (البران)	☆ صبح الفصاحت (انگش) - 500/-	☆ اسی غم - 120/- نوائے کربلا - 250/-
☆ موج البرکاء - 350/- صراط مستقیم - 200/-	☆ ہفتونکاف الابرار (انگش) - 350/-	☆ بیاض علی مصدر (2 جلدیں) - 450/-
☆ ہادی اور ہدایت - 150/- مجالس حسینہ - 250/-	☆ منتخب منافع (انگش) - 550/-	☆ جواہر انیس - 600/- جواہر دہر - 600/-
☆ شیطان کی پہچان - 250/- راس الحسین - 250/-	☆ مجرب تعویذات و عملیات - 300/-	☆ ایک آنسو میں کربلا اول - 250/- دوئم - 300/- سوئم - 300/-
☆ ہداسم مقدس امیر المؤمنین - 450/-	☆ تمام مشکات کا عمل قرآن سے - 250/-	☆ سوز غم - 200/- انیس کے مرھے (تاریخ نوار) - 200/-
☆ تاریخ علامہ صادق حسن	☆ غرر الحکم (اقوال مولانا علی) - 1200/-	☆ محشر خاموش (انگریزی) کا مجموعہ (کلام) - 200/-
☆ قبر میں کام آنے والی نیکیاں - 200/-	☆ Essense of Shia faith - 700/-	☆ نسیم امروہی کے مرھے (مرتبہ ہلال نقوی) - 800/-
☆ ولایت اہلبیت اور اسکے تقاضے - 450/-	☆ جمال حدیث - 700/- تہذیب نفس - 600/-	☆ جوش کے انقلابی مرھے - 800/-
☆ معرفت اسلام اور اسکے تقاضے - 135/-	☆ گفتار تثنیہ - 300/- آداب اسلامی - 450/-	☆ بیاض تسکین زنب اول - 125/- دوئم - 125/-
☆ امام زمانہ اور ہمارا کردار - 200/- تربیت اولاد - 300/-	☆ انیس (علامہ علی) - 300/-	☆ بزم رشا (بزم آفندی کے مرھے) - 500/-
☆ کربلا، امام زمانہ اور ہماری ذمہ داریاں - 250/-	☆ مطبوعات بنیام وحدت اسلامی کواچی	☆ ریشالی ادب - 1500/- ہلال نقوی کے مرھے - 200/-
☆ فلسفہ زیارت اور مقام زائر - 200/-	☆ گھر کو جنت بنانے کے چودہ نسخے - 90/-	☆ سامان شفاعت - 200/- غم چادواں - 200/-
☆ ہجرت کی نفس - 300/- غدیری اسلام - 300/-	☆ جہاد و تہذیب پر اعتراضات کا تجزیہ - 120/-	☆ شمشیر غم اول - 350/- جلد دوم - 400/-
☆ حسین شہید ولایت - 300/- نبی کی نبی - 300/-	☆ ہجویت نامہ کیسے لکھا جائے - 120/-	☆ مرھے کی تایاب آوازیں (ہلال نقوی) - 400/-
☆ تاریخ علامہ حسن ظفر نقوی	☆ طول عمر اور وسعت رزق کے سوچے سمجھے نسخے - 100/-	☆ نوائے فرات - 150/- ہلال ماں (مرھے) - 150/-
☆ زیارت وارث - 300/- اختیار ید اللہ - 300/-	☆ کردار سازی اول - 60/- ☆ کردار سازی دوئم - 60/-	☆ مرزا دبیر کے مرھے زندگی و شاعری - 800/-
☆ معرفت محمد و آل محمد - 300/-	☆ معرفت امام زمانہ - 45/- ☆ آئینہ - 60/-	☆ سوز کربلا 2 جلدیں - 650/-
☆ اللہ کیا ہے 14 معصومین کیا ہیں - 200/-	☆ نبی اللہ کی رحمت - 50/- ☆ ثواب و نسو - 45/-	☆ ہارم مخان نسیم (مرھے) - 650/-
☆ شاعر اہلبیت ظاہر ناصر علی کا کلام	☆ امراض روحانی - 45/- ☆ روتی - 75/-	☆ حروف ناطق (شاعر آل مران) - 150/-
☆ نماز عشق (نعت، منقبت و سلام) - 300/-	☆ ہونیا و آخرت کی 100 پریشانیوں کا عمل - 150/-	☆ نوائے نجف (ریحان اعظمی) - 300/-
☆ تذرخن - 200/- ☆ کتب سلونی - 200/-	☆ مجموعہ میرے مرنے کے کام یہ ہیں کرنے کے - 60/-	☆ سند اعتبار (مجموعہ نعت، منقبت و سلام) - 300/-
☆ کربلا سفر میں ہے - 150/- ☆ عطائے آل عبا - 300/-	☆ محبت دین ہے، دین محبت ہے - 75/-	☆ خاندان میر انیس کے نامور شعراء - 500/-
☆ رزق مودت - 150/- ☆ تھیولی - 150/-	☆ تربیت اولاد کے شہری اصول - 140/-	☆ میر انیس کھل 3 جلدیں - 7500/-
☆ محسن نقوی شہید کا کلام	☆ ترک گناہ کے چالیس طریقے - 100/-	☆ اردو مرثیہ پاکستان میں - 500/-
☆ میراث محسن - 1200/- ☆ حق الیہا - 500/-	☆ حرام نگاہ (بہ نظری کے قصائد) - 75/-	☆ خاندان میر انیس کے نامور شعراء - 500/-
☆ مجموعہ اوراک - 450/- ☆ فرات فکر - 500/-	☆ مرض حب دنیا (علامات اور علاج) - 75/-	☆ دیوان ابوطالب (آرٹ پیپر) - 1400/-
☆ شوکت رضا شوکت کا کلام	☆ سامان سفر آخرت - 80/-	☆ اقبال بارگاہ عصمت و طہارت میں - 500/-
☆ ولایت سرگوشی جبرئیل مشک الہام (زیر طبع)	☆ مرض تکبر - 80/- صدقہ - 90/-	☆ میر انیس کے حالات زندگی و شاعری - 800/-

Imamia Jantri Official By Iftikhar Book Depot . Download from Googleplay-105playstore

Imamia Jantri Official By Iftikhar Book Depot . Download from Googleplay-IOsplaystore

جامع تعلیمات اسلامی کی منظوریات	محمد علی بک ڈپن کراچی	ادارہ منہاج الصحاح لاہور
☆ مصباح المؤمنین - 350/- کتب رسول	☆ گھر ایک جنت - 750/- ☆ معراج - 400/-	☆ تصانیف آیت اللہ کاظم قزوینی
☆ اسلام دین معاشرت - 250/- کتب اسلام	☆ ۱۰۱ مہدی حاضر ہے - 400/- مہدی برحق - 400/-	☆ امام علیؑ ولادت تا شہادت - 500/-
☆ گفتار عاشورہ - 200/- ☆ اسلام دین حکمت - 700/-	☆ بہریت الاحزان - 400/- ☆ 101 دلچسپ مکالمے - 400/-	☆ حضرت فاطمہؑ طلوع تا غروب - 800/-
☆ اسلام دین معرفت - 300/- ☆ حکایات القرآن - 300/-	☆ ظہور امامؑ کی قریب ترین نشانیوں - 250/-	☆ امام جعفر صادقؑ ولادت تا شہادت - 825/-
☆ فلسفہ معجزہ - 200/- ☆ فلسفہ حجاب - 300/-	☆ مشکل و مستحیب (2 جلدیں) - 750/-	☆ امام مہدیؑ ولادت تا ظہور - 450/-
☆ فلسفہ ولایت - 250/- ☆ فلسفہ احکام - 250/-	☆ بہتر سے اخلاق - 250/- ☆ مثالی ماں - 60/-	☆ تہذیب انگریزی ولادت تا شہادت - 325/-
☆ تاریخ عاشورہ - 300/- ☆ بنائے کربلا - 250/-	☆ تہذیب الشیعہ - 900/- ☆ تحفۃ المؤمنین - 120/-	☆ امام علیؑ ولادت تا شہادت - 400/-
☆ انسان کامل - 400/- ☆ مقل مطہر - 400/-	☆ انسان ساز واقعات اول - 250/-	☆ امام حسینؑ عیسائی تحقیق کی نظر میں - 500/-
☆ بہلول دانا - 100/- ☆ حیات پیچکن - 500/-	☆ انسان ساز واقعات دوم - 280/- سوئم - 250/-	☆ مناقب اہلبیت 4 جلدیں - 2000/-
☆ اسلامی قانون سزا - 200/- ☆ اسلامی داستانیں - 350/-	☆ کیفر گناہان کبیرہ اول - 150/- ☆ دوم - 225/-	☆ معجزات آل محمدؑ (مدینہ المنورہ) 4 جلدیں - 2000/-
☆ سخن - 600/- ☆ ابوطالب مظلوم تاریخ - 225/-	☆ تکلیف سلیم (2 جلدیں) - 1500/-	☆ تہذیب و ولایت (جواد آملی) - 400/-
☆ تاریخ فقہ جعفری - 400/- ☆ کتب تشیع - 200/-	☆ گناہان کبیرہ (2 جلدیں) - 1500/-	☆ فضائل اہلبیت ترجمہ فارسی المرام 3 جلدیں - 1500/-
☆ اسلامی عقائد (علامہ مرتضیٰ عسکری) - 300/-	☆ ہر ہمتائے حقیقت (آیت اللہ بروجردی) 2 جلدیں - 1000/-	☆ اقوال علیؑ 2 جلدیں - 800/-
☆ سیرت مصطفیٰ (ہاشم معروف حسنی) - 700/-	☆ نولہادین از دوامی مسائل - 600/-	☆ مدینہ سے شام تک (رحمہ اللہ) 3 جلدیں - 1500/-
☆ سیرت آئمہ اہلبیت (ہاشم معروف حسنی) 4 جلدیں - 1400/-	☆ بہلول ثانی اور جابر حکمران - 350/-	☆ عرفان ابوطالب (آقائے مظہر عباس) - 600/-
☆ اخلاقی و روحانی نشوونما (سید نجفی موسوی) - 200/-	☆ ہر پادشہ علیؑ صفحہ 2 جلدیں فی جلد - 250/-	☆ سلوٹی قبل ان تقدونی 2 جلدیں - 1000/-
☆ تفسیر سورہ حجرات (آیت اللہ شیبلی) - 500/-	☆ سبق آموز واقعات 2 جلدیں - 500/-	☆ مولائے کائنات کے فیصلے (رحمہ اللہ) 2 جلدیں - 450/-
☆ محرمات اسلام (حجت الاسلام محمد مصطفیٰ بہارانی) - 600/-	☆ آخرت ساز واقعات - 250/-	☆ نسا نیکو پیڑیا امام علیؑ 2 جلدیں فی جلد - 700/-
☆ تصوف و تشیع کا فرق (ہاشم معروف حسنی) - 600/-	☆ توبہ اور تاریخی واقعات - 300/-	☆ اسلام اور کائنات (مرتضیٰ مطہری) - 800/-
☆ سیر و سلوک (شہید مرتضیٰ مطہری و طباطبائی) - 200/-	☆ تحفۃ الصائمین 450/- کیا میں اچھا استاد ہوں - 100/-	☆ نسا نیکو پیڑیا امام حسینؑ فی جلد - 700/-
☆ علوم القرآن (حجت الاسلام سید ریاض الحکیم) - 350/-	☆ خصائص القرآن (36 سورے) - 300/-	☆ سادات کا شجرہ طیبہ (مفتی نذرت حسین) - 425/-
☆ علوم حدیث کا تعارف (حجت الاسلام علی حسینی) - 300/-	☆ تہذیب کی بیٹے کو نصیحت - 250/-	☆ اصحاب مہدیؑ (ہاشم بحرانی) - 300/-
☆ اسلام اور اخلاق - 200/- حیات انسان کے ہر لمحے - 250/-	☆ اعمال ماہ رمضان (علامہ ذیشان جوادی) - 500/-	☆ بیان الصائب (علامہ صادق حسن) - 300/-
☆ اسلامی اخلاق - 350/- تہذیب دین و زندگی - 250/-	☆ اعمال رجب، شعبان، رمضان - 180/-	☆ نامہ امام علیؑ بنام مالک اشتر - 400/-
☆ تفسیر نور (نساء، فرقان، حجرات) - 400/-	☆ ہر لمحے سے پہلے مرنے کے بعد - 120/-	☆ قصص الانبیاء (تاریخ اسلام) - 700/-
☆ تفسیر نور (ماکہ، توبہ، اسراء، دہر) - 400/-	☆ مشکل زیدی (اول، دوم سوئم) فی جلد - 250/-	☆ علیؑ کی جنگیں - 350/- مشکوٰۃ الانوار - 500/-
☆ قرآن کتاب جاوداں (حجت الاسلام محمد علی یازدی) - 350/-	☆ کیا آپ جانتے ہیں - 300/-	☆ مدینہ سے شام تک 3 جلدیں - 1500/-
☆ قرآن اور معاصر تفسیر (حجت الاسلام محمد علی یازدی) - 225/-	☆ نونائے آسمانے الحسنی - 150/-	☆ تہذیب نفس یا اخلاق عملی - 400/-
☆ مناسبات قرآن (حجت الاسلام محمد علی یازدی) - 400/-	☆ تحفۃ نجات (گولڈن جلد) - 450/-	☆ حسن الجوابات 3 جلدیں - 600/-
☆ علیؑ اسوۂ وحدت (علامہ جواد شری) - 800/-	☆ تحفۃ راہ آخرت (اعمال مظہر مرحومین) - 300/-	☆ جمال مختصر - 900/- خصائص عباس علمدار - 425/-
☆ تعلیم القرآن - 150/- تجوید القرآن - 200/-	☆ حضرت فاطمہؑ الزہراءؑ کے 9 آسمانی نام - 300/-	☆ سوال عوام کے جواب امامؑ کے 14 حصے - 300/-
☆ حکایات روایات - 350/- اسلامی مذاہب - 250/-	☆ شرح حدیث کسا (علی افضل قلی) - 300/-	☆ تعلیمات اہلبیت - 400/-
☆ علیؑ مظہر کبریا - 600/- عموال و شرح عموال - 150/-	☆ زیارت چہارہ معصومین - 120/-	☆ اقوال پیچکن - 300/-
☆ پاسداران اسلام (علامہ محمد حسین طباطبائی) - 250/-	☆ تہذیب تاریخ 5 جلدیں - 1600/-	☆ موت کے بعد کیا ہوگا - 300/-

کتاب و نصاب		کتاب و نصاب	
120/-	☆ رہنمایان اسلام (علامہ علی)	400/-	☆ شہید انسانیت (علامہ علی نقی)
450/-	☆ 1572 سوالات و جوابات	250/-	☆ آفتاب ولایت (ابراہیم سراج)
350/-	☆ ترکہ رسول و جان رسول (کرامت علی شاہ)	300/-	☆ فلسفہ نبوت مہدی (شیخ صدوق)
1000/-	☆ ہویان حضرت علی (الہدیت مصنف)	300/-	☆ امامت و ولایت (شیخ صدوق)
600/-	☆ علی منظر کبریا (فضل اللہ کپانی)	200/-	☆ شہدائے کربلا (علامہ علی نقی)
250/-	☆ قرآن اور شہزادی فاطمہ الزہراء	800/-	☆ شجرہ سادات (جلد اول) (سید محمد عباس مہدی)
350/-	☆ مواعد حسنہ (علامہ علی)	250/-	☆ خصوصیات و فوائد قرآن (سید تمیز حسین)
800/-	☆ سعادت الدارین فی مقتل حسین	800/-	☆ عاشقان خدا (غلام رضا مختاری)
300/-	☆ عقائد و نظریات (آیت اللہ سید محمد باقر موسوی)	200/-	☆ انسان عدالت الہیہ کے روبرو
600/-	☆ فضائل علی اہلبیت کی روشنی میں (باقر موسوی)	500/-	☆ آسانی الصحیحین 200/- گنتار اہلبیت
300/-	☆ سبط اکبر سوانح امام حسن	350/-	☆ فضائل نامہ (علامہ حسین بخش جاڑا)
350/-	☆ امام علم و عرفان امام جعفر صادق	275/-	☆ اصول عقائد (ناصر مکارم شیرازی)
400/-	☆ حکمت پارسے (سید عابد علی)	400/-	☆ خلافت و ولایت (مولانا مودودی)
200/-	☆ نور ولایت (سید محمد ہاشم ہاشمی)	500/-	☆ ولایت علی (سید مصطفیٰ زہرا)
300/-	☆ صحیفہ کربلا 700/- خاک کربلا	90/-	☆ تاریخ حسینی (مقتل ابوف کا ترجمہ)
165/-	☆ مدیہ المرید 200/- غریب طوس	100/-	☆ فہم دین (مولانا محمد علی راشدی)
125/-	☆ نماز، زکوٰۃ، خمس 200/- خطبہ غدیر	660/-	☆ آئینہ حقوق امام زین العابدین
150/-	☆ حد اور اسلام (علامہ علی نقی)	660/-	☆ نوجوانوں کے جنسی مسائل (علی نقی)
1000/-	☆ لوائح الاحزان (مولانا سید محمد مہدی)	300/-	☆ شہادت کا مقدمہ 450/- پاکت
540/-	☆ لوائح الاشجان (الشیخ محسن الامین العالی)	360/-	☆ احسن العقائد (علامہ علی)
520/-	☆ الانوار الامیہ (شرح زیارت جامع کبیر)	350/-	☆ صحیفہ دعا ترجمہ عدۃ الداعی (علامہ علی)
250/-	☆ راس الحسین علامہ حسن عسکری (ایران)	300/-	☆ توحید الائمہ (مولانا سید محمد ہارون زکی پوری مرحوم)
230/-	☆ حقیقت معجزہ (سید سبطین علی نقوی)	300/-	☆ برزخ کا سفر نامہ (نعت اللہ سامی)
200/-	☆ الشاعر احسنیہ (سید حسن حسینی شیرازی)	300/-	☆ امام مہدی موجود موعود
560/-	☆ تجلیات ولایت (سید محمد نجفی یزدی)	350/-	☆ دعا اور اہلبیت (آیت اللہ مہدی آصفی)
230/-	☆ الایام حسینیہ (علامہ جعفر سوہروردی)	200/-	☆ مرثیہ پر اعتراضات کا تنقیدی جائزہ
380/-	☆ رسائل علامہ طباطبائی (محمد حسین طباطبائی)	350/-	☆ جواہر الاسرار فی مناقب آئمۃ الطہار
190/-	☆ الدرۃ الباہرہ (سید سبطین علی نقوی)	100/-	☆ ظہور امام مہدی قریب تر ہے (رعایتی)
330/-	☆ زیارت درگاہ اہلبیت (محمد علی حسین زاہد)	100/-	☆ مشکل کشائے عالم (مولانا نائل حسین)
640/-	☆ اصول تفسیر قرآن (آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی)	300/-	☆ علوم و حدیث کا ارتقاء
900/-	☆ شہادت عظمیٰ (بوعلی شاہ زیدی)	270/-	☆ تحقیق حق ولایت علی ابن ابی طالب
300/-	☆ زینب عالیہ (علامہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل)	600/-	☆ بصائر الدرجات اول
2700/-	☆ زیور آل محمد (شرح صحیفہ سجادیہ) 3 جلدیں	600/-	☆ بصائر الدرجات حصہ دوم
400/-	☆ پرواز در ملکوت (آیت اللہ خمینی)	500/-	☆ علم کی اہمیت 135/- تجلیات حکمت
500/-	☆ مشارق مصطفیٰ (آیت اللہ محمد الدین الی جعفر)	250/-	☆ خدا شناسی (ڈاکٹر محمد جواد باہنر شہید)

## متفرق کتب

1000/-	☆ گلدستہ اہلبیت (مولانا طارق جمیل)	350/-	☆ ترکہ رسول و جان رسول (کرامت علی شاہ)
450/-	☆ چہارہ معصومین (عابدی فتح علی نظری)	300/-	☆ ہدفائے حرم (مجاہد حسین حر)
340/-	☆ الزہراء (عبدالرزاق موسوی)	150/-	☆ تعبیر الروایا (علامہ مجلسی) خواب و تعبیر
150/-	☆ تعبیر الروایا (علامہ مجلسی) خواب و تعبیر	150/-	☆ حضرت علی کی جنگیں (از مہدی شمس الدین)
350/-	☆ سرچشمہ حکمت (مولانا علی کے کلمات)	265/-	☆ مختصر شرح زیارت جامع کبیر (ناصر مکارم شیرازی)
650/-	☆ حضرت امام مہدیؑ تلپور سے پہلے (علامہ اب حیدر مہدی)	350/-	☆ خاندان کا اخلاق
650/-	☆ حضرت امام مہدیؑ تلپور کے بعد (علامہ اب حیدر مہدی)	650/-	☆ حضرت امام مہدیؑ 1400 سوالات کے جوابات
650/-	☆ حضرت امام مہدیؑ 1400 سوالات کے جوابات	350/-	☆ دین حق (آقائے سید عبدالحسین شرف الدین)
350/-	☆ تہذیب زندگی (از مولانا شہنشاہ نقوی)	225/-	☆ منازل آخرہ (مولف علامہ شیخ محمد عباس نقی)
750/-	☆ مناقب اہلیات 900/- شجاعان کربلا	300/-	☆ ذکر فاطمہ (جشن افضل حیدر)
300/-	☆ علم کی اہمیت 135/- تجلیات حکمت	300/-	☆ حسین ابن علی (جشن افضل حیدر)





ہر روحانی و جسمانی  
مسائل کا حل

# الفاطمی استخارہ سنٹر اینڈ جمیز سنٹون

**کینسر سیشلسٹ** آپریشن مت کروائیں۔ بلڈ کینسر، بون کینسر، چیٹ کینسر۔ ہر طرح کے کینسر کا مکمل شرطیہ مجرب علاج

**2 ماہ کی دوائی سے شفای شفا** بتوفیق الہی بفضل آل محمد بفضل حضرت غازی عباس علمدار مدظلہ و جناب لہا بہ خاتون سہانہ شیطا

**نوٹ ہر قسم کے قیمتی و نیم قیمتی جواہرات دستیاب ہیں**

فیروزہ عقیق نیلم زمرد پکھراج مرجان درنجف اوپل بیرا زبرجد سنگ جدید

**تمام امراض کاپتھروں سے علاج شوگر بلڈ پریشر دل فالج اعصابی کمزوری نامردی بانجھ پن  
زنانہ و مردانہ نظر کی کمزوری معدہ جگر رعشہ**

سومنین کے لیے ایران کا خالص شہد چھوٹی مکھی، بڑی مکھی، اور زیتون کا خالص تیل بھی دستیاب ہے

**ہرز جواد اللہ کی انگوٹھی: ہر انے کشائش رزق، بخت کشائی، آفات و بلیات سے حفاظت**

اپنے مسائل کے حل کے لیے ایک مرتبہ مشورہ ضرور کریں۔ پردہ دار مستورات گھر بیٹھے اپنے مسائل حل کروائیں۔

www.humaliwalayazadar.com

0300-4072011, 0333-6885171

آٹا خیبر عباسی رخصا الفاطمی

## انجمن وظیفہ سادات و مومنین

ہر سال پاکستان میں مستحق طلباء و طالبات کو 2 کروڑ سے زائد  
تعلیمی وظائف جاری کیے جاتے ہیں۔ مخیر حضرات خمس، صدقات،  
قطرہ اور چندہ کی مدد میں مالی معاونت کر سکتے ہیں۔

سید ضیاء حیدر رضوی (جنرل سیکرٹری)

042-37353117, 042-37353740

مرکزی دفتر مومنین روڈ لاہور

ادارہ خیر العمل  
برائے مومنین  
اسلام پورہ

اپنے مرحومین کے ایصال ثواب  
کے لیے اجتماعی مجلس عزائیں  
شرکت کے لیے رابطہ کریں

مبارز نقوی

0322-3841554

روحانی علاج

دافع جادو اور  
استخارہ

کے لیے رجوع فرمائیں۔

علامہ سید حسین عباسی  
نقوی (فاضل نم)

0324-4492812 0321-4917305

## کاروان کربلا و شام

عارضہ 39 سال سے زائرین کی خدمت میں رواں دواں  
پروگرام زیارات مقامات مقدسہ 2020 ع  
عمرہ، ایران، عراق، شام  
بانی روڈ، بانی انتر نیشنل، لاہور

پہلا قافلہ: ربیع الثانی عمرہ، ایران، عراق انشاء اللہ  
دوسرا قافلہ: رجب ایران، عراق، شام انشاء اللہ  
تیسرا قافلہ: شعبان ایران، عراق انشاء اللہ  
چوتھا قافلہ: رمضان ایران، عراق انشاء اللہ  
پانچواں قافلہ: محرم الحرام ایران، عراق انشاء اللہ

وستا بذات: اصل پاسپورٹ، 2 عدد نوکائی شافقی کارڈ 10 عدد رنگین فوٹو ایک گراڈ ٹر سٹیڈ  
نوٹ ہر پنکچ کی آدھی رقم دستاویزات کے ساتھ جمع کرانا لازمی ہے

0301-4513272  
0306-7974225  
0345-7955935  
0301-4045441



یا امام المصطفیٰ  
أجمل أجمل

یاوارث خون حسین زیر سایہ قائم آل محمد علیہ السلام



زیارات مقامات مقدسہ

# کاروان حج صاحب الزمان



ٹریولز اینڈ ٹورز

## حج و عمرہ

ایران، عراق، شام

**حج 2020**

بکنگ جاری ہے  
اکانومی + 4 سٹار

مسلسل 29 سال

کاروان میں شامل ہونے کیلئے 40 دن پہلے رابطہ کریں۔

پہلا گروپ: ماہ جنوری: عمرہ ایران، عراق، شام

دوسرا گروپ: مارچ (ماہ رجب میں) اور اپریل (ماہ شعبان میں)

چہلم امام حسین (کربلا میں) ماہ اکتوبر پہلا ہفتہ۔

تیسرا گروپ: یوم عرفہ کربلا میں۔ ماہ اگست میں۔

عراق، ایران 135000	عراق، ایران 68000 / 80000	عمرہ، عراق، ایران 260000	عمرہ 140000
--------------------	---------------------------	--------------------------	-------------

صرف عراق 135000

عمرہ عراق 205000

ایران، عراق، شام 225000

صرف شام ہالی ائر 135000

Daewoo & yutong

بسوں کی بکنگ کیلئے رابطہ کریں

نوٹ: ایام مخصوص میں ٹکٹ میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔

E-mail: saz.izi313@gmail.com

**نائب قافلہ سالار**  
**سید عون شاہ نقوی**  
0336-4056387  
0311-1457213

**TAT'HEER CONSULTANTS (PVT) LTD.**  
ہی رورپ امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، جاپان، ہندوستان  
کے وزٹ اینڈ سٹڈی ویزو کی پروویڈنگ کیلئے تشریف لائیں



مرکزی دفتر (شعبہ خادوم زائرین)  
بین بازار بی بی پاکدامن قزلباش روڈ، ایکسپریس روڈ، لاہور پاکستان

042-36292671, 042-36305530  
0300-9448581, 0336-1472572  
0342-4257214, 0321-4285371

Imamia Jantri Official By Itikhat Book Depot. Download from Googleplay-105playstore

## تمام مشکلات کے حل کے لیے روحانی الواح + اسم اعظم + صدقات

۱۱۰  
۹۲-۱۱۰

<b>روح مشتری</b> فراخی رزق، انعامی بانڈ کا چانس، مال و دولت، تسخیر خلق، مالی پریشانی ختم ہوگی، غائبانہ طور پر دولت ملے گی۔	<b>7 الواح کا مکمل سیٹ</b> زلزل، مشتری، عطارد، قمر، مریخ، زہرہ، شمس کی الواح کا مکمل سیٹ کامیابی ہی کامیابی ہوگی۔	<b>روح اسم اعظم</b> روح اسم اعظم ہر جائز مقصد کے میں 40 دن میں کامیابی ملے گی۔ حفظ و امان، تحفظ ہر شے کا، حصول علم، ترقی، تسخیر خلق
<b>روح زحل</b> برج قوس، جدی، دلو والے ساڑھ سٹی کا شکار ہیں شدید مشکلات میں ہیں قوس کی ساڑھ سٹی ختم ہونے والی ہے اور حوت مشتری والے ساڑھ سٹی میں آنے والے ہیں آج ہی اپنے نام کی روح زحل بنوائیں۔	<b>سحر جادو و بناش آسب سایہ دفع کرنے کا کورس</b> جادو شکن تلواری، لوح تحفظ + لاکٹ نا مدلی جلانے کے لیے 40 بتیاں 40 پینے کے تعویذ۔ مکمل کورس حاصل کریں۔	<b>روح صراط علی حق نسک</b> تفسیر جفری سے تیار شدہ بہت ہی اعلیٰ نقش جس سے ہر کام میں کامیابی نصیب ہوگی، آزمودہ شدہ ہے۔ حصول کل مقاصد۔
<b>روح فاطمہ</b> جن بیٹے، بیٹیوں کے رشتے نہ ہوتے ہوں۔ یہ لوح منگوا کر پرس میں رکھیں۔ تمام الواح قرآن پاک کی آیات سے تیار شدہ ہیں۔ اعتماد کے ساتھ حاصل کریں ہم اپنے نام کا اسم اعظم اور اپنے برج کے صدقات فون کر کے مفت پوچھ سکتے ہیں ہم بالمشافہ ملاقات کے لیے ہر انگریزی ماہ کی 8 تاریخ کو ملتان، 9 کولاہور، 10 کوراولپنڈی، 11 کو فیصل آباد، 22-21 کو کراچی آنے سے پہلے فون کر کے ایڈریس پوچھ لیں۔ ہم ملاقات کی کوئی فیس نہیں ہر قسم کی بیماری اور ذہنی سکون کے لیے 40 نقش + لوح شفا + 5 تعویذ جو ابی لفاقہ رجسٹری والا بھجوا کر ہم سے فی سبیل اللہ حاصل کریں۔ ہم عرصہ 15 سال سے عوام ان نقش سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔		

تمام الواح قرآن پاک کی آیات سے تیار شدہ ہیں۔ اعتماد کے ساتھ حاصل کریں ہم اپنے نام کا اسم اعظم اور اپنے برج کے صدقات فون کر کے مفت پوچھ سکتے ہیں ہم بالمشافہ ملاقات کے لیے ہر انگریزی ماہ کی 8 تاریخ کو ملتان، 9 کولاہور، 10 کوراولپنڈی، 11 کو فیصل آباد، 22-21 کو کراچی آنے سے پہلے فون کر کے ایڈریس پوچھ لیں۔ ہم ملاقات کی کوئی فیس نہیں ہر قسم کی بیماری اور ذہنی سکون کے لیے 40 نقش + لوح شفا + 5 تعویذ جو ابی لفاقہ رجسٹری والا بھجوا کر ہم سے فی سبیل اللہ حاصل کریں۔ ہم عرصہ 15 سال سے عوام ان نقش سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔

آغا جعفر حسنین صاحب مدظلہ العالی  
مکان نمبر 140، راولپنڈی، پاکستان  
0312-7807218، 0308-7807246

## SOLAR PLEXUS

سے پیچیدہ امراض کا علاج فی سبیل اللہ

ڈپریشن 3 دن  
دل کے بند وال 14 دن

لیور کینسر 35 دن  
گونگا و بہرہ پن

فالج لقوہ 7 دن  
بریسٹ کینسر 35 دن

زبان کی لکنت 7 دن  
جوڑوں کے درد 7 دن

مرگی / مالیخوریا 5 دن  
آنزم 2 ماہ

نیز آسبسی و سحری اثرات سے مدافعی پریشانی

اسد علی شیرازی 0331-6518802، 0305-8032138

مکان نمبر 430/240 سٹریٹ نمبر شان محلہ قدام آباد پوٹلی امرسدھولا ہور کینٹ

ہر ماہ کی قیمت 15 تا 16 لاکھ اور 16 سے 28 لاکھ آباد

## خوشخبری

طلسماتی انگوٹھی ایک عظیم تحفہ ہے۔ اللہ کے نام کا نقش اور سورہ یسین دم کر کے فیروزہ یمنی عقیق، پکھراج، نیلم، مرجان، یاقوت، زمرد، درنجف، اوپل، زبرجد پر تیار کی ہے۔ ان شاء اللہ جو بھی یہ انگوٹھی پہنے گا اسکے تمام بگڑے کام خدا کے فضل سے بن جائیں گے۔ پسند کی شادی، میاں بیوی میں محبت۔ یاد رکھیں سورہ یسین قرآن پاک کا دل ہے۔

مشتری دولت کا ستارہ یہ نیک وقت عظیم تحفہ ہے اگر کوئی شخص مالی لحاظ سے کمزور ہے۔ فکر و افلاس میں پھنسا رہتا ہو۔ قرضدار ہو، ہر کام میں رکاوٹ بندش ہو۔ وہ شخص اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، دوستوں کے لیے دوستوں کے لیے یہ لوح ضرور حاصل کریں اپنی قسمت کو جگائیں

صوفی علی مراد مکان نمبر 920 سٹریٹ نمبر 1 محلہ مدنی کالونی  
0333-3092826  
گرینکس مائی پور روڈ کراچی  
0307-3990983





## اللہ رحمن ورحیم سے بتوسل قرآن پاک کی مقدسہ آیات اور معصومینؑ سے برپیشانی کا حل

لوچ اسرار فی فتحنامہ	لاکھ ناد علی	نقش صدور صد منسوب بہ مولا علی	نخس اکبر ستارہ کی ساڑھتی کا توڑ
ہر کام میں فتح یابی اور کامیابی کے لیے لوچ اسرار فی فتحنامہ با سوکل درد شدہ، صدقہ ادا شدہ، سونا پالش ہدیہ -/1000	جن بچوں اور بچیوں کو نظر بد لگ جاتی ہو ان کو نظر بد سے محفوظ رکھنے کے لیے لاکھ ناد علی لیکر پہنائیں۔ سونا پالش ہدیہ -/500	موجودہ کمرہ شہرکات ہاوشاہی مسجد لاہور برائے حصول کل مقاصد، فوج جاوہ، جن، بدروح سے تحفظ کے لیے نقش صدور صد فریم بجوا کر گھر میں لگائیں۔ صدقات ادا شدہ، درد شدہ فریم کا ہدیہ -/3000	برج قوس، جدی، دلو والے زحل کی ساڑھتی کا شکار ہیں۔ لوچ زحل حاصل کریں۔ درد شدہ، صدقہ ادا شدہ، سونا پالش ہدیہ -/1000
مخالفین اور حاسدوں کے جاوہ سے بچنے اور محفوظ رہنے کے لیے	بچیوں کے رشتوں کے لیے لوچ قاطرہ انگشتری عدد 9 اور لوچ مقدر یعنی اپنے پرس میں رکھے۔ ان شاء اللہ رشتہ موافق خوشحال ہوگا۔ سونا پالش ہدیہ -/2000	فحوت سیارگان سے محفوظ رہنے کے لیے شمس، قمر، زحل، زہرہ، عطارد، مریخ، مشتری، 7 سیارگان کے شرفات کی 7 الواح کا مکمل سیٹ حاصل کر کے زندگی خوشگوار بنائیں۔ مکمل سیٹ ہاتھ سے لکھا ہوا + سونا پالش + درد شدہ + صدقات ادا شدہ۔ ہدیہ -/5000	بیرون ملک ویزہ، پاسپورٹ یا جاب ملنے کے لیے ظلم فتوحات حاصل کریں درد شدہ، صدقہ ادا شدہ، سونا پالش ہدیہ -/1000

فون پر استخارہ مفت کرائیں

اوقات رابطہ 9 بجے تا رات 9 بجے 76 عددی زائچہ لفت بنوائیں پتلا اپنے برج شمار کے مطابق گنید فون پر معلوم کر کے اصلی گنید مجھ سے حاصل کریں

**امیر حیدر** نقب امام بارگاہ جاگیر علی اکبر جاوید کالونی بہاولپور  
0301-6762979, 0333-6821579  
ameerhaider@gmail.com

## سادات میرج سنٹر

حکومت پاکستان سے منظور شدہ  
حضرت امام مہدی (عجل اللہ فرجہ) کی قبائے پاک کے زیر  
سایہ سالہا سال سے مومنین کی خدمت میں سرگرداں وہ واحد  
ادارہ جہاں آپ مکمل اعتماد اور رازداری کیساتھ اپنے بچے اور  
بچیوں کے لیے **سید خیر سید سنی**

**اعلیٰ تعلیم یافتہ، برسر روزگار**  
ہر ذات اور برادری کے رشتوں کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔

**بیرون ملک** مقیم فیملیز مکمل اعتماد کیساتھ اندرون اور بیرون  
ملک تسلی بخش رشتوں کے لیے رجوع کریں  
سکینڈ اور لیٹ میرج رشتے بھی کروائے جاتے ہیں

**رابطہ: سسر زیدی**  
92-300-9480414, +92-331-4155550 e mail: sadaatnc5@hotmail.com  
سادات میرج سنٹر آفس نمبر 0300-9488210

## جاوہ، گھر، پھارپوں اور پریشانیوں

**معالج خصوصی** کا لالیم، جاوہ، ٹونہ، بحر، کات و پلٹ، شادی،  
اولاد کا نہ ہونا، گوشت کے لوتھڑے، گوبر، مٹی، کنکر پانی کے چھیننے،  
روپوں، کپڑوں کا کٹ جانا، گھر میں اچانک نقصان و آگ لگانا کے مسئلے  
کا حل کروانے اور چیمائی اور کسی بھی قسم کی بندش کے لیے رابطہ کریں۔  
**نکات** ہر مرض کا علاج روحانی طریقے سے کیا جاتا ہے۔

خاص سیدائش و سسر کا وقت 12 بجے سے 7 بجے 0300 4422687  
اوقات رابطہ 12 بجے سے 7 بجے کوہلائی 5 بخشہ مارکیٹ اندر کئی لاہور

## بخاری میرج سنٹر

معزز سادات اور اہل تشیع خاندانوں کے بچے اور بچیوں  
کے موزوں ترین رشتوں کے لئے رابطہ کریں۔

سیدہ ڈر شہوار  
بچے تا شام 5 بجے

0300-9488210 042-37812941  
email: dbokhari@hotmail.com

Imamia Jantri Official By Iftikhar Book Depot. Download from Googleplay-105playstore

## ادارہ معاون مومنین واعظین مقرین پیش نماز

ایسے سید و غیر سید شیعہ و اہل سنت والدین اندرون ملک و بیرون ملک اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتے لینے یا دینے میں پریشان ہوں ہم سے رابطہ کریں۔ ہم انہیں ان کی عین خواہش کے مطابق رشتے کروائیں گے۔

جو مومنین اپنے مرحومین کی قضاء نمازیں، روزے، ختم قرآن و دیگر مخصوص دعائیں کم ہدیہ میں پڑھوانا چاہتے ہوں تو سعادت کے لئے ہم ہمہ وقت تیار ہیں

جو مومنین اپنی مساجد میں مستقل طور پر یا ماہ رمضان المبارک میں عارضی طور پر سید و غیر سید پیش نماز رکھنے کے خواہش مند ہوں یا سید و غیر سید پیش نماز مستقل طور پر یا ماہ رمضان المبارک میں عارضی طور پر پیش نمازی کرانے کے خواہش مند ہوں رابطہ کریں۔

**سننے میں آیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ شیخہ میں حافظ قرآن نہیں ہیں۔ وہ ہم سے رابطہ کریں**

جو مومنین و اراکین انجمن عشرہ محرم الحرام و دیگر مجالس عزا کے لئے زیادہ ہدیہ نہیں دے سکتے ہم انہیں کم ہدیہ والے ذاکرین، مقررین واعظین، خطیب و خطیبہ دیں گے۔

فقہ جعفریہ میں طلاق طلاق کہنے سے، نوش دینے سے، عدالتی تشخیص نکاح سے طلاق نہیں ہوتی بلکہ طلاق دو عادل گواہوں کی موجودگی میں کسی مستند پڑھے لکھے عالم دین سے صیغہ طلاق

مرحومین کے لیے اجتماعی عمرہ، مجلس عزا و قرآن خوانی اور شیعہ دعائے کمل، حدیث کسا کم ہدیہ میں پڑھوانے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔

عربی میں پڑھوایا جائے۔ جس طرح نکاح، نکاح، نکاح کہنے سے نکاح نہیں ہوتا، اسی طرح طلاق، طلاق، طلاق کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ جس طرح نکاح کی شرائط ہیں اسی طرح طلاق کی بھی شرائط ہیں۔ بالفرض صیغہ طلاق عربی نہ پڑھا جائے تو وہ عورت دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی۔ اگر نکاح کر لے تو وہ نکاح مطلقاً حرام ہے۔ جب نکاح حرام تو اولاد کے بارے آپ خود فیصلہ صادر فرمائیں۔

علاہہ سید محمد عباس نقوی آف مہر و پیلو ضلع چکوال  
0300-6059825  
0346-5899452

## حیدری میرج بیورو

سید، شیعہ، سنی، ڈاکٹر، انجینئر، مل اونر زمیندار، جٹ، اعوان، راجپوت، شیخ

اور سیاسی گھرانوں کے اعلیٰ رشتے

USA, UK اور Ganda نیشنلسٹی ہولڈر

مسز نقوی 83 ہما بلاک اقبال ٹاؤن لاہور

0300-8131013, 0334-40931013

## الیاس میرج بیورو

ہمارے ہاں شیعہ و سنی ہر ذات برادری اور اسکے علاوہ سادات اور غیر سادات کے اعلیٰ تعلیم یافتہ اور تسلی بخش رشتے موجود ہیں آپ بڑے اطمینان کیساتھ بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے ہم سے رابطہ کریں سکیڈ میرج، مطلقہ اور لیٹ میرج والے بھی رجوع کر سکتے ہیں۔

رابطہ فضیلت باجی 0321-6774442

0322-9156826, 0307-8827001

## شر بیماری کا علاج فون پر دم کروائیں

دمہ ہوا سیر 30 یا 60 دن میں مکمل نجات

نگینے دستیاب ہیں اور اسم اعظم معلوم کریں

0333-6474494

0302-7909693

0346-7328884

0313-6435252

Facebook ID

Darvaish Khizir Abbas

حکیم شاعر اہلبیت

درویش

خضر عباس پیاسی

فاضل پورٹی نزد پولیس چوکی ضلع راجن پور (جنوبی پنجاب)

Imamia Jantri Official By Iftikhar Book Depot . Download from Googleplay-IO Splaystore



## سعید میرج سنٹر

سادات و غیر سادات، شیعہ، سنی، فرسٹ اینڈ سکیڈ میرج، اندرون و بیرون ملک رشتوں کے متلاشی حضرات رابطہ کریں

مہر عبد الحمید

0347-7280728

Call 0321-7280728

0314-4993688

## نماز اجارہ و دعائے مغفرت برائے مرحومین

تقضاً نمازیں، روزے و دیگر واجبات شریعہ ادا کروانے کیلئے

سید محمد مطہر احسن کاظمی

کان نمبر B-A، عریضہ 33 کڑ کالونی لاریب سما کی نورد کھجاک ڈال ٹاؤن لاہور

0300/0345-4622340  
0333/0321-5304639



## والی صاحب الزمان

کے نام سے قبرستان کا قیام

مختبر حضرات سے تعاون کی اپیل ہے۔  
 زیر نگرانی: مولانا سید نوید امجدی صاحب 0321-4150441  
 خطیب ہذا: شہد جاح محمد صاحب الزمان حیدرآباد اسلام آباد  
 صدر منظمہ کمیٹی شہد عہاں گاگی 0300-6762471  
 بینک اکاؤنٹ 4-8444-100-0138-PLSAC  
 جاح محمد صاحب الزمان یونائیٹڈ بینک گمر برانچ لاہور

## جنت میں گھر بنانے کا سنہری موقع

### محمدی مسجد

حالی روڈ گلبرگ

الحمد للہ توسیع کا کام تیزی سے جاری ہے۔ کارخیر میں اپنا حصہ ڈالیں  
 رابطہ E-94 محمدی مسجد حالی روڈ گلبرگ 3 لاہور عقب حقیقت سنٹر۔  
 0300-8461418, 0333-4299938  
 اکاؤنٹ نمبر 20610-141869 برانچ کوڈ 025  
 اکاؤنٹ بنام: انجمن محمدی صیب میٹروپولیٹن بینک

### مرکز علوم آل محمد

جامعہ علویہ ارشاد المدارس لاہور  
 میں جملہ علوم دینیہ پڑھائے جاتے  
 ہیں شائقین علوم آل محمد توجہ فرمائیں  
 پرنسپل علامہ غلام علی ارشد علی باہن  
 56/1 بی ہنفریہ کالونی بندر روڈ لاہور  
 0302-4330072

### جامع قرآن

#### واہلبیت

شعبہ حفاظ کا مرکزی ادارہ  
 مال امام سے تعاون کی اپیل ہے  
 خادم قرآن مولانا حافظ  
 سید کاظم رضا نقوی  
 0333-4332518  
 0300-4425408

### جنرل ہلینگ اور

#### ریکی ہلینگ

کسی بھی مقصد یا بیماری کے لیے  
 کاؤنسلنگ (Counselling)  
 پتھروں کے بارے میں اردو Ebook  
 اگر آپ ہماری ویب سائٹ پر اشتہار  
 دینا چاہتے ہیں تو رابطہ کریں۔ ٹھانہ تول  
 Email: batoolisister10@gmail.com  
 www.batoolisister.com  
 0315-5361040

### استخارہ

#### فی سبیل اللہ

فی سبیل اللہ جائز شرعی مقاصد کے  
 لیے رابطہ کریں۔ سید شوکت حسین  
 نقوی البخاری (اسلام آباد)  
 0346-5355507  
 0320-5355607

### پنجاب یونیورسٹی

#### حدیث کسا کمیٹی

کے زیر اہتمام فی سبیل اللہ ضرورت  
 رشتہ کے سلسلہ میں سادات وغیر سادات  
 لڑکے، لڑکیوں کے رشتے مطلوب ہیں  
 رابطہ سید مبارک علی زیدی  
 شعبہ استحضارات پنجاب یونیورسٹی لاہور  
 رشتوں کی فہرست جو ابی لفاق بھیج کر  
 مفت طلب کریں  
 0321-7214129

### خوشحال

#### ازدواجی زندگی

جو بیٹے اور بیٹیاں شادی کے لیے  
 پریشان ہیں یا شادی کے بعد مسائل کا  
 شکار ہیں رابطہ کریں۔  
 صرف خواتین رابطہ کریں۔  
 سیدہ ارم زہرا نقوی  
 0333-6200921

### فیض سادات

اللہ کے پاک کے کلام سے اپنے مسائل  
 کا حل کروائیں۔ ہر بیماری کا علاج فی  
 سبیل اللہ کروائیں نیز کسی بھی مسئلے کے  
 حل کے لیے استخارہ اور زائچہ فی سبیل  
 اللہ نکوائیں **سید ذہرا نقوی**  
 محلہ امہ آباد گلی نمبر 5 طحطاہل سرکاری ہسپتال  
 سالنگھل۔ صرف خواتین رابطہ کریں۔  
 0341-4574062, 031-7843062

### ناد علی نگینہ سنٹر

کیف شہر ایچک نو اب شاہ سندھ پاکستان  
 کراچی آفس R-1090 پاک-20 FVB  
 نزد شہید قائد ٹیشن انجمنی کراچی  
 ہمارے یہاں اصلی کوالٹی کے  
 تمام نگینے دستیاب ہیں  
 اپنا زائچہ بنوائیں  
 نام سے اور بیماری کے لیے بھی پتھر تجویز  
 کیے جاتے ہیں۔ امامیہ جنتری کا مرکز  
 سید مظہر زیدی 0300-3225586

### ریکی ہلینگ، مراقبہ

مراقبہ (Meditation) نشیات خاص طور پر سگریٹ نوشی یا کسی بھی  
 (Addictim) اور کسی بھی بیماری یا منفی اثرات سے بچتا ہو۔ یاریکی  
 ہیلتھ کلاسز لینی ہوں۔ اگر Skype پر کسی Topic پر لیکچر یا Career  
 Counselling کرنی ہو یا بچوں کی بری عادات کو چھڑانے کے لیے  
 ہماری مدد چاہتے تو رابطہ کریں۔ فرج علی 513 5155-306-001  
 Licenced Reiki Healer Poetess North America

## Dean's

### سکول وائٹ بوتل اسکول بیگ

### سکول یونیفارم سٹیشنری وغیرہ

اب اپنا من پسند یونیفارم اپنے سکول میں رکھیں  
 رابطہ 0300 8454285  
 35760625-26  
 G-4 گلبرگ سینٹر میں بلو وارڈ بال تقابل Pace لاہور

Imamia Jantri Official By Iftikhar Book Depot . Download from Googleplay-IO5playstore

علم الاعداد نجوم جفر اسم اعظم موکلات الواج شرف سیارگان

## روحانیت پیشہ یا تجارت نہیں بلکہ خدمت خلق خدا کا بہترین ذریعہ ہے

گھریلو ناچاقی شادی میں رکاوٹ جاب نہ ملنا	روزگار کی کمی انٹراہ @ بندش رزق من پسند شادی	بے اولادی @ عدم ترقی جنات کا سایہ @ جادو سحر @ آسیب	تمام ستاروں کے شرف کی الواج سونا پالش شدہ و رو شدہ، صدقات ادا شدہ، ساتوں ستاروں شمس، مریخ زہرہ، عطارد، قمر، مشتری، زحل کی 17 الواج کا سیت حاصل کر کے زندگی نوگوار بنا سکتے ہیں 5000 - نقلیہ مدد و مدد فریہ شدہ 3000 <b>استارہ نری</b>
سیارگان کی نحوست کے اثرات تعلیم میں رکاوٹ	اولاد کے رشتوں میں رکاوٹ محبت میں ناکامی	بیٹا ہونے کی تمنا علوم روحانی سیکھنا نظر بد اور مسلسل نقصانات	

ہر ماہ کی 21+22 کو یونائیٹڈ ہونٹ ڈاکٹر داؤد پوتارہ و صدر کراچی ہر ماہ کی 8 تاریخ کو اقمرو ہونٹ چوک مدد و حسام ریلوے روڈ ملتان صبح 9 تا دوپہر 1 بجے  
ہر ماہ کی 29 تاریخ کو پاکیزہ ہونٹ نزد یاسر بروست بالقابل خان بابائیکہ ہونٹ چوہدری لاہور۔ ہر ماہ کی 11 تاریخ کو ریز ہونٹ چوہدری گھاٹ لٹل آباد  
صبح 9 بجے تا دوپہر 1 بجے ہر ماہ کی 10 تاریخ کو الفارق ہونٹ کبھی چوک مری روڈ راولپنڈی صبح 9 تا عصر 4 بجے **ملاقات کی کوئی نہیں نہیں**

ہر مسئلہ اور پریشانی کے حل کے لیے فون یا بلاشائے رابطہ کریں **جمہور اور اتوار کو دفتر کھلا ہوتا ہے** ملاقات کے لیے آنے سے قبل فون پر راستہ دریافت کر لیں

**آغا حسنین احمد** ستارہ 24 کولڈ میڈیٹ (PSA) ہاؤس نمبر 41 سٹیج ویلی ہاؤسنگ سکیم بالقابل ٹویٹا شوروم کراچی  
چوک انہر پور ہائی پاس نیشنل ہائی وے بہاول پور

0300-6802983, 0331-7560412  
0340-3278598, 0311-1617924  
Email: aghahasnainahmad@gmail.com

رابطہ فون کے اوقات (وقت کی پابندی کریں)  
فون صبح 9 تا 2 بجے دوپہر۔  
شام 7 بجے تا عشاء 10 بجے

عزاداری پیرس فرانس

7 سالہ

عزاداری پیرس فرانس

19 اپریل 2020

Paris France

پیرس فرانس

عظما کریم ذوالکرہین

پاکستان اور یورپ  
بھر کے معروف فضائل و مصائب محمد وآل محمد بیان کریں گے

مجلس مزاحیہ معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے نہیں بکے ہر رابطہ کریں  
www.facebook.com/zikremohsineinsaniyat

سید کاٹیا حسین نقوی سید علی رضا نقوی

زیر سرپرستی: سرکار قائد آل محمد

چوہنگ ملتان روڈ لاہور کی مرکزی

22 ویں سلسلہ شہادت یا علی مدد  
سیدہ شہیدہ شہباز

مجلس کے اختتام پر  
شعبہ تابوت روضہ  
سلام اللہ علیہا

مجلس کا طرز النہج

بروز اتوار  
8 مارچ 2020  
8 بجے صبح تا رات

برمکان  
حیدر علی میر  
بالقابل دربار بابا پتھر  
عدالت علی شاہ چوہنگ  
ملتان روڈ لاہور

مجلس کا طرز النہج  
ہوا سرکار سید چاہلی نقوی انتہائی  
اکمل تقی زہرا شہید علامہ ناصر عباس  
والدین مرحومین  
تبع شیعان امیر المؤمنین

نوٹ: سالانہ مجلس عزامارچ کا دور اتوار  
ملتان روڈ لاہور

ملک کے عظیم اکرم ذوالکرہین فضائل و مصائب محمد وآل محمد بیان فرمائیں گے

معروف علامہ کریم ذوالکرہین

الداعیان الی الخیر

سعادت علی میر محمد علی میر لیاقت علی میر بابا علی میر  
پسران حاجی شوکت علی میر (مرحوم) چوہنگ لاہور

Contact: 0321-7861213

LIVE MAJLIS: WWW.YAMIRAAN.COM

Imamia Jantri Official By Frikhar Book Depot. Download from Googleplay-IOSplaystore

<p>بانی صف عزا 21 محرم الحرام سنگت مسافرہ شام سالار باواسید قیصر عباس نقوی امامیہ کالونی لاہور</p>		<p>منتظم اعلیٰ - 21 محرم الحرام سنگت غلامان علی اکبر سالار سید ارشد شبیر شیرازی جہلم</p>		<p>زیر سرپرستی - سرکار قائم آل محمد چوتھی سالانہ شہادت سید اری ماتم ہی ماتم 21 محرم بعد از مغربین تا مرضی امام زمانہ امام بارگاہ حسینہ مندرا نوالہ سیالکوٹ</p>	
<p>سنگت گلستان معرفت سالار سید عارف حسین کاظمی گوجرانوالہ</p>	<p>شاہ نظر دیوان مشہدی سالار سید باہا خواجہ علی شاہ مشہدی سید کسراں راولپنڈی</p>	<p>صدائے عباس سالار چوہدری یاسر عباس موجیاں والا منڈی بہاوالدین</p>	<p>شہید ذوالجناح رات 10 بجے برآمد ہوگی - منتظمین اعلیٰ - حاجی میثم رضا ساہی عمران حیدر منہاس کویت والے ڈاکٹر ذوالفقار احمد منہاس</p>	<p>شریک صف عزا - سید علی رضا صاحب سید طلعت حسین ترمزی نقوی سید فاخر حسین رضوی - ملک اصغر حسین نحیر عباس - ذوار عامر رضا قطر - سردار حسن رضا ذوار ملک مرید عباس - ذوار عامر علی ذوار ظفر عباس - ذوار علی عمران جعفری ذوار کاظم عسکری ساہی - ذوار افضل حسین جعفری حاجی محسن رضا - تنویر حسین جعفری ارشد محمود عاصم وڑائچ</p>	
<p>ماتمی دستہ باب الحوائج سالار ربیلو شاہ جی قصور</p>	<p>سنگت نو جوان علی اکبر سالار سید خرم عباس نقوی سید باقر حسین بھوانہ چنیوٹ</p>	<p>سنگت حبیب ابن مظاہر سالار سید وقار حسین شاہ سانگلہ ننکانہ</p>	<p>شریک صف عزا - سید علی رضا صاحب سید طلعت حسین ترمزی نقوی سید فاخر حسین رضوی - ملک اصغر حسین نحیر عباس - ذوار عامر رضا قطر - سردار حسن رضا ذوار ملک مرید عباس - ذوار عامر علی ذوار ظفر عباس - ذوار علی عمران جعفری ذوار کاظم عسکری ساہی - ذوار افضل حسین جعفری حاجی محسن رضا - تنویر حسین جعفری ارشد محمود عاصم وڑائچ</p>		
<p>سنگت سیدہ ام المصائب نوحہ خواں زوار اعجاز حسین بھٹی سالار صابر حسین جازب لیہ</p>	<p>سنگت غلامان باب الحوائج سالار سید اقرار حسین گجرات</p>	<p>کاروان امام موسیٰ کاظم سالار زمان شاہ مشہدی سرگودھا</p>	<p>شریک صف عزا - سید علی رضا صاحب سید طلعت حسین ترمزی نقوی سید فاخر حسین رضوی - ملک اصغر حسین نحیر عباس - ذوار عامر رضا قطر - سردار حسن رضا ذوار ملک مرید عباس - ذوار عامر علی ذوار ظفر عباس - ذوار علی عمران جعفری ذوار کاظم عسکری ساہی - ذوار افضل حسین جعفری حاجی محسن رضا - تنویر حسین جعفری ارشد محمود عاصم وڑائچ</p>		
<p>سنگت دعائے زہراء سالار سید علی رضا محلہ حیدرآباد فیصل آباد</p>	<p>سنگت شہزادہ امیر قاسم سالار قاضل حسین مومن ذوار انضال حسین راچیاں مومن پورہ شیخوپورہ</p>	<p>سنگت وفائے عباس سالار وسیم عباس اوکاڑہ</p>	<p>گدائے درہنول حاجی زوار اشفاق جعفری 0304-4158919 محمد علی جعفری</p>		
<p>سنگت شباب علی اکبر سالار زوار علی رضا - مشرف علی پنڈی بھیاں حافظ آباد</p>	<p>سنگت نو جوانان علی اکبر سالار نقیس حیدر ساہی نوحہ خواں - مدد علی جون مندرانوالہ سیالکوٹ</p>	<p>سنگت شیخان حیدر کرار صدر قمر عباس بھٹی سالار محمد اسلم نارووال</p>	<p>زوار اشفاق جعفری اینڈ برادرز نجف اشرف عراق 00964 7706431063</p>		
<p>سنگت سپاہ علی اکبر صدر زوار جاوید عباس سالار افضل شاکر دیروال چکوال</p>	<p>انجمن تبلیغ ماتم شبیر سالار نیاز حسن ملتان</p>	<p>زوار اشفاق جعفری اینڈ برادرز نجف اشرف عراق 00964 7706431063</p>			



زوار اشفاق جعفری  
اینڈ برادرز  
نجف اشرف عراق  
00964 7706431063

EUROPE LARGEST MARKAZI MAJLIS E AZA IN UK

برطانیہ میں یورپ کی مرکزی تاریخی 20 ویں سالانہ

روحانی شرکت



التما من سورہ فاتحہ  
بکمل خیرات  
شہید ناصر عباس

جلسہ تلاوت و محترمہ

بلسلسہ شہادت سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا

SUNDAY 19 JULY 2020 7:01 AM

BENHAM SPORTS ARENA, KINGS PARK ROAD  
MOULTON PARK, NORTHAMPTON NN3 6LL UK

پاک و ہند کے ممتاز علماء کرام، ذاکرین عظام، شعراء، منقبت خواں  
و نوحہ خواں صاحبان فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔

باہر سے آنے والوں کے لئے نزدیکی ایئر پورٹ لندن لوٹن، برمنگھم اور ہیٹھرو لندن ہیں

LIVE COVERAGE → WWW.YAHUSSAIN.CO.UK

خواتین میں شبیہ تابوت جناب سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا برآمد ہوگا

ناشتہ صبح 7 بجے 9 بجے لنگر حسنی 2 بجے دن 5 بجے پنفلٹ تقسیم کرنے، بینر یا اشغال لگانے کے لئے انتظامیہ کی اجازت ضروری ہے

منجانب انجمن غلامان حضرت عباس (رضی اللہ عنہ) والائی ٹاؤن نار تھامپٹن (AGHA UK)

اہم کمیونٹی نیوز کے لئے ہمارے پیج کو لائیک کیجئے

WWW.FACEBOOK.COM/AGHAUK

AZADAR INTERNATIONAL برطانیہ سے پاکستان پیسے بھیجنے کیلئے رابطہ کریں

UK TO PK MONEY TRANSFER 01604 63 88 42 - 07738 166 619